



ہادی عالم

سیرت طیبہ پر پہلی نئی منقو کتاب

محمد ولی رازیؒ

دارالاحیاء

ہادی عالم

وَلَّى
الْحَمْدُ
لِلَّهِ

وَلَّى
الْحَمْدُ
لِلَّهِ

سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کا حایل اُرْدُو کا وہ واحد رسالہ
کہ اُس کی بہرِ طر اور بہرِ کلمہ اُرْدُوئے مُعَرَّات سے مُرْتَع ہے اور علیٰ طور سے محکم ہے

مُحَمَّد وَلِی (رازِی)

خَدِیْعَةُ الْعِلْمِ



طبع کاپتہ

۴۳۴- بی، اشرف منزل، ویب روڈ، گارڈن ایٹ — کراچی

فون نمبر:

اس کتاب کے تمام حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

تفصیح و اضافہ شدہ جدید ایڈیشن

اشاعتِ چہارم	مئی ۱۹۸۷ء، رمضان المبارک ۱۴۰۸ھ
باہتمام	فرید اشرف عثمانی
ناشر	دارالعلم، لسبیلہ چوک کراچی
طباعت	احمد پرنٹنگ کارپوریشن، ناظم آباد، کراچی
سرورق اور عنوانات	سید النور حسین شاہ صاحب نفیس رقم لاہور
کتابت	مشتاق احمد خوشنویس، جلاپور جٹاں
تعداد اشاعت	گیارہ سو
قیمت مجلد اعلیٰ	

ملنے کے پتے

دارالعلم - اشرف منزل، گلڈن ایسٹ کراچی ۵
ادارۃ اسلامیات - ۱۹۰۰ - انارکلی لاہور
ادارۃ القرآن - اشرف منزل، لسبیلہ چوک کراچی
ادارۃ المعارف - دارالعلوم کورنگی کراچی
دارالاشاعت - اُردو بازار کراچی نمبر ۱

تعارف

ہادی عالم کے بارے میں حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ کی رائے

ہادی عالم ڈاکٹر سید محمد عبداللہ کی نظر میں

مقدمہ

جسٹس مولانا محمد تقی عثمانی صاحب

مطالعہ ہادی عالم

جناب رئیس امر دہلوی صاحب

جذباتِ تشکر

ہادی عالم کے بارے میں حضرت مولانا ذاکر عبدالحی صاحب مدظلہ کی رائے

الحمد لله رب العلمین۔ والصلوة والسلام علی سید المرسلین
وعلی آله واصحابہ اجمعین ۵

پیش نظر کتاب ”ہادی عالم“ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ پر مشتمل ہے۔ ابتدائے اسلام سے آج تک نہ جانے کتنی بے شمار کتب سیر مختلف زبانوں میں مورخانہ انداز میں عالمانہ انداز میں، عارفانہ انداز میں، عاشقانہ انداز میں لکھی جا چکی ہیں اور لکھی جاتی رہیں گی۔ لیکن ادیبانہ انداز میں سیرت کے موضوع پر زیر نظر کتاب ”ہادی عالم“ اپنی شانِ انفرادیت کا ایک عجیب شاہکار ہے۔ کتاب کافی ضخیم ہے اور تقریباً سوا چار سو صفحات اور پورے دو سو عنوانات پر مشتمل ہے۔ نیز بیشتر لوازمات سیرت نگاہی سے متصف ہوتے ہوئے اپنے انداز کی ندرت و جدت کے اعتبار سے زبانِ اردو کے خزینہٴ ادب کے لئے سرمایہٴ فخر و مباہات ہے۔ اس کتاب میں ملہانہ خصوصیت یہ ہے کہ ابتداء سے انتہا تک جس قدر مضامین معرضِ تحریر میں آئے ہیں، ان کے کسی حرف پر بھی نقطہ نہیں ہے۔ یعنی پوری کتاب صنعتِ غیر منقوٹ نویسی سے مرقع و مزین ہے۔ اس کے باوجود کسی جملے میں یا ربط عبارت میں یا بیان کی سلاست و روانی میں یا مفہوم کی ادائیگی میں یا واقعات کی تفصیل میں کہیں بھی کسی مقام پر بھی کوئی خلش یا ابہام نہیں ہے۔ ذوقِ اہل خیال ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ صاحبِ سیرت صلی اللہ علیہ وسلم

سے شرفِ نسبت حاصل ہونے کا ایک اعجاز ہے۔ ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ
مَنْ يَّشَاءُ۔

اس سیرتِ طیبہ کے مصنف و مرتب عزیزم محمد ولی رازی عثمانی سلمہ
ہمارے محترم و مشفق بزرگ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ
کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی صاحب موصوف کو کمالاتِ علوم ظاہری و
مدارجِ معارفِ باطنی میں مبینا نب اللہ اس دورِ حاضر میں ایک خاص مقام امتیازی
عطاء ہوا تھا۔ حضرت مولانا مفتی صاحب موصوف حکیم الامت، مجدد الملت،
محی السنن حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی قدس سرہ العزیز کے
ممتاز و مخصوص خلفاء میں تھے۔

علاوہ ازیں انہوں نے جس بے مثال جذبہٴ اخلاص و ایثار کے ساتھ
کراچی میں دارالعلوم کی بنیاد رکھی ہے، وہ اُن کے لئے ایک غیر فانی یادگار ہے۔
حضرت مدوح پاکستان کے مفتی اعظم بھی تھے۔

محمد ولی رازی عثمانی سلمہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم و تربیت دینی کے ساتھ کراچی
یونیورسٹی سے اسلامی علوم میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ایم اے کی سند بھی حاصل
کی ہے۔ لیکن مزید برآں انہوں نے جہاں اپنے والد ماجد سے ذکاوتِ فہم
اور فراستِ علم کی دولت پائی ہے وہاں محبوبِ رب العالمین، حضرت محمد مصطفیٰ ص
کے ساتھ تعلقِ محبت کے جذبات کی میراث بھی حاصل کی ہے۔ اس حقیقت کی
شاہدِ ناطق خود اُن کی یہ تصنیف ”ہادی عالم“ ہے۔ اللہم ذلک الحمد و ذلک الشکر۔
یہ امر اُن کے لئے باعثِ عز و شرف بھی ہے اور موجبِ شکر و امتنان بھی۔

ماہرینِ علم و ادب و نکتہ سنجان فکر و نظر حیب اس کتاب کا مطالعہ کریں گے

تو اُن کو جس طرح ادبِ اُردو کی وسعت و جامعیت پر تعجب ہو گا، اُسی طرح ادبِ اُردو پر مُصنّف کے عبورِ کامل اور اُسلوبِ نگارش کی جدت پر بھی حیرت ہو گی۔

ایں سعادت بزورِ بازو نیست

تما نہ بخشند خدا سے بخشندہ

اللہ تعالیٰ اپنے نبی الرحمة صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بے نوا امتی کے اس
مذرانہ عقیدت و محبت کو ثمرِ قبولیت اور اپنی رضا کے ساتھ سعادتِ
والدین نصیب فرمادیں۔ آمین ثم آمین !

دُعا گوئے خیر و برکت

احقر محمد عبد الحمی عفی عنہ

شوال ۱۴۰۲ھ
اگست ۱۹۸۲ھ



تاثرات

ڈاکٹر سید محمد عبداللہ

مولانا محمد ولی رازی نے جو ایک ممتاز علمی خاندان کے چشم و چراغ ہیں، ایک ایسا کارنامہ انجام دیا ہے جس کی مثال اردو زبان میں موجود نہیں۔ انہوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس انداز میں مرتب کی ہے کہ اس خاصی بڑی کتاب میں منقوٹ حروف لکھیں نہیں آیا۔ اکبر کے زمانے میں فیضی نے سوانح اللہام کے نام سے اس صنعت میں تفسیر لکھنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ کوئی مسلسل کتاب نہ تھی۔ محمد ولی رازی نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل زندگی غیر منقوٹ حروف کی ترکیب و ترتیب سے اردو میں لکھ کر اپنی ذہانت و فطانت کا کمال کر دکھایا ہے۔ اردو میں نقطہ وار حروف بہت زیادہ ہیں اس لئے رازی کی مشکل کا اندازہ لگانا دشوار نہیں۔

اس پر قابل ستائش اور موجب حیرت امر یہ ہے کہ مصنف نے واقعات کی صحت کا پورا اہتمام کیا ہے اور اس بات کا خیال رکھا ہے کہ معمولی سے معمولی جزئی بھی تحقیق اور صداقت واقعہ کے خلاف نہ ہونے پائے۔ اس نگار خانہ عجائب پر محمد ولی رازی جملہ اہل علم کی مبارک باد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے جہاں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے واقعات زندگی رواں اور عام فہم زبان

میں پیش کرنے کا اہتمام کیا ہے، وہاں علم بدیع کی ایک مشکل صنعت (غیر منقوط) کو مکمل طور سے بامعنی عبارتوں میں استعمال کر کے جانفشانی کا ایک ایسا نادر نمونہ پیش کیا ہے جسے اردو زبان کے ذخیرے میں ایک پیش بہا اضافہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ انہوں نے جا بجا حواشی بھی لکھے ہیں جن کی بدولت اغلاق و ابہام کے شاذ و نادر مقامات کو سہل اور قابل فہم بنا دیا ہے اور اس کی وجہ سے کتاب خاص و عام کے لئے مفید بھی ہو گئی ہے اور مستند بھی۔

خدا تعالیٰ مصنف کو اجرِ جزیل عطا فرمائے۔ آمین !

(ڈاکٹر) سید عبد اللہ

صدر شعبہ اردو دائرہ معارف اسلامیہ

پنجاب یونیورسٹی لاہور

• الماس "اردو نگار لاہور

مارگست ۱۹۸۲ء



مقدمہ

حبش مولانا محمد تقی عثمانی صاحب
دارالعلوم کورنگی، کراچی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله وكفى وسلاماً على عباده الذين اصطفى -

نبی کریم، سرورِ دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایک ایسا سدا بہار موضوع ہے، جس پر بلا مبالغہ ہزار ہا مصنفین نے مختلف زبانوں میں خامہ فرسائی کی ہے۔ اس موضوع کے عشاق نے نہ جانے کس کس پہلو سے کس کس انداز میں سیرت طیبہ کی خدمت کر کے کتابوں، مقالوں اور معاین کا ایسا گہرا انقدر ذخیرہ تیار کر دیا ہے جس کی نظیر سیرت و سوانح کی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور آپ کی حیات طیبہ کے ایک ایک واقعہ کو بہت ہی دنیا تک محفوظ کرنے کے لئے جس دیوانہ وار محنت اور جس مجاہد العقول کاوش کا مظاہرہ اس امت نے کیا ہے وہ بذاتِ خود سرکارِ دو عالم کا ایک معجزہ ہے جس کی ظاہری اسباب میں کوئی اور توجیہ ممکن نہیں۔

لیکن اس دیوانہ وار محنت کے باوجود جس کی تاریخ چودہ صدیوں کے طویل

عرصہ پر محیط ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ اس محبوب اور مقدس موضوع کا حق ادا ہو گیا اور اس بحرِ ناپید اکناہ کی تہ سے تمام موتی نکال لئے گئے۔ آج بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار سیرتِ طیبہ کے نئے نئے گوشوں پر اپنی کاوش و تحقیق کی پونجی بچھا کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے اور یہ سلسلہ انشاء اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک جاری رہے گا۔

چشمِ اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے
رفعِ شانِ رفعتِ لک ذکر کر دیکھے

جہاں معنوی اعتبار سے مختلف مصنفین نے سیرتِ طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ وہاں سیرت کے بیان و اظہار کے لئے بھی طرح طرح کے اسلوب اختیار کئے گئے ہیں۔ کسی پوری سیرتِ طیبہ کو شعر و نظم کے پیرائے میں بیان کیا ہے۔ کسی نے اُس کے لئے قافیہ بند نثر استعمال کی ہے۔ کسی نے اُسے دوسری ادبی صنعتوں سے سجا کر بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں تک کہ عربی کے متعدد علماء اور شعراء نے تو سیرتِ طیبہ کو ایسے قصیدوں میں نظم کیا ہے جن کا ہر شعر ایک نئی ادبی صنعت پر مشتمل ہے۔ ان میں صفی الدین الحلی (متوفی ۷۷۷ھ)، ابن جابر اندلسی (ولادت ۷۹۸ھ)، عز الدین موصلی (متوفی ۷۷۷ھ)، شرف الدین سعدی (متوفی ۷۸۷ھ) اور زین الدین آثاری (متوفی ۷۸۷ھ) بطور خاص مشہور ہیں۔ مؤثر الذکر نے اس قسم کے تین قصائد کئے ہیں جن کا ہر شعر ایک نئی ادبی صنعت کا شاہکار ہے۔ یہاں تک کہ علمِ بدیع کی تمام صنعتیں ان قصیدوں میں جمع اور پچ تو یہ ہے کہ ان پر ختم ہیں۔ یہ قصائد بدیعیاتِ الٹاری کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ احقر کی معلومات کی حد تک علمِ بدیع پر سب سے مبسوط کتاب مدنی کی ”انوار الرشیح“ ہے اور یہ کتاب جو چھ جلدوں پر مشتمل ہے، تمام تر ایک ایسے ہی قصیدے کی شرح ہے جو سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی

سیرت و شمائل پر مشتمل ہے اور جس کا ہر شعر بدیع کی کسی صنعت کا آئینہ دار ہے۔
 انہی ادبی صنعتوں میں سے ایک صنعت ”غیر منقوط تحریر“ ہے۔ اس قسم کی تحریروں
 میں صرف وہ حروف استعمال کئے جاتے ہیں جن پر نقطہ نہیں ہے اور فقط والے حروف
 سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی مشکل اور سنگلاخ صنعت ہے اور جس میں بہت کم
 ادباء پوری طرح کامیاب ہو سکے ہیں۔ لیکن احقر کے برادرِ معظم جناب محمد ولی دلاوی صاحب
 کو اللہ تعالیٰ نے علم و ادب کے نہایت متحررے مذاق اور بڑی قابل رشک ذہانت
 فطانت سے نوازا ہے۔ اُن کے دل میں یہ واعیہ بڑی قوت کے ساتھ پیدا ہوا کہ
 وہ ہر کارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ غیر منقوط نثر میں تحریر فرمائیں اور
 انہوں نے اس مشکل کام کا بیڑہ اٹھالیا۔

کسی خاص صنعت کی پابندی کے ساتھ کوئی عام ادبی تحریر لکھ لینا اتنا مشکل نہیں
 لیکن کسی دینی موضوع پر اور بالخصوص سیرتِ طیبہ پر کچھ لکھنا انتہائی نازک کام ہے۔
 یہاں ہر وقت یہ خطرہ رہتا ہے کہ کہیں الفاظ کے بناؤ سنگھار میں موضوع کے تقدس
 کو کوئی ٹھیس نہ لگ جائے۔ اسی لئے محتاط علماء نے دین و شریعت، تفسیر و حدیث
 اور سیرتِ طیبہ جیسے موضوعات کے لئے سادہ طرزِ تحریر کو زیادہ پسند کیا ہے اور
 ان موضوعات کی تحریروں میں لفظی صنعتوں کے پُر تکلف اہتمام کی حوصلہ افزائی
 نہیں کی ہے۔

چنانچہ جب برادرِ محترم موصوف نے ذکر فرمایا کہ انہوں نے غیر منقوط سیرتِ طیبہ لکھنے
 کا آغاز کر دیا ہے تو اس ماہ کی نزاکتوں کے پیش نظر کئی بار اُن کی خدمت میں یہ مؤدبانہ
 گزارش کرنے کا ارادہ ہوا کہ اس آزمائش میں پڑنا خلافِ احتیاط ہے۔ لیکن جب
 کبھی یہ ارادہ لے کر اُن کے پاس آیا تو اُن کے والہانہ جذبے اور اُن کے عزمِ محکم کے
 سامنے پیش نہ گئی۔ پھر جوں جوں اُن کے کام کی رفتار، ادب و احتیاط کی رعایت اور

بحیثیت مجموعی تحریر کی بے ساختگی سامنے آتی رہی تو یہ خیال سُختہ ہوتا گیا کہ اُن کے دل میں یہ ارادہ بجانب اللہ پیدا ہوا ہے۔ اُن سے ہفتے میں کم از کم ایک بار ضرور ملاقات ہوتی اور ہر بار یہ معلوم ہوتا کہ اُنہوں نے حیرت انگیز تیز رفتاری سے ایک بڑا حصہ مزید مکمل کر لیا ہے۔ یہاں تک کہ دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی ہفتوں میں کتاب مکمل ہو گئی اور احقر کو یقین ہو گیا کہ اس کتاب کی تالیف کسی پُر تکلف یا تصنع آمیز منصوبہ بندی کا نہیں بلکہ اُس جذبہ بے اختیار کا کرشمہ تھا جس کی رہنمائی قدرت کی غیبی طاقتوں نے کی ہے۔ لہذا اس جذبہ بے اختیار کی روانی کو روکنا کسی طرح نہ مناسب تھا نہ ممکن۔ سچ ہے کہ:

”لاکھ حکیم سر بنجیب ایک کلیم سر بکھ“

مجھے تحقیق سے معلوم نہیں ہے کہ سب سے پہلے غیر منقوط تحریر کس نے لکھی؛ لیکن میں نے اس کمال کا سب سے پہلا مظاہرہ بچپن میں ابوالقاسم حریری کی مقامات میں دیکھا تھا، یہ کتاب درسِ نظامی کے نصاب میں داخل ہے اور اس کا اٹھائیسواں مقام ایک ایسے خطبے پر مشتمل ہے جس کے کسی حرف پر نقطہ نہیں ہے۔ بلکہ حریری نے اس سے بھی زیادہ مشکل صنعت کا مظاہرہ انیسویں مقالے میں کیا ہے جس میں ایک خط اس الترام کے ساتھ لکھا ہے کہ اس کا ایک لفظ نقطوں سے یکسر خالی ہے اور دوسرے لفظ کے ہر حرف پر نقطے ہیں اور شروع سے آخر تک یہ پابندی برقرار ہے۔ اس خط کے یہ ابتدائی جملے آج تک میرے حافلے میں محفوظ ہیں :-

اَلْکَرَّمَ ثَبَّتَ اللّٰہُ جَبْشَ سَعُوْدٍ اَلْیَزِیْنِ
وَاللّٰزْمَ غَضَّ الدَّخْرُ جَفْنَ حَسُوْدٍ اَلْیَشِیْنِ

لیکن یہ دونوں تحریریں صرف چند صفحات پر مشتمل ہیں اور چند صفحات کی عبارت میں

اس قسم کے التزامات اتنے مشکل نہیں ہوتے۔ بالخصوص جبکہ اُن کا کوئی خاص موضوع بھی یقین نہ ہو۔ اس کے برعکس کسی ایک لگے بندھے موضوع پر سینکڑوں صفحات کی غیر منقوٰط کتاب لکھنا اس سے کہیں زیادہ کمال کی بات ہے۔

اس سلسلہ میں جس کتاب کو عالمگیر شہرت حاصل ہوئی وہ فیضی کی ”سواطع الالہام“ ہے جس میں اُس نے قرآن کریم کی غیر منقوٰط تفسیر لکھی ہے۔ فیضی کے نظریات سے قطع نظر اس میں شک نہیں کہ اُس کی یہ کتاب اس مخصوص صنعت میں ضرب المثل بن گئی اور اُسے دُنیا بھر میں پذیرائی حاصل ہوئی۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ فیضی کا کام بھی اتنا مشکل نہ تھا۔ جن حضرات نے اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ کوئی مسلسل کتاب نہیں ہے۔ بلکہ اُس میں ”تفسیر جلالین“ کے طرز پر قرآنی آیات کے بیچ بیچ میں تشریحی الفاظ بڑھا کر قرآن کریم کی تفسیر کی کوشش کی گئی ہے۔ اس طرح اس کتاب میں ایسی مسلسل عبارتیں بہت کم ہیں جو ایک ڈیڑھ سطر سے زیادہ لمبی ہوں۔ اس طریق کار میں فیضی کو سہولت یہ حاصل تھی کہ وہ قرآن کریم کے جس حصے پر چاہے تفسیری اضافہ کرے اور جس حصے پر چاہے نہ کرے۔ اس کے علاوہ اُس کے بیشتر جملے قرآنی آیات کے سہارے کھڑے ہیں۔ اگر صرف تفسیری الفاظ کو چوڑی دیں تو اکثر جملہ بھی پورا نہیں بنتا۔

ان تمام سہولتوں کے باوجود فیضی کی تفسیری عبارتیں عام طور پر اس قدر مُرتَلِق اور نامانوس الفاظ سے پُر ہیں کہ ان کو سمجھنے کے لئے ایک مستقل شرح کی ضرورت ہے اور اس کی تفسیر کو سمجھنا قرآن کریم کو براہِ راست سمجھنے سے زیادہ مشکل ہے۔ اس کتاب میں خلافِ محاورہ عبارتوں کی بہتات ہے اور بعض تعبیرات ایسی بھی اختیار کی گئی ہیں جن سے اُن کے اصل معنی پر دلالت بھی صحیح نہیں ہوتی۔ مثلاً یہودیوں کے لئے اہلِ ہود کا لفظ استعمال کیا ہے جبکہ حضرت ہود علیہ السلام کا بنی اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں۔

پھر یہ ساری کاوشیں عربی زبان میں تھیں جس کی وسعت کے بارے میں یہ کلیہ بڑی حد تک صحیح ہے کہ کسی بھی تین حرفوں کو جوڑ دیکھئے عربی زبان کا کوئی نہ کوئی باہمی لفظ ضرور بن جائے گا۔ اس زبان میں ایک ایک مفہوم کو ادا کرنے کے لئے بیسیوں الفاظ موجود ہیں۔ اس لئے اس میں غیر منقوط الفاظ کی تلاش آسان ہے۔ اس کے برعکس اردو زبان اول تو عربی کے مقابلے میں یوں بھی بہت تنگ دامن ہے۔ پھر اس کا صرفی ڈھانچہ کچھ ایسا ہے کہ اس میں نقطوں سے صرف نظر کر لی جائے تو تقریباً تین چوتھائی صیغوں سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔

اردو میں غیر منقوط تحریر لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ نفی یا نہی کا کوئی صیغہ تو کبھی استعمال ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ اس میں لازماً ”نہ“ ”نہیں“ یا ”مت“ آئے گا اور ان میں سے ہر لفظ منقوط ہے۔ چنانچہ اردو کی غیر منقوط تحریر صرف مثبت جملوں ہی پر مشتمل ہو سکتی ہے۔

پھر مثبت جملوں میں بھی مفارِع مطلق“ (مثلاً گرتا ہے) اور ”مستقبل“ (مثلاً گرے گا) کے صیغوں کا استعمال بھی ممکن نہیں۔ کیونکہ ان میں ت یا یائے منقوط کے بغیر علامہ نہیں۔ نیز ماضی میں بھی ماضی بعید اور ماضی استمراری کے استعمال کی کوئی صورت نہیں۔ کیونکہ ان میں لازماً لفظ ”تھا“ لانا پڑتا ہے۔ ماضی قریب کی اردو میں چار صورتیں ہوتی ہیں ”گرا ہے، گر گیا ہے، گر چکا ہے، کر لیا ہے“ ان میں سے صرف پہلی صورت غیر منقوط تحریر میں استعمال ہو سکتی ہے۔ باقی تین صورتوں کا استعمال ممکن نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ غیر منقوط تحریر میں صرف ماضی مطلق، مفارِع استمراری (گرتا رہا ہے) اور ماضی قریب کی صرف ایک صورت بمشکل استعمال ہو سکتی ہے اور

لے فاضل مولد ظلم نے مستقبل کے صیغوں کو رسم الخط بدل کر اس طرح استعمال کیا ہے کہ نقطوں کی ضرورت نہ پڑے۔ چنانچہ ”کر چکا“ کے بجائے ”کرے گا“ لکھا ہے۔ یہ تبدیلی بھی ان کی نکتہ دہی کا کرم ہے اور نہ کوئی مجہ جیسا ہوتا تو وہ مستقبل کے صیغوں کو منقوط سمجھ کر ان سے قطع نظر ہی کر لیتا۔ (م ت ع)

وہ بھی مثبت جملے میں۔ ان میں بھی صرف ”ماضی مطلق“ ایسا ہے کہ اُس کے تمام صیغے، واحد، جمع، مذکر اور مؤنث استعمال ہو سکتے ہیں ورنہ معنادرع استمراری اور ماضی قریب دونوں میں جمع کے صیغے استعمال نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ ان میں لازماً لفظ ”ہیں“ لانا پڑے گا جو منقوط ہے۔

اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اردو میں نقطوں سے بے نیاز ہو کر لکھنے کی کوشش اپنے آپ کو کس قدر تنگ دائرے میں مقید کرنے کے مرادف ہے۔ اس محدود دائرے میں رہ کر سیرت طیبہ جیسے موضوع پر تقریباً چار سو صفحات کی کتاب لکھنا ایک ایسا کارنامہ ہے جس کی کماحقہ تعریف کے لئے الفاظ طے مشکل ہیں اور یہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی کرم کے سوا کوئی اور توجیہ اس کی ممکن نہیں ہے۔

احقر نے برادرِ معظم کی اس تاریخی تالیف کے اکثر حصوں کے مطالعے کی سعادت حاصل کی ہے اور بفضلِ تعالیٰ یہ کہنے میں احقر کو کوئی باک نہیں کہ اس تالیف میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی توفیق اُن کے شامل حال رہی ہے۔ میں جب اس نازک اور مشکل کام کا تصور کرتا ہوں تو دانتوں کو پسینہ آتا ہے۔ لیکن برادرِ معظم موصوف اس راہ کے ہر مرحلے سے ایسی سلامتی اور خوب صورتی کے ساتھ گزرے ہیں کہ باید و شاید، اتنی شدید پابندیوں کے باوجود زبان کی سلاست و روانی بیشتر مواقع پر برقرار ہے۔ بلکہ غیر منقوط الفاظ کی پابندی نے بسا اوقات زبان میں اور مٹھاس پیدا کر دی ہے۔ مگر کارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتِ باسعادت کا یہ تذکرہ ملاحظہ ہو :-

وہ اللہ اللہ ! وہ رسولِ اُمّ مملود ہوا کہ اُس کے لئے صد ہا سال لوگ دُعا گو رہے۔ اہلِ عالم کی مُرادوں کی سحر ہوئی۔ دلوں کی کلی کھلی، گمراہوں

کو باطنی ملا حظے کو راعی ملا، ٹوٹے دلوں کو سہارا ہوا، اہل درد کو دیرا ملا، گمراہ حاکموں کے محل گرے۔ سال ہا سال کی دہکی ہوئی وہ آگ میٹ کے رہی کہ لاکھوں لوگ اُس کو الہ کر کے اُس کے آگے سر ٹیکائے رہے اور دود سا وہ ماء رواں سے محروم ہوا۔“

اس کے ساتھ الحمد للہ! موصوف نے احتیاط اتنی برقی ہے کہ واقعات کے بیان، مکالموں کی نقل اور آیات و احادیث کے مفہوم میں اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی گوارا نہیں کی۔ مختلف مقامات پر عربی عباراتوں کے جو ترجمے کئے ہیں۔ وہ تقریباً لفظ بہ لفظ ہیں۔ مثلاً حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے موقع پر حضرت ابوطالب نے جو خطبہ دیا اُس کے عربی الفاظ یہ ہیں :-

”الحمد لله الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وذریۃ اسماعیل
وضئنی معہ وعنصر مضر وحضنۃ بیتہ وسواس حرمہ و
جعل لنا بیتا معجبا وحرما آمنا وجعلنا الحکام علی الناس۔
ثم ان ابنی محمد بن عبد الله لایون بن بدر رجل الارحرج بلہ و
ان کان فی المال قل، فان المال ظل زائل وأمر حائل۔ و محمد من
قد عمر فتم قرأ الله منی قد خطب خدیجۃ بنت خویلد و بدل لها
من القداق ما أجله من مالی عشرين بعیرا وهو والله بعد
هذا لبناء عظیم۔“

اس خطبے کا یہ غیر منقوط ترجمہ ملاحظہ فرمائیے :-

و ساری حمد اللہ کے لئے ہے، اُسی کے کرم سے ہم معمارِ حرم (سلام اللہ علی روحہ) کی اولاد ہوئے اور اُس کے ولیدِ اول کے واسطے سے ہم کو مسلمہٗ معد کی طاہر اصل ملی، اُسی کے کرم سے ہم کو حرم کی رکھوالی کا اکرام ملا اور

ہم کو وہ مسعود گھر عطا ہوا کہ دُور دُور کے امصار و ممالک کے لوگ اُس کے لئے رہا ہی ہوئے۔ وہ حرم عطا ہوا کہ لوگ وہاں آکر ہر طرح کے دُر سے دُور ہوں، اسی گھر کے واسطے سے ہم کو لوگوں کی سرداری ملی۔ لوگو! معلوم ہو کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) وہ مرد صالح ہے کہ کتے کا ہر مرد اُس کی ہمسری سے عاری ہے۔ ہاں! مال اُس کا کم ہے، مگر مال سائے کی طرح ہے۔ ادھر آئے ادھر ڈھلے، اُس کو دوام کہاں؟ سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ مری سگی اولاد کی طرح ہے اور وہ اس صالحہ سے عروسی کے لئے آمادہ ہے اور ہمارے مال سے دس اور دس سواری اس کا مہر طے ہوا۔ اور اللہ گواہ ہے کہ اس مرد صالح کا معاملہ اہم ہے۔ وہ سارے لوگوں سے مکرم ہو گا۔ اور اُس کی اساس محکم ہو گی۔“

کتاب پوری آپ کے سامنے ہے، اس لئے اس کے زیادہ نمونے یہاں پیش کرنے کی ضرورت نہیں لیکن اقرع یہ ہے کہ غیر منقوط تحریر میں عربی عبارتوں کی ایسی ترجمانی نور اس میں احتیاط کا اتنا لحاظ ایک ایسا قابلِ ستائش کارنامہ ہے جس کا صدور اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ غیر منقوط کتاب لکھنے کا شوق یہ بھی کر سکتا تھا کہ سیرتِ طیبہ کے خاص خاص واقعات اختصار کے ساتھ بیان کر کے باقی کتاب کو لفظی سے بھر دیا جاتا، جس سے اس خاص صنعت کا مظاہرہ اصل اور سیرت (معاذ اللہ) تابع ہو جائے۔ لیکن بجز اللہ برادرِ معظم موصوف اس طریق کا رے محفوظ رہے ہیں۔ اُن کی یہ کتاب سیرت کی باقاعدہ کتاب ہے جس میں تمام تر سیرت کے واقعات ہی کا بیان ہے اور اس میں واقعات کی بعض ایسی جزوی تفصیلات تک بیان کی گئی ہیں جن سے عام طور پر سیرت کی مختصر بلکہ بعض متوسط کتابیں بھی خالی ہیں۔ مثلاً بعثت سے پہلے کے واقعات، اسلام کی ابتدائی دُور اور سفر

ہجرت وغیرہ کی جو تفصیل اس کتاب میں بیان کی گئی ہے، عام طور سے لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ چنانچہ اس کتاب کے مطالعہ سے صرف ادبی لطف اندوزی کا فائدہ ہی حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اس سے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کے بارے میں وہ گرانقدر معلومات حاصل ہوں گی اور ایسے واقعات سامنے آئیں گے جو اس ضخامت کی سیرت کی کتابوں میں نایاب یا کمیاب ہیں۔

تمام واقعات مستند کتابوں سے لئے گئے ہیں اور بیشتر مقامات پر ان کے حوالے بھی حاشیہ پر مذکور ہیں۔ بعض مقامات پر غیر منقوط الفاظ کی پابندی کی بناء پر عبارت میں کچھ گنجلک یا اشارات کا استعمال ناگزیر تھا۔ ایسے مواقع پر ان اشارات کی تشریح کے لئے بھی حواشی استعمال کئے گئے ہیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ایسی غیر منقوط کتاب میں جتنے اغلاق کا گمان ہو سکتا ہے، اس کتاب کے گنجلک مقامات اس سے حیرت انگیز حد تک کم ہیں۔

مختصر یہ کہ یہ تالیف سیرتِ طیبہ کی ایک گراں قدر خدمت ہے اور اردو زبان و ادب کے لئے تو ایک ایسے شاہکار کی حیثیت رکھتی ہے جس پر اردو زبان بلاشبہ فخر کر سکتی ہے۔ علم و ادب کے ایسے نادر عجوبے خال خال کمیں وجود میں آتے ہیں اور صدیوں تک یاد گار رہتے ہیں۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت سے نوازے، اسے فاضل مؤلف معظم کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے اور جس جذبہ عشق کے ساتھ وہ لکھی گئی ہے اُس پر انہیں دارین میں اجرِ جلیل عطا فرمائے۔ آمین، ثم آمین۔

محمد تقی عثمانی

خادم طلباء دارالعلوم کراچی نمبر ۱۲

دارالعلوم کراچی نمبر ۱۲

۱۲ شوال المکرم ۱۴۰۷ھ

مطالعہ ہادی عالم

(جناب رئیس، مسودہ نوی)

خدا شاہد ہے کہ میں شعر و ادب کے کسی ناورد اور عجیب شاہکار کو دیکھ کر اس قدر شرمندہ اور محزون نہیں ہوا جتنی حیرت، ہادی عالم کے مطالعہ سے ہوئی۔ شاعری کے اعلیٰ سے اعلیٰ نمونے نظر سے گذرے ہیں۔ ادب کی بے مثال تخلیقات سے بارہا لطف اندوز ہو چکا ہوں لیکن ادب کا کوئی شہ پارہ، شعر کا کوئی نمونہ اور شعر کا کوئی گلدستہ اس قدر حیرت آفرین ثابت نہیں ہوا جتنی حیرت جناب محمد ولی رازی کی تصنیف، ہادی عالم کے مطالعہ سے ہوئی۔ چار سو آٹھ (۸۰۸) صفحے کی یہ کتاب اردو محراب میں لکھی گئی ہے۔ یعنی پوری عبارت غیر منقوٹ حروف میں ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں فصاحت کی زبان گنگ اور بلاغت کے حواس خط ہو جاتے ہیں۔ زیر نظر تصنیف ہادی عالم کی مثال اردو تو اردو، عربی و فارسی زبان تک میں نہیں مل سکتی۔ فیض کی سوا طبع الالبام کے بڑے چرچے ہیں۔ لیکن وہ کوئی مسلسل عبارت نہیں، محمد ولی رازی کی یہ تصنیف اگر معجزہ نہیں تو ادبی کرامت ضرور ہے۔

صنعت غیر منقوٹ میں شعر کہہ لینا چندان مشکل نہیں۔ انیس و دو بیہ دونوں نے اپنے بعض مرثیوں میں صنعت غیر منقوٹ کو برتا ہے۔ مثلاً:

آگاہ کہیں طرح کہو عید کو مارا
صمصام کا اک دار ہوا کس کو گوارا

ہمارے معاصر احباب میں جناب حکیم راغب مراد آبادی اور جناب صبر تھراوی نے بھی صنعت غیر منقوٹ میں متعارف کئے ہیں۔ یہ بھی اپنے مقام پر پر لطف ہیں۔ لیکن

جناب محمد ولی رازی نے اس تصنیف میں تخلیقی ولایت کو کمال دکھایا ہے۔ لطف یہ ہے کہ عبارت رواں اور بیان برجستہ ہے اگر آپ کو یہ نہ بتایا جائے کہ یہ کتاب غیر منقوٹ حروف میں لکھی گئی ہے تو قاری کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس عجیب و غریب ادبی شاہکار کا مطالعہ کر رہا ہے۔ یہ ضخیم اور خوبصورت کتاب تین حصوں اور ایک سو پچھتر (۱۷۵) عنوانات پر مشتمل ہے۔ رسول اللہ کی عمر کے دورِ اقول سے لے کر آنحضرتؐ کے وصال مسعود تک تمام واقعات کو کمال صحت علمی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ میرا خیال (خیال ہی نہیں) یقیناً ہے کہ اس وضع کی کتاب مشکل ہی سے لکھی جا سکے گی۔ دارالعلم نے اس نادر روزگار کتاب کو نہایت حسن کاری اور سلیقہ مندی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ عیقدت سے قطع نظر ادبی ذوق کی تسکین کے لئے بھی ”یادنی عالم“ کا مطالعہ ہر ادب دوست کا فریضہ ہے۔

(مطبوعہ روزنامہ جنگ، ۲۱ جنوری ۱۹۸۳ء)

ضروری گذارش

یادنی عالم کے مطالعہ سے پہلے براہ کرم کتاب کے مشکل الفاظ و معانی کی فہرست، دیکھوں کی مراد، حرف ناشر، اور عرض مؤلف صفحات نمبر ۴۰ تا ۴۱ پر ملاحظہ فرمائیں۔ شکریہ

ہادی عالم

وَلَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ
الْحَيُّ الْقَيُّومُ

سُبْحَانَكَ
يَا حَمْدُكَ

سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کا حابل اُردو کا وہ واحد رسالہ
کہ اُس کی بہرِ نظر اور بہرِ کلمہ اُردوئے معرّات سے مُصنّع ہے، اور علیٰ طور سے محکم ہے

مجلد اولیٰ

دارالعلم



اللہ کے اسم سے کہ عام رحم والا، کمال رحم والا ہے

عکس

سلسلہ	احوال	سلسلہ	احوال
۵۶	رسول اللہ کی عروسِ مکرمہ	۲۹	سطورِ اول
۵۸	رسول اکرمؐ کی اولاد	۳۴	مدح رسولؐ
۶۰	اہلِ مکہ کا حکم	۳۵	حصہ اول
۶۲	رسول اکرمؐ کا دورِ اہلِ باص		رسول اللہؐ کی عمر کا دورِ اول
۶۶	رسول اللہؐ کی دعا گاہ	۳۷	مکہ مکرمہ اور اہلِ مدینہ کا ماحول
۶۶	ولدِ عمر سے مکالمہ	۳۸	رسول اللہؐ کے گھر والے
۶۸	حصہ دوم	۳۸	رسول اللہؐ کے دادا
	رسول اکرمؐ کا مکی دور	۴۰	اک حاکمِ مردود کا حملہ
۶۹	وحیِ اول کی آمد	۴۲	مولودِ مسعود
۷۱	وہ لوگ کہ اولِ اسلام لائے	۴۴	رسول اکرمؐ کے اسمائے گرامی
۷۴	رسول اللہؐ کا دورِ ملال	۴۵	رسول اکرمؐ کی داڑھی ماں
۷۴	گھلم گھلا امرِ اسلام کا حکم	۴۸	ملائک کی آمد
۷۶	اہلِ اسلام کا دورِ آلام	۵۰	والدہ مکرمہ کا وصال
۷۹	اک مملوکہ صالحہ کا معاملہ	۵۱	رسول اللہؐ کے دادا کا وصال
۸۰	عجمِ سرورانہ کا حوصلہ	۵۲	عجمِ سردار کے مالی احوال
۸۱	عجمِ سرورانہ سے اہلِ مکہ کا مکالمہ	۵۵	اک عالمِ وحی کی اطلاع

سلسلہ	احوال	سلسلہ	احوال
۱۲۸	رسول اکرم کو دوا یر مکہ کا حکم	۸۲	عیم سردار سے دوسرا مکالمہ
۱۳۲	ہمدیم مکرم کی حوصلہ دہی	۸۶	اس سال کا موسیم احرام
۱۳۵	راہ کے مراحل	۸۷	عیم رسول والد عمارہ کا اسلام
۱۳۷	اک صدائے نامعلوم	۸۹	اک مکی سردار سے رسول اللہ کا مکالمہ
۱۳۸	اک گھوڑے سوار کا معاملہ	۹۱	اسرائیلی علماء سے اہل مکہ کے سوال
۱۴۰	اسلمی سہمی کا اسلام	۹۳	ماہ کامل کے دو ٹکڑے
۱۴۳	حقہ سوم	۹۴	اہل اسلام کا رحلہ اول
	اعلائے اسلام کا دور	۹۶	رحلہ دوم
۱۴۴	رسول اللہ کی آمد آمد	۹۷	حاکم احمہ کا عمدہ سلوک
۱۴۶	اللہ کے گھر کی معماری	۱۰۰	ہمدیم رسول عمر کا اسلام
۱۴۷	اسلامی سال کا سلسلہ	۱۰۵	اہل مکہ کا معاہدہ عدم سلوک
۱۴۹	رسول اکرم کی معمورہ رسول آمد	۱۰۷	ہمدیم رسول دوسی کا اسلام
۱۵۱	رسول اکرم کا گھر	۱۰۸	مقصد رحہ رسول
۱۵۳	معمورہ رسول کے لوگ	۱۱۰	صدیوں کا سال
۱۵۴	اسرائیلی علماء کی آمد	۱۱۳	رسول اللہ سے اہل کسار کا سلوک
۱۵۶	حرم رسول کی معماری	۱۱۶	احوال اسراء
۱۵۸	ہمدیموں سے عمدہ سلوک کا معاہدہ	۱۲۱	وادئی احد کے لوگوں کا اسلام
۱۶۰	رسول اکرم کا وہاں کے لوگوں کا معاہدہ	۱۲۳	رسول اللہ کے مددگاروں کا عہد
۱۶۲	مکادوں کا گروہ	۱۲۶	اہل اسلام کو دوا یر مکہ کا حکم
۱۶۳	اس سال کے دوسرے احوال	۱۲۷	اہل مکہ کی کارروائی

۱۔ اسرائیل کا لفظ بغیر یاد کے اسرائیل بھی علمائے لغت سے منقول ہے۔ اس کا تفصیلی حوالہ ص ۵۳ پر دیکھئے۔

سلسلہ	احوال	سلسلہ	احوال
۲۰۶	معرکہ اُحد	۱۶۵	اک اہم حکیم الہی
۲۰۷	عم گرامی کا مراسلہ	۱۶۶	گرو داروغہ کی اول درس گاہ
۲۰۸	رسول اللہ اور مسلمانوں کی رائے	۱۶۸	ماہ صوم کے احکام
۲۱۰	اسلامی علم	۱۶۹	مکتاروں کے گروہ کی اک کارروائی
۲۱۱	مکتاروں کی اک اور کارروائی	۱۷۱	اسلام کے لئے لڑائی کا حکم
۲۱۳	حسام رسول	۱۷۲	اسلام کی بیہوشیوں اور معرکوں کا سلسلہ
۲۱۶	معرکہ عام سے قول کے احوال	۱۷۵	معرکہ اول کے اعلام
۲۱۶	والد عام کی اک مکروہ سعی	۱۷۹	اسلام کا معرکہ اول
۲۱۷	سرداروں کی اک الگ الگ لڑائی	۱۸۳	آدام گاہ رسول
۲۱۸	معرکہ عام	۱۸۵	رسول اکرم کی دعا
۲۱۹	عم اسد اللہ کی دلاوری اور فحالی	۱۸۶	اہل اسلام کی مدد کے لئے ملائکہ کی آمد
۲۲۰	گھائی والوں کی حکم عدولی	۱۸۷	معرکہ اول کی گہما گہمی
۲۲۲	علیہ السلام کا وصال	۱۸۹	معرکہ عام
۲۲۳	رسول اللہ کو گھاؤ کا صدمہ	۱۹۱	”محرور علم“ عمرو کی ہلاکی
۲۲۴	رسول اکرم کے لئے گمراہوں کا قتلہ	۱۹۵	محضوروں سے رسول اللہ کا سلوک
۲۲۹	رسول اللہ کی اک دلدادہ کا حال	۱۹۶	مال رہائی کی وصولی کی رائے
۲۳۰	معرکہ حمراء الاسد	۱۹۸	اس سال کے دوسرے احوال
۲۳۲	سالی سوم کے دوسرے احوال	۱۹۸	معرکہ الکد
۲۳۳	والد سلمہ کی مہم	۱۹۹	اک عدوئے رسول کی ہلاکی
۲۳۴	اک عدو اللہ کی ہلاکی	۲۰۰	اہل نیک گروہ سے معرکہ اسلام
		۲۰۲	اہل مکہ کی اک اور کارروائی

سلسلہ	احوال	سلسلہ	احوال
۲۹۴	رسول اللہ کے آگے اہل اسلام کا عہد	۲۳۶	عصائے رسول کی عطاء
۲۹۸	معاهدہ صلح کے طے کردہ امور	۲۳۶	گمراہوں کا اک اور دھوکہ
۳۰۰	معاهدہ صلح کا ردِ عمل	۲۴۱	ولد عمرو السعدی کی مہم
۳۰۳	معاهدہ صلح اسلام کی کامیابی	۲۴۵	دوسرے اسرائیلی گروہ سے معرکہ
۳۰۴	مکہ مکرمہ کے محصور مسلمانوں کا حال	۲۴۸	اسرائیلی گروہ کا محاصرہ
۳۰۹	ملوک عالم کو رسول اللہ کے مراسلے	۲۵۱	رسول اللہ کا اک اور معرکہ
۳۱۰	حاکم یوم کے لئے رسول اللہ کا مراسلہ	۲۵۴	معرکہ موعد
۳۱۵	کسری کے لئے رسول اللہ کا مراسلہ	۲۵۶	معرکہ دوم
۳۱۷	حاکم امجہ کے لئے رسول اللہ کا مراسلہ	۲۵۸	گمراہوں سے اک اور معرکہ
۳۲۰	حاکم مصر کے لئے رسول اللہ کا مراسلہ	۲۵۹	اک مملوکہ سے رسول اللہ کی عروسی
۳۲۳	ولدِ ساویٰ کے لئے رسول اللہ کا مراسلہ	۲۶۱	اک ہند اور اک مددگار کی لڑائی
۳۲۵	اک ہمسائے ملک کے حاکم کو ان کریم کا مراسلہ	۲۶۴	عروبِ مطہرہ کے لئے اک مکہ پرہ کا مدد
۳۲۷	اسرائیلی گروہ سے معرکہ اسلام	۲۶۹	کلام الہی کا درود
۳۲۹	اہل اسلام کے حملے	۲۷۱	معرکہ صلح
۳۳۳	حصائیہ اسلام کا محاصرہ	۲۸۱	اسرائیلی گروہ سے معرکہ
۳۳۴	اسود راعی کا اسلام	۲۸۴	اسرائیلی گروہ کا مال
۳۳۷	اجتہ کے ملک سے اہل اسلام کی آمد	۲۸۵	مددگار رسول سعد کا وصال
۳۳۸	طعامِ سم آلود	۲۸۷	محمد ولدِ مسلمہ کی مہم
۳۳۹	اس معرکے کے محاصل	۲۸۹	علی کریم اللہ کی مہم
۳۴۱	رسول اکرم کا عمرہ اول	۲۹۱	معاهدہ صلح

سلسلہ	احوال	سلسلہ	احوال
۳۸۱	اس سال کے دوسرے احوال	۳۴۳	مکتے کے دوسرواروں کا اسلام
۳۸۲	معرکہ عُسْرہ	۳۴۵	اہلِ روم سے معرکہ اسلام
۳۸۶	حاکمِ دُومہ کا حال	۳۵۰	سالِ اسلام کی حوصلہ دہی
۳۸۸	مکّاروں کا گڑھ	۳۵۲	سلاسل کی مہم
۳۸۹	اہلِ کسار کا اسلام	۳۵۳	ساحلی گروہ کی اک مہم
۳۹۱	امصار و محالک کے گروہوں کی آمد	۳۵۶	معرکہ مکہ مکرمہ
۳۹۵	اس سال کا موسمِ احرام	۳۵۸	اہلِ مکہ کا ملال
۳۹۷	رسول اللہ کا رحلہ و داغ	۳۶۰	رحلہ مکہ مکرمہ
۳۹۹	رسول اللہ کا اصولی اور اساسی کلام	۳۶۳	مردِ ایکہ کا اسلام
۴۰۳	رسول اللہ کا سالِ و داغ	۳۶۴	رسولِ اکرم کی مکہ مکرمہ آمد
۴۰۴	رسول اللہ کا وصالِ مسعود	۳۶۷	مکتے کے سرکردہ لوگوں کا اسلام
۴۰۶	رسول اللہ کے وداعی لمحے	۳۷۰	معرکہ وادی وادطاش
۴۰۸	اہلِ مطالعہ سے	۳۷۵	اہلِ کسار کا محاصرہ
۴۱۳	کلموں کی مُراد	۳۷۷	اولادِ سعد کے گروہ کی آمد
۴۱۶	اس رسالہ کے علمی وسائل	۳۸۰	مردہ ولدِ مسعود کا اسلام

KUTUBISTAN.BLOGSPOT.COM

سطورِ اوّل

(اللہ کے اسم سے کہ عام رحم والا، کمال رحم والا ہے)

اس کم علم و کم نگاہ کو احساس ہے کہ ہادی کامل صلی اللہ علیٰ رسولہ وسلم کے احوال مطہرہ کے حامل کسی رسالے کی لکھائی، اک اہم علمی معاملہ ہے اور اہل علم ہی کا کام ہے۔ اس کم علم کو اس کا حوصلہ کہاں؟ مگر اللہ کی درگاہ، کرم و عطا کی درگاہ ہے۔ اُس کا کرم حدود سے ماوراء اور لامحدود ہے اور اُس کی عطاء ہر کسی کے لئے عام ہے۔ اگر اُس کا ارادہ ہو، وہ مٹی کو گوہر کر دے اور محروم کو مال مال۔

اللہ کی عطا ئے کامل سے اک عرصے سے اس کم عمل کو اُس لگی رہی کہ اُس کی درگاہ سے کرم کی گنتا آٹھے گی اور اس عامی و کم عمل کو اس کا حوصلہ ہو گا کہ وہ سارے لوگوں سے اوّل اُردو کا ایک رسالہ کہ سرورِ عالم محمد صلی اللہ علیٰ رسولہ وسلم کے احوال کا حامل ہو، اس طرح لکھے کہ اُس کی ہر سطر اور ہر کلمہ ”سوا طبع اللہام“ کے کمال کی حامل ہو اور ”اُردوئے معرّٰی“ کے کمال سے معمور اور مرقع ہو۔ مگر علم سے عاری اور کمال سے محروم آدمی کمال کہاں سے لائے؟

ہر سطر اس کی اسوہ ہادی کی ہو گواہ اس طرح حالِ احمد مرسل کہا کروں
معمور اس کو کر کے معرّٰی سطور سے ہر کلمہ اس کا دل کے لہو سے لکھا کروں

لے سوا طبع اللہام، البوالفیض فیتی کی اُن تفسیری وضاحتوں کا ناک ہے جو انہوں نے غیر منقوط لکھیں۔ یہ کوئی سلسل کتاب نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کریم کے الفاظ اور جملوں کے مابین مختصر وضاحتی کلمات کا مجموعہ ہے۔ اس لئے جہاں تک مجھے علم ہے ہادی عالم، ”دنیا کی شانِ پہلی سیرت ہے جو غیر منقوط ہے۔

لے ”اُردوئے معرّٰی“ یعنی غیر منقوط اُردو جس میں ایک حرفت بھی نقطے والا استعمال نہیں ہوا ہے۔ غیر منقوط اُردو کے لئے مجھے اُردوئے معرّٰی سے بہتر کوئی لفظ نہیں مل سکا۔ (محمد ولی)

مگر لاکھوں حمد ہوں اللہ کے لئے کہ وہی سارے اُمور کا مالک و مولیٰ ہے۔ اُس کے کرم کی اک لہرائی اور اس امرِ محال کا ارادہ اور اس ہم کے اکمال کا حوصلہ عطا کر گئی دل کا اصرار ہوا کہ ”اُردو نے متعزاً“ کی اساس رکھ کر اُردو کا اک کامل رسالہ لکھوں۔

اول اَدل اس محال کام کی رُکاوٹوں اور اس راہ کے کوہِ پائے گراں کا احساس آئے ہوا۔ حوصلوں کو سردی سی لگی۔ دل سے کہا کہ اس امرِ محال سے دُور ہی رہو۔ اس وادی کی لامحدود رُکاوٹوں کو کس طرح طے کرو گے؟ اور اس گھاٹی کے رُوح گسل بھٹکے اور صدے کس دل سے سہو گے؟ مگر اس احساس سے ڈھا دس ہوئی کہ اگر اللہ کا ارادہ ہوا ہے کہ وہ اس کم علم و کم عمل سے کوئی کام لے، وہ لامحالہ اس کام کا حوصلہ دے گا اور اس راہ کے سارے مراحل طے کر دے گا۔ اس طرح راہ کی رُکاوٹوں کا ہر احساس ارادے کو اور محکم کر کے لوٹا۔

مآلیٰ کا اللہ کے کرم کے سہارے اُردو نے متعزاً کی اُس گھاٹی کے لئے رواں ہوا کہ اُس کا ہر ہر کام ٹھوکر وں سے معمور اور رُکاوٹوں سے مسدود ہے۔ اہل علم کو معلوم ہے

لے عربی زبان کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ حروفِ تہجی کے کوئی تین حروف، لے کر کسی ترتیب سے جوڑ دیجئے، کوئی بامعنی لفظ بن جلتے گا۔ اس کے مقابلے میں اُردو ذاتی طور پر قواعد، ترکیبوں اور ثنائی الفاظ کے اعتبار سے ایک مفلس زبان ہے۔ اُردو میں غیر منقوٹ نہ لکھنا کس قدر دشوار ہے، اس کا اندازہ اس سے ہوگا کہ اس کے کل حروفِ تہجی میں سے صرف اٹھارہ حروف غیر منقوٹ ہیں۔ اس کے علاوہ تمام صائثر سوائے چند کے منقوٹ ہیں۔ مثلاً میں، تُو، تُم، اُپ، اُن، اُنہوں، اُن کا، مجھ وغیرہ۔ بیشتر حروفِ جار کا یہی حال ہے۔ جیسے، پر، تک، نے، میں، وغیرہ۔ ان حروف کے بغیر کسی عبارت کا تصور ہی مشکل ہے۔ حروفِ شرطیہ و جزائیہ بیشتر اکی قبیل سے ہیں۔ جیسے چونکہ، چنانچہ، اگرچہ، جب، اور تب، وغیرہ سارے منفی الفاظ مثلاً نہیں، نہ، مت، وغیرہ سب خارج ہیں۔ اُردو کے عام طور پر ۹ فیصد، مصادر اور افعال نقطے والے ہیں اور خاص طور پر ماضی سب منقوٹ ہیں۔ مثلاً سو یا، کھا یا، گیا، آیا وغیرہ۔ فعلِ حال تو بالکل استعمال ہو ہی نہیں سکتا۔ لکھا تا ہے، پیتا ہے، سوتے ہیں وغیرہ۔ اسی طرح جمع کی تقویا تمام صورتیں خارج ازِ تحریر ہیں۔ اگر کوئی لفظ واحد میں غیر منقوٹ ہے تو وہی جمع میں اگر منقوٹ ہو جلتے ہیں (باقی حاشیہ ص ۳۱ پر)

کہ اُردو نے معرّٰی راہِ لاحد و دُر کا وٹوں سے کس طرح اُٹی ہوئی ہے۔ اس لئے اک اک سطر کے اکمال اور ہر کلمے کے حصول کے لئے نہ گرواں گھوما ہوں اور اُردو کا ہر دُر کھٹکٹا کے محروم نہ ہوں۔ ادھر اس راہ کے لئے اک کام اُٹھا اور ادھر دُر کا وٹوں کے کوہ ہائے گراں آگے کھڑے ہوئے۔ ہر کام ٹھوکر لگی، مگر ہر ٹھوکر اللہ کی مدد لے کر آئی۔ اسی مدد کے سہارے اُٹھا اور لڑ کھڑا کر آگے رواں ہوا۔ اس راہ کے سارے مراحل کام کام کر کے اور اللہ اللہ کر کے اسی طرح طے ہوئے۔ اللہ کے کرم سے راہ کی ہر دُر کا وٹ دھول ہو کر اڑ گئی۔

۷ اللہ کے کرم کا سہارا ملے اگر ! کُھسار ہو کے دھول ہو کر اُڑے

کرم ہی کرم ہے اُس مالک الملک کا اور واسطہ ہے اسمِ رسول اکرمؐ کا کہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حال کی لکھائی سہل ہو گئی اور سارے احوالِ رسول اکرمؐ اس طرح مسطور ہوئے کہ سالِ بدو سے لے کر لمحہ وصال کے سارے احوال، سال و آہ آگئے اور عالمِ اسلام کے محکمِ علمی وسائل سے حاصل کر کے اور اُردو نے معرّٰی سے وضع کر کے لکھے گئے اور دینی عاصی اس کا اہل ہوا کہ اُس کے واسطے سے ”ہادی عالم“ کا دس سالہ لوگوں کو ملے اور اس طرح اُردو کو وہ کمال حاصل ہوا کہ اس سے آگے وہ اس کمال سے محروم رہی۔ الحمد للہ ”ہادی عالم“ اُردو کا واحد اور اَوّل رسالہ ہوا کہ اُردو نے معرّٰی کے اصول سے مسطور ہوا۔ مگر لوگوں کو معلوم رہے کہ سارا کام اللہ کے کرم اور اُس کی عطائے کامل سے ہوا۔ اس لئے اگر رسالہ ”ہادی عالم“ کو کوئی عُمَدگی اور کوئی کمال حاصل ہے، وہ ساری عُمَدگی اور کمال اللہ ہی کا ہے اور اس کے لئے

(تقریباً حاشیہ ص ۳۳ سے آگے) لڑکی سے لڑکیاں، ہے سے ہیں، سوئی سے سوئیں، آئی سے آئیں، وغیرہ۔ اس کے علاوہ دنیا کی مقدس ترین ہستی کی سوانح لکھتے وقت انتہائی ضروری ہے کہ حالات و واقعات سرِ موبدیل نہ ہوں، ہوا کا اس طرح پابند ہونا خود ایک رکاوٹ ہے۔ میرے لئے قطعی ناممکن تھا کہ اتنی ضخیم کتاب غیر منقوٹ لکھتا۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ ذَا لَکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیْ مَنْ یَّشَاءُ۔

(محمد مددولی)

ساری حمد کا اہل وہی ہے۔ اس رسالے کا محرر ہر علمی دعوے سے دور ہے اور اللہ ہر مسلم کو علم و عمل کے دعوؤں سے دور ہی رکھے۔ اس لئے کہ ہر علم اور آدمی کا ہر عمل اُسی کی عطا اور اُسی کا کریم ہے۔

ہاں ! اس کم علم و کم عمل کا دل اس امر کے لئے اللہ کی حمد سے معمور ہے کہ سامنے لوگوں سے اقل اسی کو اس امر محال کا حوصلہ اور ارادہ عطا ہوا اور اللہ کا ارادہ ہوا کہ وہی لوگوں کے لئے ”ہادی عالم“ کا واسطہ ہو۔ الحمد للہ !

دوسرے اس احساس سے دل متور ہے کہ اس کم علم و کم عمل کی ساری عمر لا حاصل اور مہمل کاموں سے گھری رہی۔ اللہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اس کم علم سے کام لے اور الحمد للہ عمر کے وہ لمحے کا آمد ہونے کے اس مسعود کام کے لئے گھرے رہے۔ اس کے علاوہ اس احساس سے کمال مسرور ہوں کہ اس عاصی و کم عمل کا اسم ”ہادی عالم“ کے واسطے سے رسول اکرمؐ کے احوال مطہرہ کے محضروں کے ہمراہ آئے گا۔ (الحمد للہ)

اہل مطالعہ کو گاہے گاہے احساس ہو گا کہ اس رسالے کی اردو کسی کسی مرحلے اگر اردو کے عام محاورے سے ہٹ گئی ہے۔ مگر اہل علم کو معلوم ہے کہ ہر وہ آدمی کہ اردو کے معرکی راہ کا راہی ہو گا، اُس کا واسطہ اس طرح کے امور سے لامحالہ ہے گا۔ گو محرر کی ہر طرح سعی رہی کہ وہ محال اور لامعلوم کلمے کم سے کم لکھے اور اللہ کا کرم ہے کہ اسی طرح ہوا، عام طور پر ”ہادی عالم“ کی اردو سہل ہی لکھی گئی۔ مگر گاہ گاہ اس طرح کے کلمے آگئے کہ عام اہل مطالعہ کے لئے گراں ہوں گے۔ اس لئے وہ کی اس طرح دور کی گئی کہ اس طرح کے محال کلموں، اسماء اور احوال کی اصل مراد اک حصہ الگ کر کے لکھ دی گئی اور ہر کلمہ اعداد لکھے گئے کہ ہر عدد کے واسطے سے اُس کلمے کی اصل مراد معلوم ہو۔

لے ہر صفحہ پر ایک فٹ نوٹ اور حاشیہ دے کر اُس صفحہ کے شکل، الفاظ اور حالات و واقعات کی تشریح اور سیرت طیبہ کے واقعات کے ماخذ کے حوالے دے دیئے گئے ہیں۔

اس امر کو معلوم کر کے اہل مطالعہ سرور ہوں گے کہ اس رسالے کے سارے مسطورہ احوال کی اساس علمائے اسلام کے وہ علمی وسائل ہوئے کہ ہر طرح علمی طور سے محکم رہے اور مکمل سعی کی گئی کہ ہادی عالم "صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حال مسعود ماہر علماء کے حوالے سے مسطور ہو۔ اس لئے سارے احوال کے حوالے لکھے گئے کہ اس رسالے کے سارے احوال کو علماء کی گواہی حاصل ہو۔

اس طرح "ہادی عالم" دو طرح سے اہم ہے۔ اول اس لئے کہ اُس کو اردو نے معرّا "کا وہ کمال حاصل ہے کہ اردو کا ہر رسالہ اس کمال سے محروم رہا۔ دوسرے اس لئے کہ اُس کے سارے احوال اور مسطورہ امور علمی طور سے محکم کر کے لکھے گئے۔ اس طرح "ہادی عالم"، موٹے موٹے اور محال الحصول علمی وسائل کا اک عمدہ ماتحتل ہو گا۔

اردو کو اک رسالہ الامام دوں ولی لوگوں کو دور ہادی عالم، عطا کروں

عام اہل مطالعہ سے اور اہل علم سے دل کو اُس ہے کہ وہ اس رسالے کا مطالعہ کر کے اس کے محرّر کے لئے دعا گو ہوں گے کہ اللہ اس کی سعی کو کامیاب کرے اور اس محروم علم و عمل کو اس کے واسطے سے اس عالم مادی اور اس عالم ہمدی کا سرور اور آرام عطا کرے اور لوگوں کے لئے اس رسالہ کو کارآمد کر کے اُس کو عموم کئی عطا کرے۔

اہل مطالعہ اور اہل علم سے سوال ہے کہ اگر اس کے مطالعہ سے وہ لوگ محرّر کے کسی سہو اور کسی کمی سے آگاہ ہوں، وہ محرّر کو اس کی اطلاع دے کہ اُس کی دعاؤں کے حامل ہوں۔

دعاؤں کا سائل

"محمد ندولی"

(اٹھارہ مئی - سال آتی اور دو)

مدح رسولؐ

(در اُردوئے معرّا)

مُحَمَّدٌ وَلِيٌّ

ہر لمحہ مجھ روئے مکرم رہا کروں	ہر دم درودِ سرورِ عالم کہا کروں
صلیٰ علیٰ سے دل کے دکھوں کی دوا کروں	آہم رسولؐ ہوگا، مداوئے دردِ دل
اس طرح حالِ احمدِ مرسلؐ کہا کروں	ہر سطر اس کی آسوہ ہادی کی ہو گواہ
ہر کلمہ اس کا دل کے لہو سے لکھا کروں	معمور اس کو کر کے معرّٰی سطور سے
آہم رسولؐ سے ہی دردِ دل کو داکڑوں	گو مرحلہ گراں ہے، مگر ہو رہے گا طے
طے اس طرح سے راہ کا ہر مرحلہ کروں	ہر دم رواں ہو دلِ سُرورِ دوں کا سلسلہ
دل کی ہر اک مُراوِ طے، گم دعا کروں	دستِ دوں اگر رسولؐ مکرم کا واسطہ!
اللہ کے کرم کے سہارے رہا کروں	اس کے علاوہ سارے سہاروں کا ٹوٹ کر
اللہ کے کرم کا اگر آسرا کروں	ہو کر ہے گاسمل ہر اک مرحلہ کڑا

اُردو کو ایک رسالہ الہامِ دوں ولی
لوگوں کو دورِ ہادی عالمِ عطا کروں

اللہ کے اسم سے کہ عام رحم والا، کمال رحم والا ہے

حصہ اول

رَسُولِ اَكْرَمِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

کا

دَوْرِ اَوَّل

رَسُولِ اَكْرَمِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی عمر خود
کے اول حصے کے سارے احوال کا حال ہے

اللہ کے اسم سے کہ عام رحم والا کمال رحم والا ہے۔)

امامِ رسول، سرکارِ دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لاکھوں درود و سلام کہ اُس کا ہر عمل اور اُس کی ہر ادا، وحیِ الہی کے اسرار لئے ہوئے ہے۔ لاکھوں سلام اُس مہتممِ علی کو کہ اُس سے طلوع سے صبح ہا سال کی گزرا ہی اور لائے لوگوں کو رہائی ملی۔

وہ رسولِ اُمّی کہ اللہ اُس کا مُعتمِد ہے، وحی اُس کا مدرسہ۔ علم اُس کی کلی ہے، اور عدل اُس کی کرسی ہے۔ رحم و کرم اُس کا علم ہے اور صلہٴ رحمی اُس کا درس۔ وہ ہادیِ کامل کہ اس کا گھر علوم و وحی کی درس گاہِ اقل ہوا۔ وہ مُعتمِدِ علوم و حکیم کہ سارے عالم کے حکماء اُس کے آگے گرد۔ وہ رسولِ طاہر و مطہر کہ اُس کی دُعا سے لوگ موالی سے ملوک اور عامی سے بلیکی ہوئے۔ وہ مصلحِ کامل و اکمل کہ اُس کی اک اک ادا سے کردار و عمل کو کمال حاصل ہوا اور اُس کی مساعی سے سارے عالم کے گمراہ اور علم سے محروم علم و آگاہی کے امام ہوئے اور علم و عمل کا وہ کوہِ گراں کہ کلامِ الہی اُس کے لئے گواہی دے کہ ”اُس کا ہر عمل سارے عالم کے لئے اُسوۃ کاملہ ہے۔“

وہ امامِ اُرسِل کہ معیارِ عظم، سلام اللہ علیہ روحہ کی دُعا ہے۔ وہ رسولِ مکی کہ سارے رسولوں کو اُس کی آمد کی اطلاع دی گئی۔ وہ رسولِ موعود کہ اُس کی آمد سے اہلِ عالم کے لئے اللہ کا وعدہ مکمل ہوا۔ وہ موردِ وحی کہ اس کے لئے لوگوں کو اللہ کا حکم

لے قرآنِ کریم کا ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ۖ لِّمَن كَانَ مِنْكُمْ

تمہارے لئے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زندگی میں، بہترین نمونہ ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام۔

ہوگا کہ :-

”ہر وہ امر کہ اللہ کا رسول لوگوں کو دے، اُس کو لے لو اور ہر اُس امر سے کہ وہ لوگوں کو روکے، دُور رہو۔“

وہ دئی مُرسِل کہ اُس کا اسم ”احمد“ اللہ کا وحی کردہ ہے۔ وہ احمد مُرسِل کہ سالہا سال، اہل عالم اُس کی آمد کے لئے مَحْجُود عار ہے۔ وہ مردِ کامل کہ ”رُوح اللہ“ (سلام اللہ علی رُوحہ) اس کی اطلاع لے کر آئے، وہ لمحہ موعود آ کے رہا۔ اور مکہ مکرّمہ کی وادی اُس کی آمد سے معمور ہو کے رہی۔

مکّہ مکرّمہ اور اِر دگر دکا ماحول

اہل مکّہ اور اُس مُلک کے سارے لوگ سالہا سال سے گروہ درگروہ ہو کر بسے اور دائم اک دوسرے کے عدد ہو کر معرکہ آرا رہے۔ مٹی کے گھڑے ہوئے ایلوں کے مُلوک ہوئے اور ہر مکّہ وہ امر کے عادی رہے۔ حسد، ہٹ دھرمی، گمراہی اور لاعلمی، مکاری اور دھوکہ دہی، لوٹ مار اور حرام کاری، وہاں کے لوگوں کا معمول رہی۔ ہر آدمی اسی طرح کے اسلحہ سے مسلّح ہو کر اک دوسرے کے لہو کے لئے آمادہ رہا۔ لڑائی اور مار کٹائی سے ہر لمحہ سروکار، حلال و حرام کے علم سے محروم، ہمدردی اور صلہ رحمی سے کوسوں دُور۔ الحاصل عالم کے سارے ممالک سے اس مُلک کا حال دگر ہوا۔

۱۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے مَا آتَيْنَاكَ إِلَّا سَوَالٌ فَخُذْ دَعْوًا مِّنْهُمْ فَانْهَاهُمْ عَنْهَا -

”جو کچھ رسول تم کو دے وہ لے لو اور جس سے تم کو نفع کرے اُس سے باز رہو۔“

۲۔ رُوح اللہ تضرّت علیہ السلام کا لقب ہے۔

رسول اللہ کے گھروالے

مگر اللہ کے حکم سے ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروالے اس ملک کے عام مکارہ سے عموماً دور رہے اور حرم مکہ کے رکھوالے ہو کر صلہ رحمی، ہمدردی، سادگی اور عطاء و کرم کے حامل رہے۔ ہر سال مہکم حرام کے ماہ ذی قعدہ کے گروہ مکہ مکرمہ آئے اور ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروالوں سے ہر طرح کا آرام اور سکھ لے کر لوٹے۔ اس لئے عام طور سے اُسٹر رسول کے لوگ اہل مکہ کے سردار رہے اور سارے ملک کے گروہوں کے لئے مکرم ہو کر رہے۔

رسول اللہ کے دادا

ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اہل مکہ کے سردار ہوئے اور اللہ کے کرم اور اُس کی مدد سے رسول اللہ کے دادا کو مولودِ مسعود کے سال سے اُدھر اس طرح کے اکرام اور احوال عطا ہوئے کہ دوسرے اہل مکہ اس سے محروم رہے۔ ”مآءِ مطہر“ کا وہ محل کہ صدہا سال سے مسدود اور لاعلم رہا، اللہ کے حکم سے اُس کی اطلاع رسول اللہ

۱۔ مکارہ: برائیاں ۲۔ صرف یہ ایک لفظ علامہ ابو الیقین فیفی کی غیر منقوط عربی کتاب ”مواطع الامام“ سے لیا گیا ہے۔ (مختصر دلی) ۳۔ اُسٹر: خاندان -

۴۔ طبقات ابن سعد کی روایت ہے کہ حضرت عبدالطلب کو خواب میں ابیہ بن زمر کے کنوئیں کی اطلاع دی گئی۔ پہلے دن خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے: طیبہ کو کھودو۔ انہوں نے پُراپا طیبہ کیا ہے؟ دوسرے دن کہا کہ برہہ کو کھودو، انہوں نے کہا کہ برہہ کیا ہے؟ تیسرے دن سنا کہ مضمونہ کو کھودو، کہ مضمونہ کیا ہے؟ چوتھے دن آواز آئی کہ ”احقر بن زمر“، زمر کو کھودو، انہوں نے کہا کہ مانم زمر؟ زمر کیا ہے جواب ملا کہ زمر زمر وہ ہے کہ اس کا پانی ختم ہو گا اور نہ اس کی خدمت ہو گی۔ حاجیوں کو سیراب کرنے کا اور وہ اس جگہ ہے جہاں مال چوپچہ والا کو کرید تا رہتا ہے۔ حضرت عبدالطلب نے وہ جگہ تلاش کر کے کنواں کھودا اور زمر نکل آیا۔

(طبقات ابن سعد ج ۱، صفحہ ۱۲۸)

کے دادا ہی کو دی گئی اور اُس کی مساعی سے وہ ”مایدہ مہتر“ اہل مکہ کو ملا۔ اس کے علاوہ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے عمدہ سلوک کے سارے لوگ مداح رہے۔ ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے کئی سال اُدھر سے اُسمرہ رسول کے لوگ اللہ کے حکم سے طرح طرح کے اکرام اور اللہ کی عطاء و کرم کے حامل ہوئے اور لوگوں کو احساس ہوا کہ اس مکرم گھر کو کوئی امیر اہم عطا ہوگا۔ اس لئے اہل مکہ اور اہل دیگر د کے لوگوں کے دل تکتے کے سرواہوں کے اس گھر کے اکرام سے دائم معمور رہے اور سارے اہم امور کے لئے رسول اللہ کے دادا کی رائے لوگوں کے لئے اہم ہوتی۔ کسے معلوم کہ اس مکرم گھر ہی کو وہ مولود مسعود عطا ہوگا کہ اہل عالم اُس کی آمد کے لئے رُعاگو رہے اور وہ رسول اُمم اس گھر سے اُٹھے گا کہ سارے عالم کی اصلاح کا اہم کام اُس کے حوالے ہوگا اور وہ مہر سلطوع ہو کہ علوم و حی سے سارے عالم کو دمکارے گا اور اللہ کا وہ رسول موعود کہ رسولوں کو اُس کی اطلاع دی گئی۔ مکہ مکرمہ ہی کی وادی سے طلوع ہوگا۔ اسی لئے اُس رسول اکرم کی آمد سے اُدھر مکہ مکرمہ اور اُس کے اہل و گھر اس طرح کے احوال آگے آئے کہ وہاں کے لوگوں کو احساس ہوا کہ اللہ کے حکم سے کسی امیر اہم کی آمد آمد ہے۔ الحاصل وہ سال مسعود کے رہا کہ اہل عالم کو وہ رسول اہم ملا کہ اُس کی مساعی سے اہل عالم کی اصلاح ہوئی اور وہ ٹوٹے دلوں کا سہارا ہوا۔



اک حاکم مردود کا حملہ

علمائے اسلام سے مروی ہے کہ مولودِ رسولؐ کے سال اک ہمسائے ملک کا حاکم اک عسکر لے کر اس ارادے سے مکہ مکرمہ کے لئے راہی ہوا کہ وہ حرمِ مکہ کو ڈھاکر اور سجاد کر کے لوٹے۔ مگر اللہ کی مدد آئی اور وہ حاکم مع سارے عسکر کے وہاں اکریلاک ہوا۔ اس حملے کا مکمل حال اس طرح ہے کہ اُس حاکم کو معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ کا اک گھر دُور دُور کے لوگوں کے لئے اکرام کا گوارہ ہے اور ہر سال ”موسمِ احرام“ کو امصار و ممالک کے لوگ وہاں اکرمہ و دعا اور اس گھر کے ”دُور“ کے عامل رہتے ہیں۔ اُس مردود کو اللہ کے گھر سے حسد ہوا اور ملک کے لوگوں کو حکم ہوا کہ ”دارُ اللہ“ سے سوا اک عمدہ گھر کی معماری نہ کرو اور لوگوں کو حکم دو کہ وہ مکہ مکرمہ سے دُور رہ کر اُس ملک کے لئے راہی ہوں اور اس صومعہ کا دُور کر کے حمد و دعا سے مسرور ہوں۔ اس طرح اُس حاکم کے حکم سے اک عمدہ صومعہ کی معماری کی گئی اور سارے لوگوں کو حاکم کا حکم ملا کہ لوگ مکہ مکرمہ کے گھر سے دُور رہ کر اس گھر کے لئے راہی ہوں اور وہاں اکرمہ و دعا کر کے مسرور ہوں۔ اس حکم سے لوگوں کو عام طور سے دکھ ہوا۔ حرمِ مکہ کا اک دلدادہ ارادہ کر کے اُٹھا کہ وہ لامحالہ اُس صومعے کے لئے کوئی مکروہ کام کرے گا۔ وہ اُس ملک کے لئے راہی ہوا اور کسی طرح رسائی حاصل کر کے اُس صومعہ کو کوڑے کرکٹ سے آلودہ کر ڈالا اور وہاں سے سونے مکہ مکرمہ دوڑا۔ اس امرِ مکروہ کی اطلاع اُس حاکم کو کی گئی، وہ حسد کی آگ سے دبک اُٹھا اور کہا

لے حاکمِ یمن: ابرہہ بن الاشرج۔ لے موسمِ احرام: موسمِ حج۔ لے مصر کی جمع: یعنی شہر۔ لے دُور: طوفان
 لے دارُ اللہ: بیتُ اللہ۔ لے صومعہ: مندر۔ لے یہ شخص نفیل الخشعی تھا۔

(طبقات ابن سعد حصہ اول ص ۱۴۲)

کہ لامحالہ وہ مکروہ علی کسی مکہ کے آدمی کا ہو گا۔ اس لئے اُس کا ارادہ ہوا کہ وہ اکیلا
 کو ہمراہ لے کر سونے مکہ مکرمہ راہی ہو اور مکہ مکرمہ کو حرم الہی سے محروم کر کے لوٹے۔
 اس طرح وہ حاکم مرد و کئی گروہوں کو ہمراہ لے کر حملے کے ارادے سے سونے مکہ
 راہی ہوا اور مکہ مکرمہ سے اُدھر اک مرتبے آکر رُکا اور لوگوں کو حکم ہوا کہ مکے والوں کے
 اموال لوٹ لو۔ لوگ وہاں سے ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے کئی اموال^۱
 لوٹ کر لے گئے۔

رسول اللہ کے دادا کو اس امر کا حال معلوم ہوا۔ وہ اک آدمی کے ہمراہ اُس
 حاکم کی درود گاہ آئے اور اُس سے پل کر کہا کہ ہمارے اموال ہم کو لوٹا دو۔ وہ حاکم
 کھڑا ہوا اور کہا کہ اے سردار! ہم کو اطلاع دی گئی کہ مکے کا سردار اک مرو صالح اور
 حوصلہ ور آدمی ہے اور سارے لوگوں سے سوا مکرم ہے، مگر ہم کو دھوکہ ہوا ہے۔ اس
 لئے کہ مکے کا سردار اموال کے لئے مصر ہے۔ ہم کو اُس رہی کہ وہ حرم مکہ کے لئے ہم
 سے کہے گا۔ مگر مکے کا سردار حرم مکہ سے الگ رہا۔ رسول اللہ کے مکرم دادا کھڑے
 ہوئے اور کہا کہ اے حاکم ہمارے اموال ہم کو لوٹا دو۔ حرم مکہ کا مالک اللہ ہے،
 وہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ ہی اُس کا حامی و مددگار ہو گا۔ اُس گھر سے کسی طرح کا
 سلوک کر، اس لئے کہ اللہ سارے حاکموں کا حاکم ہے۔ وہ اُس گھر کے اعداء کو اُس گھر
 سے دُور ہی رکھے گا۔ رسول اللہ کے دادا اور اہل مکہ کے سردار مکہ مکرمہ لوٹے اور لوگوں

سے روایات میں ہے کہ ابیہہ کے اوگ حضرت عبدالمطلب کے مویشی جو دہاں چر رہے تھے بکڑ لگے (بقیہ ان سطور)
 ابیہہ سے لوگوں نے کہا کہ اے ابیہہ! کتے کا وہ سردار تم سے ملنے آ رہا ہے کہ سارے عرب میں سب سے زیادہ
 شرف و عظمت والا ہے اور لوگوں کو خطیات دیتا ہے اور کھانا کھلاتا ہے۔ جب حضرت عبدالمطلب نے اُس سے
 مویشیوں کے لئے کھانا اور بیت اللہ کے بارے میں کوئی گفتگو نہ کی تو اُس نے تعجب سے کہا کہ میرا گنا تھا کہ تم بیت اللہ
 کی بابت گفتگو کرو گے، مگر تم تو آؤ رُٹ لینے آئے ہو، اس لئے جو اطلاع تمہارے بارے میں مجھے ملی وہ دھوکے
 پر مبنی تھی۔ اس پر حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ دراصل اس گھر کا ایک رب ہے اور وہی اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔
 (طبقات ابن سعد ۱۴۳)

کہ ہمراہ لے کر کوہِ جِرا آ گئے اور رور و کر اللہ سے دعا کی :

”ہاے اللہ! اس مکرم گھر سے حملہ آوروں کو دُور کر دے۔ سارے حاکموں کا حاکم اللہ ہے اور اُس کا حکم سارے حاکموں کو حاوی ہے“

ادھر اللہ کا حکم ہوا اور طائروں کے ٹھٹھ کے ٹھٹھ مٹی کے ڈلے لے کر آئے اور اس مسلح گروہ کو وہ ڈلے اس طرح مارے کہ ادھر وہ مٹی کے ڈلے لوگوں سے سُس ہوئے اور ادھر وہ لوگ اُس کے صدمے سے گلِ مٹر کر گرے۔ اس طرح اللہ کے عدو ہر طرح سے مسلح ہو کر آئے اور مالِ کار اللہ کے ارسال کردہ طائروں سے ہلاک و رُسوا ہوئے۔ کلامِ الہی کی اک مکمل سورہ اس عسکرِ اعدا اور اُس کے مال کے احوال سے معمور رسول اللہ کو وحی کی گئی۔

الحاصل سالِ مولود سے ادھر کا سارا دُور اسی طرح کے احوال سے معمور ہے۔ ہر حال کو الگ الگ کہاں لکھوں۔ اس طرح کے دوسرے احوال علمائے اسلام سے مکمل طور سے مسطور ہوئے۔ اہلِ مطالعہ کو سارے امور و ہاں مطالعہ سے معلوم ہوں گے۔

مولودِ مسعود

ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدِ مکرم اس مولودِ مسعود کی آمد سے کئی ماہ ادھر رات ہی ناکِ عدم ہوئے۔ رسول اللہ کی والدہ مکرمہ سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ کی حاملہ ہو کر دو رِ حمل کے ہر دکھ اور ہر الم سے دُور رہی اور دل کو اک طرح کا سُور

۱۔ سورہ نیل اسی واقعہ پر مشتمل ہے۔ ۲۔ طبقات ابن سعد اور سیرت النبی میں اس درد کے غیر معمولی حالات کی تفصیل موجود ہے، وہاں دیکھے جاسکتے ہیں۔ ۳۔ حمل کے دوران حضرت آمنہ کو کُرَن گرائی محسوس نہیں ہوئی۔ (سیرت خاتم الانبیاء از مولانا مفتی محمد شفیع صاحب)

سارہا۔ سال مولود کے ماہِ سوم کی دس اور دو تہے۔ سوموار کی سحر ہوئی اور مآلِ کار وہ لمحہ مسعود آئے رہا کہ رسول اللہؐ کی والدہ کی گود اُس ولدِ مسعود سے ہری ہوئی اور وہ اہل عالم کی اصلاح کے لئے مامود ہو کر مولود ہوا۔ اسی لمحہ مسعود و محمود کے لئے سارا عالم مادی کھڑا رہا اور اسی ولدِ مسعود کو "لولاک" کا عمدہ مکرم عطا ہوا۔

اللہ اللہ! وہ رسولِ اتم مولود ہوا کہ اُس کے لئے سدا سالِ لوگ دُعا گور ہے۔ اہلِ عالم کی مُرادوں کی سحر ہوئی۔ دلوں کی کلی کھلی، گمراہوں کو ہادی ملا، گتے کو راعی ملا، ٹوٹے دلوں کو سہارا ملا، اہلِ درد کو درماں ملا، گمراہ حاکموں کے محلِ گرے، سالِ سال کی دہکی ہوئی وہ آگِ بیٹ کے رہی کہ لاکھوں لوگ اُس کو الہ کر کے اُس کے آگے سر ٹکائے رہے اور دو سا وہ ماءِ رواں سے محروم ہوا۔

رسول اللہؐ کے مکرم دادا کو اطلاع ہوئی وہ اولاد کے ہمارا گھر دوڑے اور ولدِ مسعود کو گود لے کر اللہ کے گھر گئے اور وہاں آکر اس طرح دُعا کی۔

”ہر طرح کی حمد ہے اللہ کے لئے کہ اک دلِ طاہر و مسعود ہم کو عطا ہوا۔

وہ لڑکا کہ گہوارے ہی سے سارے لڑکوں کا سردار ہوا۔ اس لڑکے کو

اللہ کے حوالے کر کے اُس کے لئے دُعا گو ہوں کہ اللہ اُس کا سہارا ہو اور وہ

اِس کو ہر مکر وہ اُسر سے دُور رکھے اور اِس کو عمر عطا کرے اور حاسدوں سے

۱۰ ۱۱ ربیع الاول ۱۱ھ ایران کے بادشاہ کسریٰ کے محل میں ٹیکہ لسی وقت نہ لڑا آج اس وقت آنحضرتؐ کی ولادت ہوئی اور اس نہ لڑے سے اُس کے محل کے چودہ کنگرے گر گئے۔ اسی طرح ملکِ نادر کے آنکھ کے آگِ بویک ہزار سال سے نہ بچتی تھی سر ہو گئی اور نادر کا ایک دریا بکر سا وہ خشک ہو گیا (سیرت خاتم الانبیاء بحوالہ سیرت منغلطی ص ۳۰)۔ ۱۲ اس موقع پر حرمِ آنحضرتؐ عبدالمطلب نے یہ اشارہ پڑھے۔

الحمد لله الذی اعطانی هذا الغلام الطیب الماردان
قد ساد فی المهد علی الغلمان اعینک باللہ ذی المارکان
حتی اراح بالبع البنیان اعینک من شر ذی شنان

دور رکھے۔“

رسول اکرمؐ کے اسمائے گرامی

علمائے اسلام سے مروی ہے کہ ہادی کاملؑ کا اسم مسعود احمدؑ اللہ کا وحی کردہ ہے۔ محمد ولد علیؑ سے مروی ہے کہ اُمّ رسول حاطہ رسول ہوئی، اُس کو اللہ کا امام ہوا کہ اس مولود کا اسم ”احمد“ رکھو۔

اسی طرح محمد ولد علیؑ سے مروی ہے کہ ”ہمد رسولؑ“ علی کریمؑ اللہ کو رسول اللہؐ سے مسموع ہوا کہ ہمارا اسم احمد ہے“ اور احمد ہی وہ اسم ہے کہ اللہ کے رسولؐ روح اللہؐ سے لوگوں کو معلوم ہوا اور کلام الہی کا حصہ ہے۔

ولد مُطعمؑ سے مروی ہے کہ رسول اللہؐ لوگوں سے ہم کلام ہوئے اور کہا ”محمد ہوں، ماحی ہوں، احمد ہوں، رسولِ ملحمہ ہوں“

دوسرے کئی علماء سے مروی ہے کہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا رکھا ہوا اسم محمد ہے۔ اہل علم کی رائے ہے کہ اُس دور کے اہل علم سے لوگوں کو معلوم ہوا کہ اک رسولؐ مکہ مکرمہ کی وادی سے آئے گا اور اُس کا اسم محمد ہوگا۔ اسی طبع کے لئے اُس دور کے کئی لڑکوں کے اسم ”محمد“ رکھے گئے۔



ابو جعفر محمد بن علیؑ: طبقات ابن سعد ۳۵ صحابہ کرام کے لئے اُدود کا کوئی ایسا لفظ نہیں مل سکا جو غیر منقوہ ہو، اس لئے ہمد رسول کا لفظ اس کتاب میں صحابی کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ ۳۵ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰؑ کے بارے میں ارشاد ہے: وَمَبَشِّرَا بُرْسُوْلًا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّكُمْ لَمَعْلُوْمُوْنَ اَحْمَدُ اور وہ خوشخبر، نیک رکھے تھے ایک رسولؐ کی کہ وہ میرے بعد آئے گا اور اُس کا نام احمد ہوگا۔ ۳۶ حضرت جبریلؑ معلوم فرما۔ (ابن سعدؒ) ۳۷ طبقات ابن سعد۔

رسول اکرمؐ کی دانی ماں

اول اول اس ولید مسعود کو مسروح کی ماں کا دودھ ملا۔ مسروح کی ماں ہانڈی اکرم کے اس عتم عدو کی مملو کہ یہی کہتے کے سارے لوگوں سے سوا، رسول اکرمؐ کا عدو رہا۔ اور کلام الہی اس کی ہٹ دھرمی اور ہلاکی کا گواہ ہوا۔ اس سے آگے اسی مملو کا دودھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر اک عتم ہندم کو ملا۔ وہ عتم ہندم اسلام لا کر رسول اللہؐ کے حامی ہوئے۔

اس دور کی عام رسم یہی کہ بچے کے سر داروں کے سارے لڑکے کسی دانی کے حوالے ہوں اور وہ گاؤں کی کھلی ہوا کے عادی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مکرمہ کا ارادہ ہوا کہ رسم مکہ کی دوسے وہ ولید مسعود کسی دودھ والی کے حوالے ہو کہ گاؤں کی کھلی ہوا اور وہاں کا سادہ ماحول رسول اللہؐ کو سادگی کا عادی کرے۔ اسی سال اولاد سعد کا اک کا رواں مکہ مکرمہ آکر وارد ہوا اور گھر گھر گھوما کہ مکہ مکرمہ کے سارے مولود اس کے حوالے ہوں۔ ہر اک کو بچے کے سر داروں کے لڑکے مل گئے۔ مگر اک دانی سارے گھروں سے گھوم کر محروم لوٹی۔ مال کا وہ دانی گلی گلی گھوم کر رسول اللہؐ کے گھر آئی۔ مگر وہاں آکر معلوم ہوا کہ اس گھر کا مولود والد کے سائے سے محروم ہے۔ والدہ مکرمہ آمادہ ہوئی کہ ولید مسعود کو اس دانی کے حوالے کر دے۔ وہ

۱۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ۲۔ حضرت ثویبہؓ: یہ ابولہب کی لونڈی تھیں۔ ان کے ایک لڑکے مسروح نامی تھے جو آنحضرتؐ کے رضاعی بھائی ہیں۔ ۳۔ ابولہب: سورہ لب میں اس کی اور اس کی بیوی کے لئے سخت وعید آئی ہے۔ ۴۔ حضرت حمزہؓ نے بھی حضرت ثویبہؓ کا دودھ پیا تھا۔ اسی رشتے سے وہ آنحضرتؐ کے رضاعی بھائی ہوئے۔ ۵۔ قبیلہ بنو سعد۔

دائی ملول ہوئی اور اُس کو احساس ہوا کہ والد سے محروم لڑکے کے گھر سے مال کہاں ملے گا؟ اس لئے کہا ”لَا مَالَ لَكَ“ اس کی ماں مال کہاں سے لائے گی؟ اُس دائی کے کارواں کے لوگ لڑکوں کو گود لے کر گاؤں کے لئے راہی ہوئے۔ اس لئے اس دائی اور اُس کے مرد کی رائے ہوئی کہ اسی لڑکے کو گود لے کر سوئے کارواں راہی ہوں۔ مکتے والوں کے سارے لڑکے دوسروں کو مل گئے ہم مولود سے محروم رہے۔ اس لئے اُمّ رسول سے کہا اے والدہ مکرمہ اس لڑکے کو ہمارے حوالے کر دو۔ ہادئی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مکرمہ دل کے ٹکڑے کو دائی ماں کے حوالے کر کے اُس سے ہمکلام ہوئی اور کہا کہ ”اے مائی اس لڑکے کا معاملہ دوسرے لڑکوں سے الگ ہے۔ اللہ کے حکم سے اس ولید مسعود کا حال سارے لڑکوں سے اہم اور مکرم ہو گا۔“ اور دائی ماں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے احوال کیے۔ دائی ماں وہ سارے احوال معلوم کر کے کمال مسرور ہوئی اور لڑکے کو گود لے کر والدہ مکرمہ کے آگے آئی۔ اللہ کے حکم سے اُسی دم دائی ماں کا دودھ سوا ہوا۔ اُمّ رسول دل کے ٹکڑے کو اُس کے حوالے کر کے ملول ہوئی اور کہا :

”اس لڑکے کو اللہ کے حوالے کر کے اُس سے دُعا گو ہوں کہ وہ اس ولید مسعود کو ہر مکرمہ امر سے دُور رکھے اور وہ مرد صالح ہو کر امرِ حلال کا حامل ہو اور ہر مملوک کی مدد کرے اور مملوکوں کے علاوہ ہر محروم آدمی کا سہارا ہو۔“

لے ابن سعد نے پورا جملہ اس طرح نقل کیا ہے یَتِيمٌ وَلَا مَالَ لَكَ۔ وَمَا عَسْتَ اُمَّهُ اَنْ تَفْعَلَ وَلِجَبَابِہِ
 ۱۔ طبقات ابن سعد میں حضرت آمنہ کے یہ شعر نقل کئے گئے ہیں جو آپ نے اس موقع پر کہے :
 اعیذہ باللہ ذی الجلال من شر ما موع علی الجبال
 حتی اذاع حامل الحلال ویفعل العرف الی الموال
 غیر ہم من عشوۃ الرجال
 (طبقات ابن سعد ص ۱۴۹)

محمد ولدِ عمرؓ سے مروی ہے کہ سرورِ عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دو سال دائی ماں کے ہاں آئے ہوئے ہو گئے۔ دائی ماں کا ارادہ ہوا کہ وہ اس ولدِ مسعود کو لے کر مکہ مکرمہ آئے اور اُس کی ماں سے ملا لائے۔ ولدِ مسعود کو لے کر سوئے مکہ پہنچی ہوئی۔ اور والدہ مکرمہ سے مل کر اس ولدِ مسعود کے سارے احوال کہے۔ والدہ مکرمہ دل کے ٹکڑے سے مل کر کمال مسرور ہوئی۔ دائی ماں سے کہا کہ اے دائی ماں! اس لڑکے کو لے کر گاؤں کو لوٹو۔ اس لڑکے اس ماہ مکہ مکرمہ کی وادی ہوائے مسموم سے معمور ہے۔ ہم کو ڈر ہے کہ وادی کی ہوائے مسموم اس ولدِ مسعود کو لگے اور اس کو ملول کر دے۔ واللہ! اس لڑکے کا معاملہ اہم ہے۔ اللہ اس کو علو اور اکرام عطا کرے گا۔ دائی ماں ولدِ مسعود کے ہمراہ گاؤں لوٹ گئی۔

اسی طرح اور دو سال ہادئی عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے۔ گود سے الگ ہو کر راہِ روی کے عادی ہوئے۔ سارے گاؤں کے لوگ اس ولدِ مکی کے ولداہ رہے۔

ملائی کی آمد

اللہ کا حکم ہوا کہ اس ولدِ مکی سے ہر آلودگی دور ہو اور اسی عمر سے وہ اُس امرِ اہم کا اہل ہو کہ اُس کے لئے وہ مولود ہوا۔ اک سحر کو ہادئی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائی ماں کے اک لڑکے کے ہمراہ گھر سے دور گئے، وہاں اللہ کے حکم سے دو ملائک آئے، ولدِ مکی کو لٹا کر اُس کے صدرِ مسعود کو کاٹا اور اُس سے کوئی کالا حقد اٹھا کر دور ڈالا۔

نہ محمد بن عمر (طبقات ابن سعد) ۲۷ مسموم: نہ ہریلی۔ مکہ مکرمہ میں اُس وقت کوئی وباء پھیلی ہوئی تھی۔ (طبقات ابن سعد ص ۱۸) ۲۸ ابن سعد کی روایت ہے کہ دو فرشتوں نے شجر مبارک اور سینے کو چاک کیا اور کوئی سیاہ نقطہ نکال کے اس کو پھینک دیا اور سونے کے ایک طشت میں رکھ کر شجر مبارک کو دھویا۔ (طبقات ابن سعد ص ۱۸) ❖

رسول اللہ ص کا ہمراہی لڑکا ڈر کر گھر کو دوڑا اور دائی ماں سے آکر کہا کہ "ولدہ کی کاحال معلوم کرو؟" دائی ماں دوڑی ہوئی وہاں گئی اور ولدہ مسعود کو گلے لگا کر گھر لے آئی۔ ولدہ مسعود سے سارا حان معلوم ہوا۔ دائی ماں اس امر سے ملول ہوئی اور اُس کو ڈر لگا اور ارادہ ہوا کہ اس لڑکے کو والدہ مکرمہ کے حوالے کر کے اس اہم معاملہ سے الگ ہو۔ دائی ماں ولدہ مسعود کو لے کر مکے آگئی اور والدہ مکرمہ سے سارا معاملہ کہا اور کہا کہ اس ولدہ مسعود سے دُوری ہمارے دل کا ملال ہے۔ مگر ہم کو ڈر ہے کہ اس لڑکے کو کوئی صدمہ آئے۔ والدہ مکرمہ سے مل کر رسول اکرمؐ مسرور ہوئے۔ مگر والدہ مکرمہ کی رائے ہوئی کہ اک سال اور ولدہ مسعود دائی ماں کے حوالے رہے۔ دائی ماں دل کے سرور کو لے کر گاؤں لوٹ آئی۔ اس طرح اُس سال اور ولدہ مسعود دائی ماں کے حوالے رہا۔ اک سال کا عرصہ مکمل ہوا اور دائی ماں وعدہ کی رُو سے رسول اللہ ص کو مکہ لے آئی اور ولدہ مسعود کو والدہ مکرمہ کے حوالے کر کے دل کا ملال گلے لگائے ہوئے گاؤں لوٹ گئی۔

علماء سے مروی ہے کہ دائی ماں اور اُس کے گاؤں والوں سے ساری عمر رسول اللہ ص کا سلوک صلہ رحمی اور بہمدردی کا رہا۔ اُسامہؓ سے مروی ہے کہ وحیِ اول سے کئی سال اُدھر دائی ماں مکہ مکرمہ آکر رسول اللہ ص سے ملی اور مال کی کمی کا حال کہا۔ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم عروسِ مکرمہ سے رائے لے کر لوٹے اور دائی ماں کو اک سواری مال سے لدی ہوئی اور دوسرے مال دے کر الوداع کہا۔ اسی طرح وہاں کے اک اور عالم محمدؐ سے مروی ہے کہ دائی ماں مکہ مکرمہ آئی، رسول اللہ ص اکرام کے

لے اُس نے کہا "اَدْرِيكَ اَخِي الْفَرَسِيُّ" میرے قریشی بھائی کی خبر لو۔ یہ بنو سعد کے عالم اُسامہ بن زید البیہقیؓ۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ یہ آنحضرتؐ نے انہیں چالیس بکریاں اور ایک اُونٹ مال و متاع سے لدا ہوا عنایت کیا۔ (طبقات ابن سعد)

یہ محمد بن المنکدرؒ

لئے اُٹھے اور کہا۔ دائی ماں، دائی ماں! اور اک دہری لاکر کھول دی اور اس سے اکرام کا سلوک ملے ہوا۔

والدہ مکرمہ کا وصال

عاقم ولد عمر اور محمد ولد عمر اور دوسرے علماء سے مروی ہے کہ رسول اللہؐ کی عمر دو کم آٹھ سال ہوئی کہ رسول اللہؐ کی والدہ، رسول اللہؐ کو لے کر سوئے وادی احد رواں ہوئی کہ وہاں کے ٹھہرا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے گھر والوں سے اس ولدِ مسعود کو ملا لائے۔ رسول اکرمؐ وہاں والدہ کے ہمراہ اک ماہ رُکے رہے۔ سارے لوگوں سے مل ملا کر اُمّ رسولؐ کا ارادہ ہوا کہ وہ دل کے ٹکڑے کو لے کر سوئے مگر راہی ہو۔ اس طرح والدہ مکرمہ کے ہمراہ رسول اکرمؐ سوئے مگر راہی ہوئے۔ مگر مکے سے اُدھر ہی اک مرحلہ آکر رُکے اور وہاں والدہ مکرمہ کے لئے اللہ کا حکم آگیا اور اُسی مرحلے وہ راہی ملکِ عدم ہو گئی اور وہی محل والدہ کی دائی آرام گاہ ہے۔

اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کم عمری ہی سے والدہ مکرمہ کے ساتھ سے محروم ہو گئے۔ دادا کے سوا، اس عالمِ مادی کا ہر سہارا ٹوٹا۔ والد کے سائے سے اول ہی محروم رہے۔ والدہ اس طرح ملکِ عدم کو سدھاری۔ اللہ کا اُسر رہا۔ دادا کو اطلاع ہوئی اور عیمؑ سردار وہاں آئے اور رسول اللہؐ کو لے کر مکہ مکرمہ آگئے۔ دادا کا گھر اُس کا سہارا ہوا۔

۱۔ آنحضرتؐ نے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کو چادر بچھادی کہ وہ اُس پر بیٹھیں ۲۔ یثرب: جس کا بعد میں مدینۃ النبیؐ نام ہوا۔ ۳۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان مقام ”ابوا“ میں حضرت آمنہؑ کا انتقال ہوا اور وہیں آپ کا مزار ہے۔ ۴۔ آنحضرتؐ کے چچا حضرت ابوطالبؑ :-

رسول اکرمؐ کے دادا اس ولد مسعود کے اقل ہی سے دلدلادہ رہے۔ اولاد کی طرح اُس کو سُکھ اور آرام سے رکھا اور اُس کے ہر آرام کے لئے سعی ہوئے۔

علمائے مروجہ ہیں کہ اک سحر کو رسول اللہؐ تم گم ہو گئے۔ داد اکو اطلاع ہوئی کہ ولید مسعود گم ہے۔ دوڑے ہوئے حرم گئے اور اس طرح دُعا کی :-

ہے اللہ! میرے رہنما محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو لوٹا دے۔

اے اللہ اُس کو لوٹا دے اور اُس کے واسطے سے ہم کو رحم و کرم کا مژدہ

کہ، اے اللہ! میرے رہنما کو لوٹا دے، وہ مراد و گناہ اور سہارا ہے۔

اے اللہ! اس امر سے ہم کو دُور رکھ کہ وہ ہم سے دُور ہو۔ اُس کا تم

محمد اللہ ہی کا رکھا ہوا ہے۔ اے اللہ! میرے راہوار کو لوٹا دے،

اس کو سگی اولاد کی طرح رکھو، اس لڑکے کا معاملہ اہم ہے اور دوسری اولاد اور گھر والوں کو آگے کھڑا کر کے کہا کہ لوگو سارے مل کر ہم کو روؤ۔ وہ لوگ آگے کھڑے ہوئے اور سو گواہ ہو کر والد کے لئے روئے۔ اور اس طرح رسول اللہ کے دادا اللہ کے گھر کو سدھارے۔ رسول اللہ کے دادا کی کل عمر اسی اور دو سال ہوئی۔ ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم دادا کے ساتھی سے محروم ہو کر عم سردار کے گھر آگئے۔ عم سردار اس ولید مسعود کے اس طرح دلدادہ ہوئے کہ سگی اولاد سے سوا اُس کو سکھ اور آرام سے رکھا اور ساری عمر ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعداء کے آگے اک کوہ کی طرح ڈٹے رہے۔

اس ولید مسعود کے عام احوال سے عم سردار کو محسوس ہوا کہ اس کے ہمراہ اللہ کا کرم اور اُس کی مدد ہے۔ عم سردار سارے اہم کام اس لڑکے کے حوالے سے کر کے دائم کامگار ہوئے۔

عم سردار کے مالی احوال

رسول اللہ کے دادا کے وصال سے اہل مکہ کی رائے ہوئی کہ عم سردار مکے کے سردار ہوں۔ گو وہ اہل مکہ کے سردار ہو گئے، مگر مکہ مکرمہ کے دوسرے سرداروں کی طرح مالی آسودگی سے محروم رہے۔ اس لئے ارادہ ہوا کہ حصول مال کے لئے کسی مالی کارواں کے ہمراہ دوسرے امصار و ممالک کو مال لے کر رہا ہی ہوں اور وہاں سے مالی معاملے کر کے آسودگی کے لئے سعی ہوں معلوم ہوا کہ اک کارواں لوگوں کے اموال لے کر دوسرے ملک کے لئے ڈراں ہو رہا ہے۔ آمادہ ہوئے کہ اُس کارواں کے ہمراہ رہی ہوں مگر ولید مسعود دُوری کہاں گوارا۔

لے طبقات ابن سعد میں ہے کہ نزع کے وقت حضرت عبدالطلب نے اپنی لڑکیوں سے فرمائش کی کہ ابیکینی وانا اسمع“ مجھے روڈ اور زین سنوں۔ سب لڑکیوں نے مریشے کہے اور اُن کا ماتم کرتی رہیں۔ اُمیمہ کے مریشے کے اشعار بھی ابن سعد نے نقل کئے ہیں :-

اس لئے رسول اللہ کو ہمراہ کر کے لوگوں کے موالے کر اس ملک کے لئے رہی ہوئے کہ وہ صہیہ رولوں کی آڑ لگا رہے۔ وہ کارواں راہ کے اُس مرحلے آکر رکھا کہ وہاں اک عالم کا صومٹہ ہے۔ اُس عالم کے لئے اہل علم کی رائے ہے کہ وہ ”روح النثر“ رسول کی وحی کا عالم رہا۔ وہ عالم اہل کاروں سے ملا اور لوگوں سے سوال ہوا :

”کوئی مرد صالح اس کارواں کے ہمراہ ہے؟“

اک لمحہ کی کمرہ رسول اللہ کے آگے اکھڑا ہوا اور کہا کہ اس لڑکے کا والد کہاں ہے؟ کسی سے معلوم ہوا کہ عثم سردار اس لڑکے کا دلی ہے۔ عثم سردار سے کہا کہ ”اس لڑکے کو لوگوں سے دور رکھو اور اُس ملک کے ارادے سے لڑکو، اس لئے کہ اسرائیلی لوگ اس لڑکے کے حاسد ہو کر اس کے عدو ہوں گے اور ہم کو اس لڑکے کا ڈر ہے۔“

عثم سردار کو اس عالم کے کلام سے ڈر لگا اور وہ عالم کی رائے کے عامل ہو کر کارواں سے الگ ہوئے اور رسول اللہ کو ہمراہ لے کر سوئے مکہ مکرمہ لوٹ گئے۔

رسول اللہ وہاں سے لوٹ کر آئے اور کئی سال عثم سردار کے گھر آرام اور سکھ سے رہے۔ کئی سال وہ ولدِ معصوم اک مرد صالح ہو کر اہل مکہ کے ہمراہ رہا اس مرد

ملہ ملک شام ۱۵ ہجیرا ہب (طبقات ابن سعد) ۱۵ اسرائیل عام طور سے یانے معروت کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ لیکن اس کا دوسرا نعت بغیر یانے معروت کے بھی لغات میں موجود ہے۔ چنانچہ علامہ زبیدی کی تفسیر کشاف کے صفحہ ۱۳ پر یہ تصریح موجود ہے ”وقرء اسرائیل بحذات الباء“ اور ایک بغیر اسرائیل بھی لکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تفسیر روح المعانی ص ۲۴۲ پر اس کی مزید تحقیق اور تفصیل موجود ہے۔

یہود کے لئے ”موسوی گروہ“ کا لفظ اختیار کرنا سوئے ادب معلوم ہوتا ہے اس لئے اسرائیل کا لفظ اختیار کیا ہے۔

۱۵ ہجیرا ہب کا یہ جلد ابن سعد نے نقل کیا ہے ”احتفظ بهذا الفلم ولا تذهب به الى الشام ات الیہود حسد وانفی اخشاہم علیہ“ (اس لڑکے کی حفاظت کر اور اسے لے کر شام نہ جا، یہودی اس کے حاسد ہیں اور تمہیں اُن سے اس لڑکے کی نسبت خوف ہے) ابن سعد ص ۱۸۰

صالح کے اطوارِ مطہرہ اور اعمالِ صالحہ سے نکلے والوں کا سالہا سال واسطہ رہا اور مکہ مکرمہ کے سادے لوگ اس عرصے رسول اللہؐ کے دلدادہ رہے۔ ہر طرح کے مکروہ کاموں سے الگ اور اہل مکہ کی گمراہی اور لاعلمی سے دُور، عثم سردار کا لاڈلے نکلے کے لوگوں کا ہمدرد و الم گسار ہوا۔

عثم سردار کے مالی احوال اُسی طرح آسودگی سے دُور رہے۔ اک تحریک وہ رسول اللہؐ کے اُگے اُٹے اور کہا کہ اے ولید صالح! ہمارا مالی حال آسودگی سے دُور ہے، اس لئے ہماری دانتے ہیں کہ کسی کارواں کے ہمراہ لوگوں کے اموال لے کر دوسرے ممالک کو سدھارو کہ گھر کے مالی مسائل حل ہوں اور کہا کہ اگر رائے ہو مکہ مکرمہ کی اک مالدار صالحہ سے اس طرح کا معاملہ کر لوں کہ اُس کے اموال لے کر دوسرے ممالک و امصار کو لے آئی ہو اور وہاں سے مالی معاملے کر کے لوٹو، اس طرح اس صالحہ سے ہم کو مال حاصل ہو گا، رسول اللہؐ اس کے لئے آمادہ ہو گئے۔

اُدھر اُس مالک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و اطوارِ محمودہ کا علم کئی لوگوں کے واسطے سے ہوا عثم سردار رسول اللہؐ کو لے کر اُس کے گھر اُٹے اور دل کا مدعا کہا۔ وہ سرورِ دل سے اس معاملے کے لئے آمادہ ہوئی اور کہا کہ ہمارے اک مملوک کے ہمراہ اموال لے کر دوسرے ممالک کے لئے لے آئی ہو۔

اس طرح ہادی اکرم اُس صالحہ کے اموال لے کر اُس کے اک مملوک کے ہمراہ ہی ملک کے لئے لے آئی ہوئے کہ اس سے کئی سال اُدھر عثم سردار کے ہمراہ وہاں سے لوٹ کر مکہ مکرمہ آئے۔

۱۔ حضرت صفیہؓ العکبریٰ مکہ مکرمہ کی ایک ممتاز مال دار خاتون تھیں۔ ۲۔ حضرت خدیجہؓ العکبریٰ رضی اللہ عنہا کا غلام میسرہؓ۔

اک عالمِ وحی کی اطلاع

کارواں اُس ملک سے مالی معاملے کر کے لوٹا اور کئی مراحل طے کر کے اک عالم کے صومعہ کے اُدھر آکے رُکا۔ وہ صومعہ سا لہا سال سے اُس عالمِ وحی کی وردِ گاہ رہا۔ اُس عالم کو معلوم ہوا کہ اک کارواں آکے رُک رہا ہے۔ اہل کارواں سے کہا کہ ہمارے صومعے آکر اکل و طعام کھا کر آرام کرو۔ کارواں کے لوگ رسول اللہ کو اموال حوالے کر کے اُس کے صومعہ آگئے۔ وہ عالم کھڑا ہوا اور کہا کہ اس کارواں کے ہمراہ اک مرد صالح ہے۔ اُس مرد صالح کو لاؤ وہ کہاں ہے؟ کارواں کے لوگ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے۔ وہ اکرام کے لئے کھڑا ہوا اور کہا کہ اس مرد صالح کا معاملہ سارے لوگوں سے الگ ہے۔ وہ سارے اعصار و امصار کے لئے اللہ کا رسول ہو گا۔ اور اسی کی آمد سے سلسلہ رسل کو مہر لگے گی۔ اُس عالمِ وحی سے اہل کارواں کو اسی طرح کے اور دوسرے احوال معلوم ہوئے۔

الحاصل کارواں سوئے مکہ راہی ہوا۔ کارواں کے لوگوں کو محسوس ہوا کہ گھٹا کا اک ٹکڑا راہ کے سارے مراحل رسول اللہ ص کے ہمراہ رہا کہ اللہ کا رسول اُس کے سامنے سامنے آرام سے راہ کے مراحل طے کرے اور اُس ملک کی کڑی گرمی اور لو سے دور رہے۔

۱۷ یہ صومعہ نسطور راہب کا تھا اور وہ نصرانی تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اُس کو کچھ علامتِ نبوت دکھائی دیں اور کہا کہ وہ سارے عالم کے لئے اللہ کے رسول ہوں گے اور اُن پر سلسلہ نبوت ختم ہو جائے گا۔ (ابن سعد اور تاریخ اسلام از مولانا اکبر شاہ خاں نجیب آبادی)

۱۸ سیرۃ المصطفیٰ، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی کی تصنیف ہے اُس میں ہے کہ نسطور راہب نے آپ کی مہرِ نبوت اور آنکھوں کی سُرخ دیکھی اور کہا کہ یہ اس اُمت کے نبی ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں۔

اُدھر مکہ مکرمہ کی وہ صالحہ سحر کی ہوئی کہ لئے گھر کی کھڑکی سے لگی کھڑی ہوئی ہے
معاذِ دُور سے سوار ہی کے سُنوں سے اُڑی ہوئی گرد دکھائی دی۔ معلوم ہوا کہ دُوسرے مُلک
سے کوئی سوار آ رہا ہے۔ اک کہسار کی اوٹ سے دو سوار آگے آئے۔ معلوم ہوا کہ
وہ مرد صالح عجم سردار کا لاڈلا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے۔ ہادی اگر تم اُس مُلک
سے مالی معاملے کر کے کامگار و مسرور لوٹے اور اُس صالحہ کے اموال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے واسطے سے کٹی سوا ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس
صالحہ سے ملے کر وہ مال سے دوسرا مال ملا۔

رسول اللہ کی عروسِ مکرمہ

علماء سے مروی ہے کہ اس رحلہ کے سال ہادی اگر تم کی عمر رسولہ اور دس سال
سے دس ماہ کم ہوئی۔ رسول اللہ کے احوالِ مطہرہ اور اطوارِ محمودہ کا اُس صالحہ
کو سالہا سال سے علم رہا اور اُس صالحہ کا دل رسول اللہ کے لئے مائل ہوا۔
اس لئے وہ اک ہمدمہ سے اکر ملی اور کہا کہ مکہ مکرمہ کے اُس مرد صالح کے لئے
رائے دو۔ وہ مرد صالح مکہ مکرمہ کے سارے لوگوں سے مکرم اور عمدہ اطوار کا
حامل ہے۔ وہ ہمدمہ اس صالحہ کی ہم رائے ہوئی۔ اُسی ہمدمہ سے کہا کہ اُس مرد
صالح کے گھر راہی ہو اور اس سے بل کر سارا حال کہو۔

ہادی اگر تم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر کی اطلاع ہوئی۔ وہ عجم سردار سے ملے
اور اس معاملے کو آگے رکھا۔ عجم سردار اُس صالحہ کے سارے احوال سے مطلع رہے،

۱۔ ۶۰ پچیس سال دریاہ (اصح البیہرۃ) ۲۰ نفسیہ بنت اُمیہ سے کہا کہ وہ شادی کا پیغام لے جائے۔
۲۔ اصح البیہرۃ میں ابن اسحاق کی روایت ہے کہ حضرت خدیجہ بنتی اللہ عنہا نے آنحضرت کو بلا کر بلائی
جی بات کی اور اُس میں کہا کہ "میں نے آپ کی صداقت اور اچھے اخلاق کی وجہ سے آپ کو
پسند کیا ہے۔"

اس لئے وہ آمادہ ہوئے کہ رسول اللہ ﷺ کے گھر کو محصور کرے اور اس طرح اُس مرد صالح کو اک ہمدرد ولد لے لے۔ رسول اللہ کی رائے معلوم کی اور مال کا اُس صالح کے گھر آکر ”عروسی رسول“ کے سارے امور طے کئے اور وہاں سے مسرور لوٹے۔ اُسے رسول کے اہل رائے لوگ اکٹھے ہوئے اور اس معاملے سے مسرور ہوئے۔

الحاصل اک طے کردہ سحر کو مکہ مکرمہ کے سامنے سردار اور دُسا اکٹھے ہوئے اور رسول اللہ کو ہمراہ لے کر اُس صالح کے گھر گئے کہ عروسی رسول کے سارے امور مکمل ہوں۔

عیم سردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی ہوئے اور عمرو ولد اسد اُس صالح کے دلی ہو کر آگئے۔ ہر دو لوگوں کی رائے سے رسول اللہ کا مردس اور دس سواری طے ہوا۔ عیم سردار سارے دُسا مکہ کے آگے کھڑے ہوئے اور اس طرح ہم کلام ہوئے۔

”ساری حمد اللہ کے لئے ہے، اُسی کے کرم سے ہم معیارِ حرم (سلام اللہ علیہ) کی اولاد ہوئے اور اس کے ولدِ اَوَّل کے واسطے سے ہم سلسلہ معد کی طاہر اصل سے ہوئے۔ اُسی کے کرم سے ہم کو حرم کی رکھوالی کا کرام ملا اور ہم کو وہ مسعود گھر عطا ہوا کہ دُور دُور کے امصار و ممالک کے لوگ اس کے لئے راہی ہوئے۔ وہ گھر عطا ہوا کہ ہر کوئی وہاں آکر ہر طرح کے دُور سے دُور رہا۔ اُسی گھر کے واسطے سے ہم کو لوگوں کی سرداری ملی۔ لوگو! معلوم ہو کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) وہ مرد صالح ہے کہ مکے کا ہر مرد اُس کی ہمسری سے عاری ہے۔ ہاں! مال اس کا کم ہے، مگر مال

۱۰ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا مہر بیس اونٹ طے ہوا۔ ۱۱ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے لڑکے حضرت اسماعیل علیہ السلام ۛ

مانے کی طرح ہے۔ ادھر آئے ادھر ڈھلے، اس کو دوام کہاں؟ سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ مری سگی اولاد کی طرح ہے اور وہ اس صالح سے عروسی کے لئے آمادہ ہے اور ہمارے مال سے دس اور دس سواری اس کا مرٹے ہوا اور اللہ گواہ ہے کہ اس مرد صالح کا معاملہ اہم ہے وہ سارے لوگوں سے مکرم ہے اور اس کی اساس محکم ہوگی۔“

عظیم سرور کے اس کلام کو سموع کر کے اُس صالح کے ولید عثم کہ ماہر علم دجی رہے کھڑے ہوئے اور سارے لوگوں سے کہا کہ ”لوگو! گواہ رہو کہ اس صالح کو محمدؐ کی عروسی کا اکرام حاصل ہوا اور سارے لوگوں کے آگے اس صالح کو محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر کے دعاگو ہوں کہ وہ ہر دو کو سرور رکھے۔“

اس طرح وہ مکرم کر کے صالح اللہ کے حکم سے رسول اللہؐ کی عروس ہو کر اُن مکرم کے گھر آگئی اور اللہ کی عطا سے اُس کو وہ اکرام ملا کہ سارے اہل اسلام کی ماں ہوئی اور رسول اللہؐ کی محرم اول ہو کر رہی۔ اللہ اس کی حمد کو دارالسلام کی ہواؤں سے معمور رکھے۔

رسول اکرمؐ کی اولاد

اللہ کا حکم اس طرح ہوا کہ ہاؤنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد عروس

۱۔ اس موقع پر بڑی خطبہ حضرت ابوطالب نے دیا اس کے الفاظ یہ ہیں :- الحمد للہ الذی جعلنا من ذریۃ ابرہیم وزرع اسماعیل وحنثضی معد وعنصر مضر۔ وحنثہ بیتہ وبتول حرمہ۔ وجعل لنا بیتا معجوبا وھو ما آتانا۔ وجعلنا الحکام علی الناس۔ ثم ان ابن ابی محمد بن عبد اللہ لایوزن بہ رجل الا یرحمہ۔ وان کان فی المال قل۔ فاق المال ظل ذائل وأھو حائل۔ ومحمد من قدر فتم قرابتہ منی۔ فخطب خدیجہ بنت خویلد۔ وبذل لها من المصدق ما آجلہ من مالی عشرين بعیرا۔ وھو اللہ بعد ھذہ بناع عظیم۔ (الشیخ الطبرقی ابن سعد)

مکرمہ“ ہی سے ہوئی۔ سولہ اک لڑکے کے کہ وہ اک دوسری عروس رسولؐ سے ہوئے اور محمدِ حرم (سلام اللہ علیہ و آلہ و سلم) کے اسم سے موسوم ہوئے۔ عروس مکرمہ سے اول اک لڑکی ہوئی اور وہ مکے کے اک آدمی ولد العاص کی عروس ہوئی۔ دوم اک لڑکی عروس مکرمہ ہی سے ہوئی اور وہ رسول اللہؐ کے اک ولدِ عم کی عروس رہی۔ سوم اک لڑکی اور ہوئی اور وہ رسول اللہؐ کی دوسری لڑکی کی طرح اسی عم رسولؐ کے دوسرے لڑکے کے گھر گئی۔ اُس سال کہ کلام النبیؐ کی سورہ اس عم عدد کی ہلاکی کے کہ آئی۔ اُس کے حکم سے رسول اللہؐ کی وہ لڑکی اُس کے لڑکے کی عروس سے الگ ہوئی۔ اسی طرح سے دوسری لڑکی کا معاملہ ہوا اور رسول اللہؐ کے ہمدام و اما دادو حاکم سوم اک اک کر کے ہر دو کے اہل ہوئے۔ اسی لئے حاکم سوم کا اسم ”دو اکرام والا“ ہوا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اک اور لاڈلی لڑکی عروس مکرمہ سے ہوئی اور وہ ہمدام علی کرم اللہ کی عروس ہوئی اور اسی کے لئے رسول اللہؐ کا کلام ہوا کہ ”وہ دارالسلام کی ساری صالحاؤں کی سردار ہے اور رسول اللہؐ کی اسی لڑکی سے وہ دو امان ہوئے کہ سالہا سال اُدھر امر اسلام کے لئے لڑے اور لہو لہو ہو کہ دارالسلام کو سدھا دے۔ ہادٹی اگر تم کے کل دل لڑکے ہوئے اور ہر دو کم عمر ہی رہ کہ اللہ کے گھر کو سدھا دے۔“

۱۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔
۲۔ حضرت زینبؓ آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ ابولہب کے لڑکے عقبہ کے نکاح میں تھیں۔ ۳۔ حضرت ام کلثوم جن کی شادی ابولہب کے دوسرے لڑکے عتبہ سے ہوئی۔ ۴۔ سورہ ابولہب کے نازل ہونے کے بعد ابولہب نے آنحضرتؐ کی دونوں لڑکیوں کو طلاق دلا دی۔ پھر وہ دونوں حضرت عثمان غنیؓ کے نکاح میں آئیں اسی لئے اُن کا لقب ”ذوالنورین“ ہوا۔ ۵۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ ۶۔ دارالسلام جنت کا نام ہے۔ ۷۔ حضرت حسن و حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم۔ (راجح السیرۃ ص ۵۷)

اہل مکہ کا حکم

ہادی کا اہل صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہی سے اطوار محمودہ اور اعلیٰ کردار و عمل کے حامل ہے۔ سارے اہل مکہ کی عمر ہوں کہ معتبر، سردار ہوں کہ محکوم، موالی ہوں کہ مالک اہم معاملوں کے لئے رسول اللہ ہی سے رائے لے کر آمادہ عمل رہے۔ اس سال مکہ مکرمہ کے لوگوں کے لئے اک اہم مسئلہ کھڑا ہوا۔ صد ہا سال کے موسمی احوال اور کئی سال کی دھواں دھار امطار سے ”دار اللہ“ کی اساس ہل کر رہ گئی اور اس گھر کے کئی حصے ٹوٹ گئے۔ کہ کرمہ کے سردار اور اہل رائے اکٹھے ہوئے اور سارے لوگوں کی رائے سے طے ہوا کہ دار اللہ کی معماری کا کام میرے سے ہو اور اس کی اساس محکمہ کے لوگ اللہ کے کئے کا مگار ہوں۔ سارے لوگوں کی رائے ہوئی کہ دار اللہ کی معماری کے لئے حلال مان اکٹھا ہو۔ اہل مکہ کا اصرار ہوا کہ حلال مال کے سوا ہر مال رد ہو کہ اللہ کا کرم ہے۔ ہر طرح کی حرام کائی سے دور رہے۔

کئے کے اک سردار کو موم ہوا کہ مکہ کرمہ سے ادھر اک ساحل مصر ہے وہاں لکڑی مل سکے گی۔ وہ اس ساحل مصر راہی ہوا اور ”دار اللہ“ کے لئے لکڑی لے کر اور اک دوی معمار کو ہمراہ لے کر کہ کرمہ لڑا۔ کئے کے کئی گروہ معماری کے اس کام کے لئے آمادہ ہوئے۔ اس لئے طے ہوا کہ ہر گروہ دار اللہ کے اک الگ حصہ کی معماری کرے۔ اس طرح ہر گروہ دار اللہ کے اک الگ حصے کے لئے مامور ہوا۔ اس طرح کا معاملہ اس لئے ہوا کہ لوگ اک دوسرے کی لڑائی سے دور ہوں اور معماری کا کام مکمل ہو۔

لہ دار اللہ بیت اللہ ۵۰ جہدہ پر ایک جہاد کھڑا کر ٹوٹ گیا تھا، اس کی لکڑی خریدی گئی، وہاں ایک دوی معمار مل گیا۔ اس کو بھی ساتھ لے لیا۔ یہ لکڑی بیت اللہ کی چھت میں لگائی گئی :-
(سیرۃ المستطیٰ ج ۱ ص ۹۲)

لوگ دارالند کی معامی کے لئے وہاں اکٹھے ہوئے۔ ہر آدمی اس امر سے ڈرا کہ وہ اللہ کے گھر کو کدال مار کر گرائے۔ مال کار اک سردار کدال لے کر کھڑا ہوا اور کہا۔

”اے اللہ! امر صالح کے سوا ہم ہر ادا سے دُور ہوئے۔“

اور اس طرح کہہ کر کدال ماری۔ اہل مکہ ڈرے کہ اللہ کو بہارا وہ عمل مکروہ لگے گا اور اللہ کی کوئی مار بہارے لئے آئے گی۔ اس لئے طے ہوا کہ آگے کے ہر کام سے دُکے رہو۔ اگلی سحر کو معلوم ہو گا کہ اللہ کو بہارا وہ عمل مکروہ لگا کہ محمود۔ اس لئے لوگ دُکے رہے۔ اگلی سحر ہوئی دارالند کے ارد گرد لوگ اکھڑے ہوئے۔ وہ کدال والا سردار گھر سے سالم آکر کھڑا ہوا۔ اس سے لوگوں کو حوصلہ ہوا اور وہ معامی حرم کے لئے آمادہ ہوئے۔ ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کے ہمراہ معامی حرم کا کام کر کے سرور رہے۔

معامی کے اُس کام کا وہ مرحلہ آگاکہ ”مرمر اسود“ دارالند کے مامور حقتہ سے لگ کر دارالند کا حقتہ ہو۔ مکے کے سرداروں کے لئے اک اور مسئلہ کھڑا ہوا۔ اسلئے سردار اس اکرام کے لئے اک دوسرے سے لڑائی کے لئے آمادہ ہوئے۔ ہر گروہ کے سردار کا اصرار ہوا کہ وہ ”مرمر اسود“ کی معامی کے اکرام سے مالا مال ہو۔ اس رد و کد کے سلسلے کو طویل ہوا اور معاملہ حد سے سوا ہوا اور اک دوسرے کے آگے مسلح ہو کر آڈٹے۔ مال کار اک معمر سردار آگے آکر حائل ہوا اور کہا کہ ہماری رائے سے اس طرح کرو کہ مکہ مکرمہ کے کسی مرد صالح کو حکم کر لو اور اُس کی رائے سے سائے ملکر عمل کرو۔ سوال ہوا کہ حکم کا معاملہ کس آدمی کے حوالے ہو۔ الجھل طے ہوا کہ اگلی سحر کو ہر وہ آدمی کہ دارالند اقول آئے۔ وہی اس معاملے کا حکم ہو۔

لہ اُس نے کہا: اللہُمَّ لَا تَزِيدَ إِلَّا الْخَيْرَ دَسِيدَةُ الْمُصْطَفَى ۴) ۵) حجۃ اسود
۶) ابوالامیہ بن مُغیرہ ۷)

سحر سے دد گھڑی اُدھر ہی لوگ دارُ اللہ کے گرد اکٹھے ہو گئے اور ٹوہ لگا کر کھڑے ہوئے۔ کسے معلوم کہ اس معاملے کا حکم کس گمروہ کا آدمی ہو گا؟ اُدھر اللہ کے حکم سے ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اول دارُ اللہ آئے۔ سارے لوگ کمال مسرور ہوئے اور کہہ اُٹھے۔

”وہ مرد صالح محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے، ہمارے معاملے کا وہی حکم ہو گا۔“

لوگوں سے سارا معاملہ معلوم کر کے ہادی اکرم کھڑے ہوئے اور لوگوں سے کہا کہ اک دری لاؤ۔ لوگ دری لے آئے ”مرمر اسود“ کو اُس دری کے وسط رکھ کر لوگوں سے کہا کہ ہر گمروہ کا سردار اس دری کا اک اک حصّہ لے کر اُٹھائے اور دارُ اللہ کے اُس حصّے لے کر آئے کہ وہاں ”مرمر اسود“ لگے گا۔ اس طرح ہادی اکرم ص کے اس محل سے ہر گمروہ کو اُس اکرام سے حصّہ ملا۔ دری اُٹھا کر سارے لوگ مرممر اسود کو اُس کے محل کے آگے لائے۔ ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مرممر اسود کو اُٹھا کر اس کے محل سے لگا کر الگ ہوئے اور اہل مکہ اس طرح اک معرکہ آرائی سے دُور ہوئے۔

رسول اکرمؐ کا دُورِ ارباص

سردِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کم عمری ہی سے لاعلمی اور گمراہی کی رسوم اور مکارہ سے دُور رہے اور مٹی کے گھڑے ہوئے الملوں سے سدا لگ رہے اور

۱۔ سیرت المصطفیٰ بحوالہ سیرت ابن ہشام ص ۹۲۔ ۲۔ ارباصات ”اُن حالات و واقعات کو کہتے ہیں جو نبوت سے پہلے مبادی نبوت کے طور پر پیش آئے عربی میں رہم کے معنی بنیاد ڈالنے کے آتے ہیں، گویا ان واقعات سے نبوت کی بنیاد پڑ رہی تھی۔

(محمّد ولی)

سدا ساعی رہے کہ لوگ مکروہ رسوم، لڑائی اور حسد سے دور رہوں۔
 ادھر اک عرصہ سے رسول اللہ کو اس طرح کے احوال آگے آئے کہ اُس سے
 محسوس ہوا کہ کوئی امر اہم حوالے ہو گا۔

وحیِ جبرائیل سے ادھر رسول اللہ سے اوّل اس طرح کا معاملہ ہوا کہ
 رسول اللہ سوئے اور طرح طرح کے احوال مطالعہ کئے اور سحر کو اُٹھے اور وہ
 احوال اُسی طرح وارد ہوئے۔

گھروالوں کے اصرار سے اک صومعہ کو گئے، وہاں آکر مکے کے لوگ ہر سال
 لگا لگا کر اور دھوم دھام کر کے مسرور رہے۔ اس طرح کی ہما، ہی سے ہادی اکرم
 کا دل سدا کھنسا رہا۔ مگر گھروالوں کے اصرار سے وہاں آئے اور اک مٹی کے الہ
 کے آگے آکھڑے ہوئے۔ معاً اُس مٹی کے الہ سے صدا آئی۔

”اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم سے دور رہو۔“
 اس صدا سے ہادی اکرم کو ڈر لگا اور ڈرے ہوئے گھر آئے۔ گھروالوں سے
 کہا کہ ہم کو ہر مٹی کے الہ سے صدا آئی کہ ہم سے الگ رہو۔

اسی طرح اک اسرائیلی عالم کہ اس کا اسم ساتول رہا۔ وادی اُحد کے رہا،
 وہاں اک ملک کا حاکم وارد ہوا کہ اُس مصر کو دھادے۔ ساتول سے کہا کہ ہمارا
 ارادہ ہے کہ ہم اس مصر کو سجاد کر کے سوئے ملک رہا ہی ہوں۔ ساتول اس حکم
 سے اس طرح ہم کلام ہوا۔

”اے حاکم! اس مصر کا اک اہم معاملہ ہے۔ اللہ کے حکم سے وہ مصر اک
 رسول کا حرم ہو گا، وہ رسول مکہ سے راہی ہو کر ادھر آئے گا اور اُس
 کی سانسے گرد ہوں۔ سے لڑائی ہوگی۔ مال کا وہ حادثی ہو گا اور اللہ

کی دکھائی ہوئی راہ لوگوں کو دکھائے گا۔“

وہ حاکم اس آمر سے ڈرا اور وہاں سے اسی طرح لوٹ کر سوئے ملک رہی ہو۔

اسی طرح اک اور اسرائیلی عالم کہ اللہ واحد کے ولداہ رہے۔ اُحد کی دادی کے اُسی میسر آکر رہے اور سالہا سال اللہ واحد کی حمد و دعا کر کے اللہ کے دل ہوئے۔ وہاں کے لوگ اہم مسائلوں کے لئے اُس عالم سے دعا کر کے کامگار و مسرور ہوئے۔ مآل کار اُس کا دم وصال آگیا۔ لوگوں سے کہا کہ اے لوگو! معلوم ہے کس لئے اس میسر آکر رہا ہوں؟ اس لئے کہ اس میسر وہ رسول آئے تھے کہ گاہے گاہے عالم کے لئے ہادِی کامل ہوگا۔ اُس رسول کی اطلاع اللہ کے الہام اور وحی کے واسطے سے اہل علم کو دی گئی ہے۔ ہم کو اس آمر کی اُسی رہی کہ اُس رسول سے بل کر اُس کے حامی ہوں گے۔ مگر اللہ کا حکم آوارہ ہو۔ اس لئے اے لوگو! اگر اُس سے ملو، اُس کو مر اسلام کہو۔ اس طرح کہہ کر وہ عالم اُسی دم رہی ملک عدم ہوا۔ اسی طرح ولیدِ مطعم، ہمدِ رسول سے مروی ہے کہ دو اسلام سے اک ماہ ادھر ہم اک صومعے کے گرد اکٹھے ہوئے اور مٹی کے آگے کھڑے ہوئے مگر اُس سے صدا آئی کہ ”لوگو! ہم کو اللہ کے اُس رسول کے حوالے سے آگ ماری گئی کہ وہ تکے کی وادی سے اُٹھے گا اور اُس کا اسم ”احمد“ ہوگا اور وادی اُحد کا میسر اُس کا حرم ہوگا ہم اس امر سے روکے گئے کہ ہم کو سماوی علوم کے کلمے حاصل ہوں۔“

ابن الہیسان، یہود بن جوشا سے مدینہ منورہ صرف اسی لئے آکر رہا کہ وہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر آئیں گے۔ یہ عربوں کے بُت پرانہ کے پیٹ سے یہ آواز آئی کہ وحی کا چراغ ابند ہو گیا۔ ہم کو انکا دے مار دے گئے۔ ایک نبی کی وجہ سے جو تکے سے ہوں گے اور اُن کا نام احمد ہوگا اور ہجرت کر کے وہ یثرب جائیں گے۔

مکہ مکرمہ کے ایک مہتمم عالم سے عامر کو مسوع ہوا کہ مکے کے سرداروں کی اولاد سے اک رسول آئے گا۔ لوگو! ہم اُس دَمِ اِس عالمِ مادی سے دُور ملکِ عدم ہوں گے ہم اِس امر کے گواہ ہونے کے وہ اللہ کا رسول ہے۔ اگر اِس رسول سے ملو ہمارا سلام کہو۔ اُس رسول کی کمر اک مہر رسول کی حامل ہوگی، اسمِ احمد ہوگا اور وادیِ اُحد اُس کا حرم ہوگا۔ اُس رسول کے موئے سر اوسط ہوں گے اور اِس کا ہر معاملہ اوسط ہوگا۔ مکہ مکرمہ اُس کا مولید ہے، مگر مکے کے لوگ اُس رسول کو مکے سے دُور کر کے اُس سے محروم ہوں گے اور وہ وادیِ اُحد کے اک مہر اُکڑ ٹھہرے گا۔ اِس رسول کے سارے احوال ہم کو سارے اُمصار و ممالک گھوم کر امر اُٹلی علماء سے معلوم ہونے لگے۔

کئی سال اُدھر اُس حال کے راویِ عامر اسلام لائے اور ہادیِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا حال کہہ کر اُس مردِ صالح کا سلام کیا۔ سرورِ عالم اُس کے لئے دُعا گو ہوئے اور لوگوں کو اطلاع دی کہ اُس مردِ آگاہ کو دارالسلام حاصل ہوا۔

اِس طرح کا اک اور حال ولدِ عمروؓ سے مروی ہے کہ ہم کئی لوگوں کے ہمراہ سواح کے صومعے اُکڑ ٹھہرے اور اک موٹی گائے سواح کے لئے کاٹی کہ اُس کو مسرور کر کے اُس کی مدد ہم کو حاصل ہو۔ معاً سارے لوگوں کو اُس سے صدا آئی :

”لوگو! وہ لمحہ آگیا کہ لوگوں کے لئے اللہ کا وہ رسول آئے کہ حرامِ کاری کو روکے گا اور مٹی کے الموں کے سارے رسوم کو مٹو کر دے گا۔ سہادی علوم ہم لوگوں سے روکے گئے اور ہم کو ملائک کے واسطے سے اُگ ماری گئی“

ہم لوگوں کو اِس صدا سے ڈر لگا اور مکہ مکرمہ ٹوٹ آئے اور سارے لوگوں سے اِس رسول کے لئے سائل ہوئے مگر لوگ رسول کے حال سے لاعلم رہے۔ اِس طرف

ابو زید بن عمرو بن نفیل، جو توحید کے قائل تھے، اُن سے عامر بن ربیعہ کی روایت ہے (حوالہ بالا)۔
ابو سعید بن عمرو النذلی، ابنِ سعد ۲۵۵ھ سے سواح : ایک مشہور بت تھا، اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے :

گھوم گھام کر ہم ہمدیم مکہ مکرمہ سے ملے اور سارا حال کہا۔ اُس سے معلوم ہوا کہ ہاں! اس طرح کے اک رسول کی آمد ہوتی ہے اور وہ سارے لوگوں کے لئے راہِ ہدٰی لائے۔ ہم اس حال کو معلوم کر کے رہے کہ ہم کو معلوم ہو کہ اہل مکہ کا اُس رسول سے کس طرح کا سلوک ہو گا۔ مگر دل کو اس کا طلال ہے کہ ہم اُس لمحہ اسلام سے دُور رہے اور کئی سال اسی طرح ٹال کر اسلام لائے۔

رسول اللہ کی دُعا گاہ

اللہ کا رسول اہل عالم کی گمراہی اور لاعلمی کے احوال سے اُداس رہا اور سارے مکہ وہ اعمال اور رسوم سے الگ اللہ سے دُعا گو رہا۔ مگر اس سال رسول اللہ کا دل لوگوں اور لوگوں کے احوال سے کھٹا ہوا۔ اُس آدمِ ملک ادا کو اس علمِ مادی سے لگاؤ کہاں؟ بکتے سے دُھائی کو کس دُور کسار کی اک کھوہ کہ ”جرا“ کے اسم سے موسوم ہے اللہ کے رسول کی آہ سحر گاہی سے معمور ہوئی اور ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوا کہ وہ وہاں آکر اللہ واحد کے آگے رور و کر لوگوں کی اصلاحِ اعمال و احوال کے لئے دُعا گو ہوئے۔ حمد و دُعا کے کلموں اور اللہ اللہ کے اسم سے رُوح و دل کو سرمدی سرور ملا۔ اسی طرح اک عرصہ رسول اللہ کا معمول رہا اور اللہ کا رسول اللہ کے آگے مجموعہ دُعا رہا۔

ولدِ عشر سے مکالمہ

رسول اللہ کے مملوک ولدِ محمدؐ سے مروی ہے کہ وہ اک سحر کو رسول اللہ کے ہمراہ

۱۲ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ۱۳ زید بن عمر بن نفیل: صحیح روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا انتقال بعثت سے پہلے ہو گیا تھا۔ چنانچہ عامر بن ابیعبس کی روایت اور پرگزربکی ہے کہ وہ (بقیہ حاشیہ ص ۶۷) پر ملاحظہ ہو

عوائی مکہ گئے۔ وہاں اک عالم موحد اور مرد آگاہ سے ملے اور کہا کہ ”اے عم ہمارے لوگ
مکرمہ رسوم اور اعمال کے دلدادہ ہو گئے اور اللہ واحد کی راہ سے ہٹ کر مٹی کے اللوں
سے دل لگا کر گمراہ ہو گئے۔ اس کا کوئی مداوا کرو کہ لوگ آگ کے الم سے رہا ہوں
اور لوگوں کو اللہ واحد کا علم ہو۔ وہ عالم بیکرم رسول اللہ سے مسکرا کے ملے اور کہا کہ
دور دور کے امصار و ممالک گھٹوما ہوں اور ”روح اللہ“ رسول کی وحی کے علماء سے
بلا ہوں۔ کئی علماء سے معلوم ہوا کہ وہ دور آگاہ ہے کہ اللہ کا اک رسول مکہ مکرمہ ہی سے
اُٹھے گا اور وہ اسلام کا علمدار ہوگا۔ اسی احساس کو لے کر مکہ مکرمہ لوٹا ہوں کہ اُس
رسول سے ملوں گا۔ مگر مکہ مکرمہ کے احوال اُسی طرح رہے، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ
رسول کس سال آئے گا۔“

اس طرح ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امرِ وحی سے اُدھر سارا عمر مصاعی ہے
کہ لوگوں کے احوال کی اصلاح ہو۔



(بقیہ حاشیہ ۶۶ سے اُسے) بعثت سے پہلے انتقال کر گئے تھے محدثین ان کو صحابہ میں شمار کرتے ہیں شاید
اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ مومن تھے اور آنحضرت سے بعثت سے پہلے ملاقات بھی ہوئی۔ (راجح السیرۃ ص ۵)
۳۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام تھے۔ انہوں نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا۔ ہمیشہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے یہاں تک
کہ زید بن محمد کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔

اللہ کے اسم سے کہ عام رحم والا، کمال رحم والا ہے

حصہ دوم .

رَسُولِ اَكْرَمِ صَلَّی اللہُ عَلَیْ رَسُوْلہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
کا

مکی دور

وُنْحیِ اَوَّل سے لے کر وداعِ مکتہ کے

سارے احوال ملتے ہوئے ہے :

وحیِ اول کی آمد

اللہ اللہ کر کے وہ لمحہ مسعود اور وہ امر الہی آئے رہا کہ اُس کی آمد کی اطلاع اہل عالم کو رسولوں کے واسطے سے دی گئی۔ وہ لمحہ مسعد کہ سارے عالم کے علماء اُس کی آمد کے لئے اللہ کے آگے ستر نکالنے بخود عار ہے۔ وہ لمحہ محمود کہ سارے عالم کے گم کردہ راہوں کے لئے مہر علم و عمل ہو کر طلوع ہوا اور لوگوں کو لای علمی کی گہری کھائی سے رہائی ملی۔ وہ لمحہ موعود کہ سالہا سال سے اللہ کے اس وعدے کی دلوں کو اُس رہی۔ مال کا اللہ کا وعدہ مکمل ہوا۔

اللہ کے رسول کی عمر ساٹھ کم سو سال ہوئی۔ اک سحر کو وہ چراگ کو گود کو معمور کئے نحو دعاء الحاج ہوئے۔ اللہ کا حکم ہوا اور ملائک کے سردار امر وحی لے کر آئے۔ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے کہا کہ ”اے رسول! اللہ کے اس کلام کو کہو“ رسول اکرمؐ کے دل کو ڈر سا طاری ہوا۔ اور کہا ”اے سردارِ ملائک! اُمّی ہوں اسی طرح دہرا کہہ کر اُمّی ہوں۔ سردارِ ملائک آگے آئے اور صدرِ رسولؐ کو چلے لگا کر کہا ”اے رسول اس کلام کو کہو“ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلام الہی کے اُس حصّہ کو کہہ کر سرور ہوئے کئی علماء کی رائے ہے کہ سردارِ ملائک وہ کلام لکھا ہوا لائے۔ اک لوحِ قرص اُس کلام کی حامل رہی۔ وہ لوح رسول اللہؐ کو دے کر کہا کہ اے رسول! اس کلام کو کہو“

وحی کے اسرار و حکم سے روح و دل مالا مال ہوئے اور نیکے کے اس درِ صبا

۱۔ حضرت جبرائیلؑ نے فرمایا کہ اقراء یعنی پڑھو، آپ نے جواب دیا کہ ”ما انا بقارئ“ میں پڑھ نہیں سکتا، یعنی ”دیرۃ المسطیٰ“ ۲۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب سے کہ ”میں پڑھ نہیں سکتا“، یعنی (بقیہ حاشیہ۔ محکم پر ملاحظہ ہو)

کو رسولِ اُمم کا غمدہ اعلیٰ عطا ہوا۔ امیرِ الٰہی کا کوہِ گراں اٹھائے اور اولادِ آدم کی اصلاح کے اس امراہم کے احساس سے سرگراں گھر لوٹے۔ دُوح و دِل کو اللہ کا ڈر طاری ہوا۔ سرودی ہی محسوس ہوئی۔ گھر آکر عروسِ مکرمہ سے کہا کہ ”دوا اوڑھاؤ“ حواس اکٹھے ہونے۔ عروسِ مکرمہ سے سارا حال کہا اور کہا کہ ہم کو ڈر ہے کہ ہماری دُوح ہم سے الگ ہوئے۔ عروسِ مکرمہ سارا حال معلوم کر کے آگے آئی اور کہا کہ ”دحم و کرم اور صلہ دُحی کے عامل کو اللہ کی اُس رہے۔ اللہ اُس آدمی کو کس طرح دُساوا اور ہلاک کرے گا کہ وہ دوسروں کا ہمدرد ہو اور محروموں کا آسرا۔ ہم کو اللہ سے اُس ہے کہ مکے کا مرد صالح اللہ کا رسول ہو گا۔ اس اللہ والی سے دلا سے کے کلمے ملے دِل ہلکا ہوا۔ عروسِ مکرمہ اُٹھی اور کہا کہ اے رسولِ آؤ، ہمارا اک ولدِ عَم عالم

دبقہ حاشیہ ۶۹ سے آگے آتی ہوں، یہ اشکال ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ پڑھو! قرأت یعنی زبان سے پڑھنا اور ادا کرنا آتی ہونے کے منافی نہیں ہے۔ اس لئے آنحضرتؐ نے یہ جواب کیوں دیا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ آنحضرتؐ لکھی ہوئی تحریریں پڑھ سکتے تھے مگر زبان سے الفاظ ادا کر سکتے تھے۔ لیکن حضرت جبرائیلؑ جو اہرات سے مرقع ایک میخنے لے کر آئے تھے جس پر سورہٴ اٰلٰی کی وہ آیاتِ کریمہ تحریر تھیں جیسا کہ بعض روایات میں ہے۔ اس صورت میں آنحضرتؐ لی اللہ علیہ وسلم کا جواب ”ما انا بقادح“ بالکل درست ہے اور اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام کوئی تحریر نہیں لائے تھے تو اُس صورت میں ”ما انا بقادح“ کا مطلب یہ نہیں ہو گا میں تحریریں پڑھ سکتا بلکہ یہ ہو گا کہ وحی الٰہی کی دہشتِ ابدہیت سے مجھ سے یہ الفاظ ادا نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ بعض روایات میں آپؐ کا جواب ان الفاظ میں منقول ہے کہ ”کَیْفَ اقْرَأُ“ اسی بنا پر، ”ما انا بقادح“ کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ (سیرۃ المصطفیٰ ص ۱۸ ج ۱۰ بحوالہ اشعۃ السمعات، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی) یہاں ”کو کا لفظ ”پڑھو“ ہی کے معنی میں رکھا گیا، مجبوری ظاہر ہے۔

لے فرمایا کہ زَمَلْنٰی زَمَلْنٰی، مجھے اوڑھاؤ، مجھے اوڑھاؤ۔ تھ مجھے اندیشہ ہے کہ میری جان بھل جائے یہاں ہلاک ہونے کا لفظ بھی رکھا جاسکتا تھا مگر سڑے ادب کے خیال سے اُسے ترک کر دیا۔ ۱۲

موتحد ہے۔ اور وحی کا عالم ہے۔ اسی سے اس امر انہم کا حال معلوم ہوگا۔

ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور عروسِ مکرمہ کے ہمراہ اُس عالم کے گھر گئے اُس سے بل کر سارا حال کہا۔ اُس عالمِ موحد سے معلوم ہوا کہ اللہ کا وہ ناک وہی ہے کہ موسیٰ رسول کے لئے کلامِ الہی لے کر وارد ہوا اور اطلاع دی کہ نیک کے اس مرد صالح کو اللہ کے حکم سے ”رسولِ امم“ کا عہدہ عطا ہوا ہے۔ اور کہا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر ہم کو وہ دور ملا، ہم اللہ کے رسول کے حامی ہوں گے۔ اس کے علاوہ اُس عالم سے معلوم ہوا کہ اہل مکہ اللہ کے اس رسول کے اعداء ہو کر اور اُس کو مکہ مکرمہ سے دور کر کے اُس کے علوم و حکم سے محروم ہوں گے۔

اس طرح اس عالمِ موحد سے سارے احوال کہہ کر سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹے۔

وہ لوگ کہ اول اسلام لائے

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہوا کہ اول اول گھروالوں کو اسلام کی راہ دکھاؤ عروسِ مکرمہ سے کہا کہ اے محرمِ دل! اللہ واحد ہے اور محمد اللہ کا رسول ہے۔ اسلام لے آؤ۔ عروسِ مکرمہ اسی دم لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کہہ کر اسلام لائی اور سارے لوگوں سے اول اس کو اسلام کا اکرام ملا اور مسلمہ ازل کہلائی۔ وحی اول سومراہ کو آئی اور اسی سومراہ کو عروسِ مکرمہ اسلام سے مالا مال ہوئی۔

لے وہ بن نوفل : یہ تودیت اور انجیل کے بڑے عالم تھے اور سریانی سے عربی میں انجیل کا ترجمہ کرتے تھے۔ بُت پرستی پھر بڑ کر نہرائی ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد اُن کا انتقال ہو گیا۔ ہو گیا۔ مستند اک حاکم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ورقہ کو بُرا مت کہو، میں نے اُس کے لئے جنت میں ایک یادِ دباغ دیکھے ہیں۔ (ریبہ والمصطفی ص ۱۱۱) لے سابقین اولین :-

رسول اللہ کے ولید عَمّ علی کرمہ اللہ، رسول اللہ کے گھر آئے۔ عروسِ مکرمہ اللہ کے آگے کھڑی ہو کر محوِ حمدِ الہی ہوئی۔ عروسِ مکرمہ سے کہا کہ اس عمل کا معاملہ ہم سے کہو۔ رسول اللہ علی کرمہ اللہ کے آگے آئے اور کہا کہ وہ اللہ واحد کی راہ ہے، اسی راہ کو لے کر سارے رسول آئے۔ اے ولید عَمّ! بچے والوں کے اللہوں سے دُور ہو کر اللہ واحد کے ہونے ہو۔ علی کرمہ اللہ کو سرکارِ دو عالم سے اول ہی سے دلی لگا ڈرا۔ وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اول والدِ مکرم کو اس حال کی اطلاع دے کر والد کی رائے لوں گا مگر رسول اللہ کو ڈر ہوا کہ عمِ سردار کو سارا حال معلوم ہو گا۔ اس لئے کہا کہ اس حال کو عمِ سردار سے دُور رکھو، علی کرمہ اللہ گھر آ گئے، بنگر اگلی ہی سحر کو اسلام کے لئے آمادگی عطا ہوئی اور ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ کر کہا کہ کس امر کے لئے اللہ کا رسول مامور ہوا ہے؟ کہا۔ اے ولید عَمّ! اس امر کے لئے کہ گواہی دو کہ اللہ واحد ہے اور سارے عالم کے لوگ اُس کی ہمسری سے عاری ہوئے اور مٹی کے گھڑے ہوئے اللہوں کو دل سے دُور کر دو۔ علی کرمہ اللہ اُسی دم کلمہ اسلام کہہ کر اسلام لائے۔ اور عالم کے سارے لڑکوں کے مسلمِ اول ہوئے۔ علی کرمہ اللہ کی عمر اس سال دس سال کی ہوئی۔

ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکِ مملوک کہ رسول اللہ کی اولاد کی طرح ہے، اسی طرح اسلام لاکر رسول اللہ کے حامی ہوئے اور مملوکوں کے مسلمِ اول کہلائے۔ گھر والے اسلام لے آئے۔ ارادہ ہوا کہ اللہ کا حکم دوسرے ہمدموں کو معلوم ہو۔ رسول اللہ کے اکِ ہم عمر اور ہمدَم کہ بچے والوں کے لئے بہتر مہر ہے اور کئی سال سے رسول اللہ کے ہمدَم ہے۔ گھر آ کر رسول اللہ سے ملے۔ رسول اللہ سے اللہ کا حکم معلوم ہوا۔ اُسی دم لے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اسلام لانے کا یہ سارا واقعہ الباریہ والنہایہ سے لیا گیا ہے (سیرۃ المصطفیٰ ص ۱۲۴)۔

لے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ؛ بعثت سے پہلے ہی سے آنحضرت کے دوست تھے اس لیے ان کے لئے ہمدَم مکرم کا غنما اختیار کیا گیا ہے۔

دل اسلام کے لئے آمادہ ہوا اور اسی لمحہ اسلام لے آئے۔

ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے :

» سارے لوگ اسلام کے امر سے اول اول رُکے اور ڈرے مگر ہم مکرم کے ہر کاوٹ اور ہر ڈر سے دور رہے اور اسی لمحہ اسلام لا کر رسول اللہ کے ہمدم ہوئے «

اس کے علاوہ ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمدم مکرم کی سعی سے مکہ مکرمہ کے کئی لوگ اسلام لا کر رسول اللہ کے ہمدم ہوئے۔ ہمدم مکرم کی سعی سے ولد العوام، طلحہ، سعد اور اسلام کے حاکم سوز اور رسول اللہ کے داماد اور اک اور ہمدم رسول اسلام لائے۔ عروہ بن مکرمہ کے علاوہ کل آٹھ ہمدم سارے لوگوں سے اول مسلم ہوئے۔ اول اسلام والوں کا حال اس لئے اہم ہے کہ وہ دوسرے اہل اسلام سے سوا مکرم و معرود ہوئے اور کلام الہی سے سارے اول ہمدوں کے لئے گواہی آئی۔

اس کے علاوہ وہ دوسرے ہمدم کہ اسلام کے دور اول کے مسلم ہوئے۔ علمائے اس طرح مسطور ہوئے۔ ولد مسعود، سلمہ کے والد، ام عمار، سلمہ، ہمدم مکرم کی لڑکی اسماء، سلمہ کی لڑکی اسماء ولد عمرو، دوسرے ہمدم مسعود، عامر، معمر اور دوسرے کئی لوگ اول اسلام

لے سب سے پہلے کون اسلام لایا۔ اس مسئلے میں مختلف روایتیں ہیں۔ کوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حق میں ہے، کوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اور کوئی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مگر ساری روایتوں سے اتنی بات بغیر کسی تردد کے ظاہر ہوتی ہے کہ عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کون میں حضرت علی رضی اللہ عنہ میں غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ اور بڑوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے اول اسلام لائے۔ ۱۲۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے پانچ صحابہ کرام اسلام ہوئے حضرت زبیر بن عوام، حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم (راجع السیرۃ ص ۷) ۱۵۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف لے ان حضرت کے پورے نام بالترتیب اس طرح ہیں (۱) حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابوسلمہ، ام عمار، سلمہ، حضرت اسماء، اسماء بنت سلمہ، حضرت سلیمان بن عمرو، حضرت مسعود بن زبیر، حضرت عامر بن زبیر، حضرت معمر بن الحارث بنہ

لاکڑ اس اکرام کے حقہ دار ہوئے۔ الحاصل اس طرح نکل آدھے سو سے اک کم لوگ اسلام لاکر
اللہ کے رسول کے ہمدم ہوئے۔

رسول اللہ کا دورِ ملال

کوہِ حرا کی دجی اول سے ادھر اک عرصہ وحی کا سلسلہ رکھا رہا اور وہ سارا عرصہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ملال و الم کا عرصہ رہا۔ ہادی اکرمؐ اس سارا عرصہ
ہر دم ملول رہے اور دل کو اللہ کا ڈر طاری رہا کہ اللہ کی درگاہ سے وحی کا سلسلہ
کس لئے رکھا ہوا ہے؟ سارے ہمدم رسول اللہ کی دلدادہی کے لئے ساعی رہے۔
مال کا ر اللہ کا حکم ہوا اور سرورِ ملائک اللہ کی دجی لے کر آئے اور اس طرح سے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے وہ ملال و الم دُور ہوا اور سرورِ دل
سے امرِ اسلام کے لئے ساعی رہے۔

دو اور اک سال اللہ کے رسول کو حکم رہا کہ وہ اکاؤنٹ کا لوگوں کو اسلام کی راہ دکھائے
کہ لوگ اس امرِ انبی کے عامل ہوں۔ رسول اللہ کا معمول اسی طرح رہا اور لوگ الگ الگ
اسلام لاکر ہادی اکرمؐ کے حامی ہوئے۔

کھلم کھلا امرِ اسلام کا حکم

وحی کے واسطے سے اللہ کا حکم وارد ہوا کہ :-

”اے رسول! کھلم کھلا لوگوں کو اسلام کی راہ دکھاؤ اور گمراہوں سے
الگ رہو اور اول اُسرہ رسول کے لوگوں کو ڈراؤ اور وہ لوگ
کہ اسلام لائے، ساروں سے ملائی اور کرم کا سلوک کرو اور کہہ دو

یہ اصحابِ الیتریں سابقین اولین کی فہرست ۴۱۹ اصحاب کے ناموں پر مشتمل ہے :-
(مختصر دلی)

کہ مامور ہوا ہوں کہ لوگوں کو کھلم کھلا ڈراؤں۔“

ہادٹی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس امر الہی کو لے کر کھڑے ہوئے اور سارے
اُسے کو اکٹھا کر کے اللہ کا حکم آگے رکھا اور کہا کہ اے لوگو! اللہ کا رسول ہو کر مامور
ہوا ہوں کہ لوگوں کو اللہ واحد کی راہ دکھاؤں۔ اُسی اللہ واحد کی راہ لگو کہ اس عالم اور
اہل عالم کے سارے امور کا واحد مالک ہے۔“

مگر لوگ ہٹ دھرمی اور لاعلمی کی راہ لگے رہے۔ نئے کے کُسا روں سے صدا
دی کہ اے ہمارے اعمام اور اولادِ اعمام! اے نئے کے لوگو! ادھر آؤ۔ وہ سارے
لوگ اکٹھے ہو گئے، ہادٹی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور سارے لوگوں
سے اس طرح ہم کلام ہوئے۔

”اے لوگو! اگر اطلاع دوں کہ اس کوہ کے ادھر سے اعداء کا اک عسکر
آ رہا ہے۔ اس اطلاع کو صادر کرو گے کہ مدد کر دو گے؟“

کماؤ اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری عمر ہم لوگوں کے ہمراہ رہے ہو۔
ہم کو معلوم ہے کہ اگر کوئی کلام کرے وہ کلام اٹل ہوگا۔“

۱۔ یہ غیر منقطع ترجمہ قرآن کریم کی اس آیت کا کیا گیا ہے: فَاَمْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ
وَاَنْتَ عَشِيرَتُكَ الْاَقْرَبِينَ ۝ وَاَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعْتُ الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَقُلْ اِنِّى اَنَا
الْغَافِلُ الْعَبِيْنُ ۝ جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کا صاف صاف اعلان کر دیجئے اور مشرکین
کی پرواہ نہ کیجئے اور سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا لیٹے اور جو مومنوں میں سے آپ
آپ کا اتباع کرے، اُس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیجئے اور کہہ دیجئے کہ میں صریح ڈرانے والا ہوں۔“
۲۔ اس بارے میں دو تین روایتیں ہیں۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سب
کو گھر میں جمع کر کے عام دعوت دی۔ دوسری روایت میں ہے کہ کوہ مغایر چڑھ کر اعلان کیا۔ سیرت
کی کتابوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے واقعات اپنی اپنی جگہ درست ہیں اور آپ نے
ان سارے طریقوں سے لوگوں کو اسلام کی عام دعوت دی۔

۳۔ اعمام: عم کی جمع یعنی چچا ۛ

کہا کہ ”اے لوگو! معلوم ہو کہ اللہ واحد ہے اور وہی سارے امور کا واحد مالک ہے، اس کا منتر ہے کہ لوگوں کو اُس آگ سے ڈراؤں کہ گمراہوں کے لئے دہکائی گئی ہے“

عم مروود کھڑا ہوا اور رسول اللہ ص سے سوئے کلام کر کے کہا کہ ”اسی لئے ہم اکٹھے کئے گئے؟ اور سارے لوگوں کو ہمراہ لے کر لوٹا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صدائے کمالہ اَللّٰہُ اَہْلَ مَکَہ کے لئے اک دھماکہ ہو کر آئی۔ اس صدائے رسولؐ سے اہل مکہ دو گروہ ہو گئے۔ یکے کے سادہ کار اور سادہ دل لوگ اسلام لاکر اللہ اور اُس کے رسولؐ کے حامی ہوئے اور وہاں کے مالدار اور سردار اور سرکردہ لوگ ہٹ دھرمی اور حسد کی راہ لگے۔ یکے کے گمراہوں کا گروہ اہل اسلام کا عدو ہو کر سامعی ہوا کہ مسلمانوں کو ہر طرح سے اسلام کی راہ سے روکے۔

ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اک سحر کو حرم مکہ اکرم ”دار اللہ“ کے آگے کھڑے ہوئے اور صدادی کہ ”اللہ واحد ہے“ اہل مکہ اس صدا سے کھول اُٹھے اور رسول اکرمؐ کے گرد اک حملہ آور ہوئے۔ رسول اللہ کے اک ہمدرد والدِ ہالہ کے ولد کو معلوم ہوا وہ گھر سے اُٹھ کر آئے اور رسول اللہ کے حامی ہو کر لڑے۔ اللہ اور اُس کے رسولؐ کے اعداد مل کر حملہ آور ہوئے اور وہ لڑ کھڑا کر گمراہے اور اس طرح وہ اسلام کے اَدلِ سلم ہوئے کہ اللہ اور رسولؐ کے لئے لڑ کر مارے گئے۔

اہل اسلام کا دَوْرِ آلام

یکے کے سارے گمراہ رسول اللہ اور اہل اسلام کے عدو ہو گئے اور سارے

۱۔ سیرۃ النبیؐ جلد اول ص ۲۱ بحوالہ صحیح بخاری۔ ۲۔ حضرت حارث بن ابی ہالہ اسلام کے سب سے پہلے شہید ہیں جو کفار سے لڑ کر شہید ہوئے۔ (سیرۃ النبیؐ ج ۱ ص ۲۱)۔

لوگ بل کر اہل اسلام کی رسوائی اور الم رسائی کے لئے ساعی ہوئے۔ اللہ والے اللہ کے گھر سے دور رکھے گئے۔ ہر ہر گام رد و کد اور لڑائی کا سلسلہ ہوا۔ اہل اسلام عظیم رسوائی کئے گئے۔ دھمکائے گئے کوڑوں سے مارے گئے اور ہر طرح کے آزار سے محروم کئے گئے۔ مگر اللہ اور رسول کے حامی ”اللہ احد“ کی صدا لگا کر سارے صدمے سہہ گئے اور اسلام کا کارواں اللہ کے حکم سے رواں دواں رہا۔

ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اک ہندم اور نئے کے اک سردار کے مملوک کہ رسول اللہ کے حکم سے ”صدائے عماد اسلام“ کے لئے مامور ہوئے ہر طرح سے دیکھی گئے گئے۔ اُس کا مالک رحم اور ہمدردی کے احساس سے سدا محروم رہا وہ اس مملوک کو دکھ اور الم دے کر مسرور ہوا۔ گاہ گائے کی کھال لاکر اُس مملوک کو اوڑھادی گاہ لوہے کی صدری اوڑھا کر گرو اور گرمی کے حوالے ہوئے۔ گاہ ریتی گلے ڈال کے لڑکوں کے حوالے کئے گئے۔ مگر اُس اللہ والے سے ”احد“ ”احد“ ہی کی صدا اُٹی اور اللہ کے لئے وہ سارے صدمے سہہ کر مسرور ہوئے۔

اسی طرح ہندم رسول عمار کا معاملہ ہے۔ اُس کو ہر طرح کے آلام اور دکھ دے کر نئے والے مسرور ہوئے اور کہا کہ اسلام سے الگ رہو۔ مگر رسول اللہ کا وہ ہندم ڈٹا رہا اور ہر طرح کے دکھ سہہ کر اللہ اور اُس کے رسول کا حامی رہا۔ وہ ہندم

۱۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے۔ اُن کا مالک اُن کو گرم ریت پر لٹا کر کوڑے لگاتا رہی باندھ کر کھینچتا، مگر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ”اللہ احد، اللہ احد“ کا نعرہ لگاتے رہے۔

۲۔ حضرت بلال حبشیؓ، امین بن خلف کے غلام تھے۔ وہ انہیں یہ ساری اذیتیں دے کر خوش ہوتا تھا اور آپ کے منہ سے بے اختیار ”احد، احد“ نکلتا تھا۔ ۳۔ نماز کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”المصلوۃ عماد الدین“ نماز کو تعبیر کرنے کے لئے کوئی دوسرا لفظ اردو کا غیر منقوط نہیں مل سکا اس لئے اس حدیث کا لفظ عماد اختیار کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن تھے۔ ۴۔ حضرت عمار ابن یاسرؓ:

رسول آگ سے لگا کر لٹائے گئے۔ اک سحر کو اس ہمد رسول کے لئے لوگ آگ لائے اور اس کو لٹا کے اُس کے گرد کھڑے ہوئے۔ ہادی اکرم اُس راہ سے آئے اور عمار کے سر کو لمس کر کے اس طرح دعا گو ہوئے :

”اے آگ! عمار کے لئے سرد اور سلام ہو، اُسی طرح کہ معمارِ حرم کے لئے سرد اور سلام ہوئی“

دوسرے علماء سے مروی ہے کہ ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح دلا کے کلمے ملے :

”اے عمار اور اُس کے گھر والو! حلم سے کام لو، دارالسلام کی دلی مُراد ہے کہ وہاں آکر رہو“

ہمد رسول عمار کی کمر اس آگ سے کالی ہو گئی اور ساری عمر اسی طرح رہی۔ اسی طرح تکتے والوں کا رسول اللہ کے اور کئی ہمدوں سے اسی طرح کا سلوک رہا اور وہ سارے کے سارے آلام سہہ سہہ کر ڈٹے رہے اور اللہ کے آگے کامگیا و مسرور ہوئے۔ ہر ہر ہمد کے آلام کو آگ آگ اگر لکھوں اک مکتل رسالہ اس کام کے لئے درکار ہوگا۔

رسول اللہ کے ہمدوں کے اس دورِ آلام کا حال ہمارے لئے اور سارے اہل اسلام کے لئے اک درس ہے کہ اسلام کے حصول کے لئے کس کس طرح کے دکھ سہے اور اک ہمارا حال ہے کہ ہم کو اللہ کے کرم سے اسلام کی راہ اس طرح مل گئی کہ ہر طرح کے دکھ اور الم سے دُور رہے۔ اللہ ہم اہل اسلام کو اس کا اہل کرے کہ ہم اسلام کے اس کرمِ لامحدود سے آگاہ ہو کر اس کے احکام کے عامل ہوں اور رُوح و دل

لہ آنحضرت نے اُن کے سر پر ہاتھ پھیر کر یہ فرمایا یا ناز کوئی برّہ اذّ سلماً علی عمار کما کنت علی ابراہیم
دیرت المصطفیٰ ج اصلاً ۱) ۲) فرماتے کہ ”جنت تمہاری مشتاق ہے، (سیرۃ المصطفیٰ ج اصلاً

بحوالہ استیعاب لابن عبدالبر) ۳)

اور مال سے اس کے لئے ساعی ہوں۔

علمائے اسلام کی رائے ہے کہ رسول اللہ کے ہم دموں کے لئے کہ مکے والوں کے سامنے آلام سہہ کر ڈٹے رہے۔ کلام الہی وارد ہوا۔ اُس کلام کا حاصل اس طرح ہے:

”وہ لوگ کہ طرح طرح کے آلام سہہ کر رسول اللہ کے ہمراہ مکے کو الوداع کہہ کر سوئے معمورہ رسول راہی ہوئے اور علم کے حامل رہے اور اللہ کے لئے لڑے۔ ساروں کے اعمالِ سوء محو ہوں گے اور اللہ کا کرم ساروں کو حاصل ہو گا“

الحاصل اسلام کا وہ دورِ اوّل اہل اسلام کے لئے کڑے آلام اور دکھوں کا دور رہا۔ اسلام کے وہ اوّل رکھوالے ہر طرح کسوٹی سے کسے گئے۔ اس لئے کہ وہ اس عالمی وحی کے علوم و اسرار کے رکھوالے ہو کر اہل عالم کے امام ہوں گے۔ اللہ کے کرم سے وہ اللہ والے ہر کھوٹ سے دور اور کھڑے ہو کر اہل عالم کے آگے آئے۔

اک مملوکہ صالحہ کا معاملہ

ہمدرد گرامی عمر حصولِ اسلام سے اُدھر ہادی عالمِ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرے عدو رہے اور اہل مکہ کے ہمراہ اہل اسلام کو طرح طرح کے دکھ دے کر مسرور ہوئے۔ اُس کی اک مملوکہ اللہ کے کرم اور اُس کی عطا سے اسلام لے آئی۔ عمر کو

لے قرآن کریم کی یہ آیت انہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے مکہ والوں کے ظلم برداشت کئے:

تَعْرَبُونَ بِاللَّذِيں هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا قَاتَلُوا. ثُمَّ جَاہِدُوا وَاعْبُدُوا. اِنَّ رَبَّكُم مِّن بَعْدِ هَٰذَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔ بیشک تیرا رب اُن لوگوں کے لئے جنہوں نے معاذ اور آلام کے بعد ہجرت کی اُجاڑ کیا اور صبر کیا، بیشک تیرا رب اُن کی مغفرت کرنے والا اور اُن پر رحم کرنے والا ہے۔ ”غیر منقطع عبارت میں اُس آیت کا منشاء ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ آیت کا ترجمہ ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ حضرت زبیرؓ، حضرت عمرؓ کی کنیز تھیں۔ ان کی مار سے اندھی ہو گئی تھیں (بقیۃ المصطفیٰ ج ۱ ص ۱۷۷)

معلوم ہوا، اس صالحہ کو اس طرح کی مار ماری کہ وہ اُدھم مری ہوگئی اور عمر ہی کی مار سے وہ اعمیٰ ہوگئی۔ مکے کے سردار اس سے مسرور ہوئے اور کہا کہ ہمارے اللہوں کے حکم سے وہ اعمیٰ ہوگئی ہے۔ اُس مملوکہ صالحہ کو اس کلام سے ملال ہوا اور کہا کہ مٹی کے الہ مکے والوں سے سوال علم رہے۔ اللہ کا حکم ہمارے لئے اسی طرح ہوا اللہ سارے اُمور کا مالک ہے، اگر اس کا حکم ہو وہ اس مملوکہ کو دم کے دم عام لوگوں کی طرح اس روگ سے دور کر دے۔

اللہ کے کرم کی اک لہرائی اور وہ مملوکہ اُس کے حکم سے معمول کی طرح ہوگئی۔ اہل مکہ کو معلوم ہوا۔ کہا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سحر سے اس طرح ہوا بہم مکرّم اس مملوکہ کو معمول لے کر آئے اور اس کو رہا کر کے اللہ اور اُس کے رسولؐ کے آگے کامگار و مسرور ہوئے۔

عَمّ سردار کا حوصلہ

عَمّ سردار کو سارے احوال معلوم ہوئے۔ احساس ہوا کہ اہل مکہ عموماً رسول اللہؐ کے عدو ہو گئے اور ہر طرح سے اُس کی اور اُس کے ہمدموں کی الم دہی کے لئے سعی ہوئے۔ اس لئے عَمّ سردار حوصلہ کر کے آگے آئے اور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی ہو کر کھلم کھلا آگے آ گئے۔ اس امر سے اہل مکہ کو دھکا لگا۔ اس لئے کہ عَمّ سردار ہر گروہ کے لوگوں کے لئے مکرّم رہے۔ مکے والوں کو ڈر ہوا کہ اُسرد رسولؐ کے سارے لوگ لامحالہ اُس کے حامی ہو کر اُس کے گرد اکٹھے ہوں گے۔ اس لئے عَمّ سردار کے ڈر سے لوگ رسول اکرمؐ سے الگ رہے اور ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے لئے اسی طرح سعی رہے اور اہل اسلام کو عَمّ سردار کے اس سلوک سے

حوصلاً ہوا۔ اور وہ اللہ کے رسول کے ہمراہ کلمہ اسلام کے لئے نکلی گئی اور گھر گھر گھومے۔

عجم سردار سے اہل مکہ کا مکالمہ

اہل مکہ کو کہاں گوارا کہ اللہ کا رسولؐ علم اسلام لے کر گھومے اور مٹی کے گھڑے ہوئے النوں کی راہ کھوٹی کرے۔ اللہ اللہ وہ رسولؐ اُمم کے سارے عالم کا ہادی ہو کر اہل مکہ کو عطا ہوا اور وہی لوگ اُس کے عدو ہو کر راہ اسلام کی رکاوٹ بن گئے۔ وائے لوگوں کی محرومی کہ رحم و کرم کا علمدار لوگوں کو گمراہی کی گہری کھائی سے اٹھا کر سردی اور دائمی آسودگی کی راہ دکھائے اور وہی لوگ اُس کے عدو ہو کر اُس کی راہ کی رکاوٹ ہوں۔ مگر اللہ کا حکم اسی طرح ہوا۔

تکے کے سرکردہ لوگ اکٹھے ہوئے اور اک دوسرے سے رائے لی کہ اس معاملہ کا حل کس طرح ہو۔ اک اک کر کے مسلمانوں کا عدد سوا ہوا۔ اس لئے ہمارے لئے اہم ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا مسئلہ کسی طرح طے ہو۔ رائے ہوئی کہ عجم سردار سے ہی کہو کہ وہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اس امر سے روک کر ہمارا مسئلہ حل کرے۔ سارے لوگ اکٹھے ہو کر عجم سردار کے گھر آئے اور اُس سے کہا۔

”اے سردار! محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اس امر سے روکو، وہ ہمارے

النوں کا عدو ہوا اور سارے النوں کے لئے رسوائی کے کلمے کہے،

اُس کی رائے ہے کہ ہماری راہ گمراہی کی راہ ہے اور ہمارے سارے

مرحوم لوگوں کے لئے اُس کی رائے ہے کہ وہ دارالاکلام کو سدھائے، ہماری

لے اس وفد میں یہ لوگ تھے: عتبہ بن ربیع، شیبہ بن ربیع، ابو سفیان بن حرب، عامر بن ہشام
اسود بن اعطب، ابو جہل۔ ۳۵ دارالاکلام: دوزخ ۳۶ یہ سارا حال امج البتیر سے
لیا گیا ہے۔ ص ۳۳۰

ساری رسوم کو مکر وہ کہا۔ اس لئے اے سردار! گو کہ ہمارے لئے مکرم ہو
مگر ہمارا اصرار ہے کہ اُس کو اس امر سے روک دو اور اگر ہو سکے اُس
کی ہمدردی سے الگ ہو رہو۔“

اس طرح کہہ کر وہ گروہ عظیم سردار کے گھر سے لوٹا۔ مکے والوں کے اس کلام
سے عظیم سردار کو دکھ ہوا کہ وہ لوگ اُس کے عدد ہو گئے اور دھمکی دے کر گئے۔
عظیم سردار کا دل ادا اس ہوا۔ مگر دل سے رسول اکرم کے ہمدرد اور حامی رہے مگر
اسلام کی راہ سے ہٹے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اُنکے کہا کہ اے
ولد صالح مکہ کے سردار آئے اور اس طرح کا کلام کر کے گئے۔

عظیم سردار سے دوسرا مکالمہ

ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امیر الہی کے لئے ساعی رہے اور کھلم کھلا لوگوں
سے کہا کہ لوگو! مٹی کے النوں کی راہ ہلاکی اور رسوائی کی راہ ہے۔ اللہ واحد کالم حاصل
کرد اور اس ہلاکی سے دور رہو، اتنا دکھا لوگ اسلام لاکر رسول اللہ ص کے حامی
ہوئے اور اسلام کے احکام سے لوگوں کے احوال و اطوار کی اصلاح ہوئی۔

اس حال سے مکے کے گمراہوں کا حسد سوا ہوا اور مال کا سارے سرکردہ
لوگوں کی رائے ہوئی کہ مکے کے سرداروں کا گروہ عظیم سردار سے مل کر کھلم کھلا اُس
کو دھمکانے اور آمادہ کرے کہ وہ رسول اللہ ص کی ہمدردی سے الگ ہو اور اُس
کو ہمارے حوالے کر دے۔ یہوس و حسد کے علمداد اکٹھے ہو کر آئے اور کہا۔

”و اے سردار! ہمارے دل سردار کے اکرام سے سدا معمور رہے، مگر

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ حد سے سوا ہوا ہے۔ ہمارے النوں
کی اک عرصہ سے رسوائی ہو رہی ہے۔ ہم رُکے رہے مگر اے سردار!

واللہ! امر محال ہے کہ ہم اس معاملے کو سہہ کر الگ ہوں۔ اسلام کے امر سے نکتے کے ہر گھر کے لوگ اک دوسرے کے عدد ہو گئے۔ والد اولاد کا عدد ہوا اور اولاد والد کا۔ سردار کی ہمدردی سے اہل اسلام اور حوصلہ ور ہو گئے۔ اس لئے ہماری رلٹے ہے کہ اس مسئلہ کو اس طرح حل کرو کہ مکہ کا ایک آدمی عمارہ ہمارے ہمراہ ہے، اس کو ہم سے لے لو کہ وہ سردار کے ہمراہ اُس کے گھر رہے اور اس کے صلے محمد کو ہمارے حوالے کر دو کہ ہم اس کو ہلاک کر کے سارے النوں کے آگے کامنکار ہوں۔ عمارہ اک مالدار آدمی ہے اس کے سارے اموال اور املاک کے مالک رہو گے۔“

عیم سردار اہل مکہ کے آگے ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور کہا :
 ”واللہ وہ امر لے کے آئے ہو کہ عدل سے دُور ہے اور گھٹائے کا سودا ہے۔ اس لڑکے کو لائے ہو کہ وہ ہمارے حوالے ہو، ہم اُس کو سالم رکھ کر اُس کے ہر امر کے لئے سعی ہوں اور تمہر ہو کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ہم سے لے لو اور اُس کو مار ڈالو۔ لوگو! اس مکروہ معاملے کی اُس کو دل سے دُور کرو۔“

اس کلام سے نکتے کے لوگوں کو محسوس ہوا کہ محال ہے کہ عیم سردار رسول اللہ کی ہمدردی سے ہٹ کر الگ ہوں۔ اس لئے کہا کہ اے سردار! محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اس امر سے روک لو۔ اگر اس امر کے حوصلے سے محروم ہو، لڑائی سے اس مسئلہ کا حل ہو گا۔“ اس طرح وہ لوگ دھمکی دے کر لوٹ گئے۔
 عیم سردار کو محسوس ہوا کہ نکتے والے مل کر اُسے رسول کے لوگوں سے کسی مکروہ

سلوک کے عامل ہوں گے اس لئے ارادہ ہو کہ وہ رسول اللہؐ سے مل کر مُصر ہوں کہ وہ اس مسئلہ کو کسی طرح حل کر لے۔ اس لئے رسول اللہؐ سے آکر کہا کہ اے ولدِ بشارؑ بٹکتے والے ہم لوگوں کے عدو ہو گئے۔ وہ اکٹھے ہو کر آئے اور اس طرح دھمکی دے کر لوٹے۔ اس لئے اے محمدؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم لوگوں کے حال سے رحم کا معاملہ کرو، اگر ہو سکے اہل مکہ سے کوئی معاملہ طے کر کے اس مسئلہ کو حل کر لو۔“

ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ عیم سردارہ! بٹکتے والوں سے ڈر گئے اور اُس کا حوصلہ کم ہوا اور وہ بٹکتے والوں کے اصرار سے ڈر کر اللہ کے رسول کی ہمدردی سے الگ ہوں گے۔ اس احساس سے دل دکھا۔ مگر رسول اکرمؐ لگے آئے اور کہا اے عیم مکرّم! اللہ کے امر سے مامور ہوں، واللہ! بٹکتے والوں کا ہم سے کوئی سلوک ہو، کسی طرح کا صدر آئے۔ اللہ کے حکم سے امرِ اسلام مکمل ہو گا۔ گو اس کے لئے محمدؐ کی رُوح اُس سے الگ ہو۔

عیم سردارہ کو رسول اللہؐ کے اس حوصلہ آراء کلام سے حوصلہ ہوا اور کہا کہ اے ولدِ امرِ اسلام کے لئے ہر طرح ساعی نہ ہو۔ کسی کا حوصلہ کہاں کہ وہ عیم سردارہ کے لاڈلے کو کوئی دکھ دے۔

دوسرے کئی علماء سے مروی ہے کہ بٹکتے کے سردارہ عیم سردارہ کے گھر آئے اور عیم سردارہ سے کہا کہ محمدؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ہمدردی سے الگ ہو رہو اور کہا کہ عمار کو ہم سے لے لو اور اس کے صلے محمدؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ہمارے حوالہ

۱۔ روایات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بھی ہیں، فرمایا کہ ”خدا کی قسم! اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہ آؤں گا۔“
(سیرت النبیؐ ج ۱ ص ۱۹۷)

۲۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا جاؤ تم اپنا کام کرو، کوئی تمہارا بال بھی بچا نہیں کر سکتا۔ (حوالہ بالا)
۳۔ اخبار النبیؐ، ترجمہ اردو طبقات ابن سعد حصہ اول ص ۳۳

کرو، اس کلام کو مسموع کہ عجم سردار کھڑے ہو گئے اور وہ سارا کلام کہا کہ اس سے آگے
 مسطور ہوا۔ سرداروں کی رائے ہوئی کہ رسول اللہ سے وہ سارے سردار مل کر اس مسئلہ
 کے حل کے لئے ساعی ہوں۔ عجم سردار رسول اکرم کو لے کر آئے۔ رسول اکرم سرداروں
 کے آگے آئے اور کہا کہ سردارو! کہو کس امر کے لئے آئے ہو؟ کہا "اے محمد! ہمارے
 النہوں سے الگ ہو رہو، اسی طرح ہم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اللہ سے الگ
 ہوں۔ عجم سردار آگے آئے اور کہا کہ ہاں! اے ولد مساوی معاملہ ہے اس کو طے
 کر لو۔ رسول اکرم اس امر کے لئے آمادہ ہوئے اور کہا کہ لوگو! اس امر کے لئے آمادہ
 ہوں مگر سارے کے سارے اُس کلمہ کو کہو کہ اس کے واسطے سے مالک و امصار کے
 مالک ہو گئے۔ سردار مسرور ہوئے اور کہا کہ واللہ! اس سے عمدہ معاملہ کہاں ہو گا؟
 لاؤ وہ کلمہ ہم سے کہو، ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اُٹھے اور کہا کہ کہو لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ
 مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ سارے سردار اک دم کھڑے ہو گئے اور کہا ہم صد ہا سال کے
 النہوں سے الگ ہیں امر محال ہے اور حسد کی آگ دل سے لگائے گھروں کو لوٹ گئے۔
 اس حال سے سارے نکتہ والوں کو محسوس ہوا کہ عجم سردار سے کئی مکالمے ہوئے
 مگر سردار سے مخدوم لوٹے۔ اس لئے طے ہوا کہ ہر گروہ اُس گروہ کے
 مسلمانوں کو اس طرح کے دکھ دے کہ وہ دکھوں سے ڈر ہا کر رسول اللہ سے الگ
 ہوں۔ اس طرح اہل اسلام کے آلام اور دکھوں کا سلسلہ رواں ہوا اور نکتہ والے
 کھلم کھلا عجم سردار کے عدو ہو گئے۔

عجم سردار کا ارادہ ہوا کہ سارے اُسور رسول والے اکٹھے ہوں اور نکتے کے
 سرداروں کی دھمکی کا معاملہ طے ہو۔ رسول اللہ کے سارے اُعیان اور اولاد اعیان اکٹھے
 ہوئے۔ عجم سردار کھڑے ہوئے اور نکتہ والوں کا سارا معاملہ آگے رکھا اور کہا کہ اے

لے اصح التیرمذی سہ اعیان: عجم کی جیج چچا ❖

لوگو! محمدؐ کی مدد کرو۔ سارے لوگ اس کے عدو ہو گئے۔ ایک عجم مردود کے سوا سارے اُسرے کے لوگ وعدہ کر کے اُٹھے کہ وہ رسول اللہؐ کے حامی ہوں گے۔

عجم مردار اہل اُسرہ کی اس ہمدردی اور وعدے سے کمال سرور ہوئے۔ اہل مکہ کو اس امر کی اطلاع ہوئی اور سرداروں کے مکروہ ارادے اک عرصہ کے لئے سرد ہو گئے۔

اس سال کا موسمِ احرام

اللہ کے کرم اور رسول اللہؐ کی مساعی سے لوگ اسلام لائے اور اسلام کی راہ لوگوں کے لئے سوا ہموار ہوئی۔ کلامِ الہی کی سحرکاری اہل اسلام کا اسلحہ ہوئی۔ ہر وہ آدمی کہ کلامِ الہی کا سامع ہوا۔ اُس کے الہامی کمال سے مسحور ہو کر مسلم ہوا۔ اہل مکہ اس سارے حال سے کمال ملول رہے۔

اُس سال کے موسمِ احرام کی آمد آمد ہوئی، کتے کے گمراہوں کو ڈر ہوا کہ دُور دور کے لوگ مکہ مکرمہؐ آکر اس کلام کے سامع ہوں گے اور اس کے سحر کے دلدادہ ہو کر مسلم ہوں گے۔ اس لئے سارے لوگ اکٹھے ہوئے اک سردار کھڑا ہوا اور کہا کہ لوگو! موسمِ احرام آ رہا ہے۔ دُور دُور کے لوگوں کو سکتے کے رسولؐ کا علم ہوتا ہے وہ ہم سے اس کے احوال کے لئے مقرر ہوں گے۔ اس لئے ہماری رائے ہے کہ سارے لوگ مل کر محمدؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لئے کوئی اک رائے ٹھہرا لو کہ ہر آدمی اُسی رائے کو لوگوں سے کہے، اگر ہر آدمی اک الگ رائے دے گا، اُس سے سارا معاملہ کرکرا ہو گا۔

سارے لوگوں کو اُس کی رائے عمدہ لگی، مگر سوال ہوا کہ محمدؐ (صلی اللہ علیہ وسلم)

کے لئے کوئی اک رائے لاؤ لوگوں کی رائے ہوئی کہ کو وہ علم ریل کا عالم ہے۔ مگر اک سردار کھڑا ہوا اور کہا کہ واللہ! اُس کا کلام دہل والوں کے کلام سے الگ ہے۔ اسی طرح لوگ الگ الگ رائے لے کر آئے اور ہر رائے رد ہوئی اور مال کا ریل ہوا کہ سارے لوگ مل کر اُس کو ساتھ کرلو۔ اس لئے کہ اُس کے کلام سے تم کے لوگ اک دوسرے کے عدو ہو گئے۔

موسمِ احرام کے ماہِ دُور دُور سے لوگ مکہ مکرمہ آئے۔ مکے کے گمراہ ہر راہ کے موڑ کھڑے ہوئے اور لوگوں سے کہا کہ اے لوگو! اس آدمی سے دُور رہو وہ ساتھ ہے۔ اُسکے سحر سے لوگ اک دوسرے کے عدو ہو گئے۔

ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موسمِ احرام کو گلی گلی اور بڑک بڑک گھومے کہ دُور دُور کے لوگ اللہ کے اس حکم، اسلام سے آگاہ ہوں۔ لوگ عمرہ و احرام کے احکام ادا کر کے لوٹے اور اس طرح گاؤں گاؤں اور مصر مصر لوگوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کے کسی رسول کی آمد ہوئی ہے۔

عِمّ رسول والدِ عمارہ کا اسلام

ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عِمّ ہم عمر کہ دُور اسلام سے ادھر والدِ عمارہ کے اسم سے موسوم ہے اور اسلام لا کر ”اسد اللہ“ کہلائے۔ اسی سال اسلام

لے ”علم دل“ علمِ نجوم ہی کی ایک شاخ ہے جو اعداد و حروف کی خصوصیات پر مبنی ہے۔ یہ لوگوں نے کہا کہ آنحضرتؐ کو کاہن کو، ولید بن مغیرہ نے کہا کہ میں کہا نہ سے واقع ہوں اُن کا کلام کاہنوں کا کلام نہیں ہے۔ کہا کہ مجنون کہیں۔ اُس نے کہا وہ مجنون بھی نہیں ہیں کسی نے کہا بخوبی کو، اُس کی رائے بھی رد ہوئی۔ غرض ولید ہی کی رائے سے طے ہوا کہ سب مل کر اُن کو ساتھ کرلو اگرچہ اُن کا کلام سحر سے بھی بالکل الگ ہے مگر شاید لوگ اس بات کو مان لیں (امح السیرۃ) سہ امح السیرۃ لکھ ابو عمارہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی ۛ

لائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ اور دارالترکے نے اک ہمد رسول کا وہ گھر رہا کہ حرم کے آگے اک کوہ کے سہرے رہا۔ اک سحر کو ہادی اکرم اُس گھر آئے۔ وہاں سکتے کے گمراہوں کا سردار عمرو ملا۔ وہ سدا سے رسول اللہ کا حاسد اول اور سارے اعداء سے سوا اللہ اور اُس کے رسول کا عدو رہا۔ رسول اللہ ص کو سہراہ روک کر کھڑا ہوا اور ہر طرح کی گالی اللہ کے رسول کو دی اور سوئے کلام سے اللہ کے رسول کا دل دکھا کر مسرور ہوا۔ ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم سے کام لے کر اُس کے رد کلام سے الگ رہے۔ اس لئے کہ گمراہوں اور لاعلمی کی گالی لاعلموں ہی کے لئے ہے۔ اُس معلّم وحی سے ہر گالی سدا دور رہی۔ لاعلمی اور گمراہی ہر گالی سے سوا اک گالی ہے۔ اور وہ گالی اس مردود کو سدا لگی رہی۔ اسی لئے سارے عالم کے لئے وہ لاعلمی والا کے اسم سے موسوم ہوا۔ ہادی اکرم گھر لوٹ گئے۔

وہاں اک ہمسائی اس سارے حال سے آگاہ رہی۔ رسول اللہ کے عیم ہمد والد عمارہ اُدھر آئے۔ اُس ہمسائی سے سارا معاملہ معلوم ہوا۔ وہ اس عدو اللہ کے لئے حرم آئے۔ وہاں وہ عدو اللہ ملا، اک لکڑی لے کر اُس کے سہراہی اور کہا کہ اے گمراہ! محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے کر اکڑ رہا ہے۔ گواہ رہ کہ والد عمارہ اللہ کے حکم سے اسلام لا کر رسول اللہ کا ہمد ہوا ہے۔ اگر حوصلہ ہے آ! اور ہم کو اس امر سے روک۔ وہ لاعلمی والا ڈر کر الگ ہوا۔ اُسی دم عیم ہمد ہادی اکرم سے باکری ملے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، والدہ عمارہ کا دل اسلام کے لئے آمادہ ہوا ہے اور اسی دم کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ کر اسلام لائے اور رسول اللہ کے ہمد ہوئے اور

لے دایر رقم۔ کوہ صفا پر واقع تھا اور اس وقت تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھریں جمع ہو کر اللہ کی عبادت خفیہ کرتے تھے۔ ابو جہل کا اہل نام عمرو بن ہشام تھا۔ سہ ابو جہل کی اصل کنیت اُس کی خطابت وغیرہ کی وجہ سے ”ابو الحکم“ یعنی حکمت والا تھی، اسلام کی تکذیب کر کے ابو جہل کے نام سے مشہور ہوا۔

رسول اللہ ص کے ہمراہ اسلام کے لئے ساعی رہے۔

عِلمِ ہدیم کے حوصلے سے ملنے کے سارے ہی لوگ آگاہ رہے۔ اس لئے ہر آدمی اس امر سے ملول ہوا کہ اہل اسلام کو اک حاشی حوصلہ ور ملا۔ دل کو کھٹکا لگا کہ والدِ عمارہ کے اسلام سے اہل اسلام اور حوصلہ ور ہوں گے۔

اہل مکہ کی رائے ہوئی کہ رسول اکرم کو مال و املاک اور سرداری و حاکمی کی طمع دے کہ رام کرو اور آمادہ کرو کہ وہ اس امر اسلام سے رُکے، اس لئے کہ ہمارے ہر سعی لاحاصل رہی، ملنے کے اک سردار سے ملے ہو کہ وہ رسول اکرم سے مل کر اس مسئلے کو طے کر دے۔

اک مکی سردار سے رسول اللہ کا مکالمہ

ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اک سحر کو حرم مکہ آئے۔ وہ سارے سردار وہاں اکٹھے ہوئے اور اُس سردار سے کہا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے مل کر ہمارے معاملہ کو حل کرو۔ وہ سردار وہاں سے اٹھا اور رسول اللہ سے آکر ملا اور کہا کہ اے ولیدِ عِلم! ہم کو معلوم ہے کہ سارے ملنے کے لوگوں سے سوا اکرم ہو۔ مگر اے ولیدِ عِلم! اک امر اس طرح کا لانے ہو کہ اُس سے ملنے والے دو گروہ ہو گئے اور اک دوسرے کے عدو ہو گئے اور لوگوں کے اللہوں کو گالی دے رہے ہو۔ اس لئے کئی امور نے کراس مکالمے کے لئے مامور ہوا ہوں۔ اگر ہمارے امور کو گوارا کر لو، سارا مسئلہ حل ہو گا۔ ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مکالمہ کے لئے آمادہ ہوئے اور کہا کہ وہ امور ہم سے کواگر وہ امور گوارا ہوئے ہم اُس کے عامل ہوں گے۔

وہ گراہوں اور لاعلم لوگوں کا سردار اس طرح ہم کلام ہوا۔ اے ولیدِ عِلم! اگر اس

لہ اس موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کے لئے ابوالولید عقبہ آیا ۛ

امر اسلام سے دل کی مراد مال اور املاک کا حصول ہے۔ ہمارا وعدہ ہے کہ سارے نیکے والوں کے اموال کے مالک ہو کر رہیں گے اور اگر وہ سارا معاملہ سرداری اور حاکمی کی طمع کے لئے ہے، واللہ ہم لوگوں کے حاکم ہو کر رہیں، مگر اسلام کی اس مہم کو روک دو اور اگر کسی روگ سے مسموم ہو گئے ہو ماہر حکماء سے اُس کا مداوا کروالو۔ مگر اس مسئلہ کو کسی طرح حل کرو۔

یاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمال علم سے اُس کے کلام کے سامع ہوئے۔ اُس کا کلام مکمل ہوا۔ رسول اکرم اُس سردار کے زور و زور ہوئے اور کلام الہی کے واسطے سے اُس سے ہم کلام ہوئے۔ وہ سردار کلام الہی کی سحر کا دی سے اس طرح مسحور ہوا کہ سارے ماحول سے لاعلم ہو کر اس کلام کا سامع ہوا اور وہاں سے اچھڑ کر دارالترائے، آکر لوگوں سے ملا اور کہا کہ اے لوگو! محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا کلام اس عالم کے ہر کلام سے الگ ہے، ہر طرح کے کلام سے ہماری آگاہی ہے۔ مگر اُس کلام کا سرور ہی دوسرا ہے۔ اے لوگو! اُس سے الگ ہو کر کہ اُس کا وہ کلام لوگوں کے دلوں کو مسحور کر کے رہے گا۔ لوگو! ہماری رائے ہے کہ اگر وہ دوسرے لوگوں سے معرکہ آزاد ہو کر ہلاک ہوئے۔ اس سے اہل مکہ کی مراد حاصل ہوگی اور اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) حاوی ہو گئے۔ اُس سے اہل مکہ مکرم و کامنگا ہوں گے، اس لئے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمارا ہی آدمی ہے۔

بچے کے گمراہ اُس کے اڑے آئے اور ہاؤ ہو کر کے اُس سے کہا کہ اے سردار اُس کے سحر سے مسحور ہو کر آئے ہو۔ گو تکتے کے سارے سردار کلام الہی کی سحر کا دی اور اُس کے سردار سردار سے آگاہ رہے اور لگ لگ کر رسول اللہ کے گھر آکر کلام الہی

لہ اخفیت نے اُس کی اس بے ہودہ گفتگو کے جواب میں سورہ حم السجدہ کی ابتدائی آیتیں تلاوت فرمائیں دیرت المصطفیٰ ص ۱۴۷ ج ۱۔ لہ دار الندوة: قریش کی مشورہ گاہ :ۛ

کے سامنے ہونے۔ مگر ہٹ دھرمی اور حسد کی دُوسے اسلام کی راہ سے ہٹے رہے۔

اسرائیلی علماء سے اہل مکہ کے سوال

اہل مکہ کو معلوم رہا کہ وادی احد کے اُدھر اسرائیلی علماء کا اک مہر ہے اور وہ لوگ علوم وحی کے ماہر رہے۔ اس لئے رائے ہوئی کہ وہاں کے عالموں سے اس امر کے لئے رائے لو۔ وہ لوگ رسولوں کے معاملہ سے آگاہ رہے اس لئے وہاں کے عالموں سے معلوم ہو گا کہ اللہ کے رسول کے علم کے لئے کس طرح کے سوال ہوں؟ دو آدمی مکہ مکرّمہ سے راہی ہوئے اور سارا حال کہہ کر مسووی علماء سے رائے لی۔ علماء کو سارا حال معلوم ہوا۔ کہا کہ اُس مدعی سے اول سوال کرو کہ اُس حاکم کا معاملہ ہم سے کہو کہ وہ عالم کے اک مہر سے دوسرے مہرے گھوم کر کا مگلا ہوا۔ دوسرا سوال کرو کہ اُس گزہ کا حال کس طرح ہے کہ وہ اک کھوہ کو آرام گاہ کر کے صد ہا سال کہاں سو رہا ہے سو سوال کرو کہ رُوح کا معاملہ کس طرح ہے؟ اگر وہ اول دو سوالوں کا حال کہہ دے گواہ رہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ نہ رُوح کے معاملے سے وہ رُکا رہے گا۔ اگر اس کا عکس ہو اُس سے معلوم ہو گا کہ وہ امروہی سے محروم ہے اور اللہ کا عدو ہے اور دو آدمی وہ سوال لے کر آئے اور سارے سوال رسول اللہ کے آگے رکھے۔

لے ابو جہل اور دوسرے لوگ رسول اکرم کی تلاوت قرآن کو چھپ چھپ کر سنتے اور اس طرح محو ہو جاتے کہ صبح ہو جاتی۔ یہ نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط علماء یہود سے ملنے کے لئے مدینہ منورہ گئے۔ یہ علماء یہود نے کہا کہ اُن سے تین سوال کرو۔ پہلا اُس شخص کے لئے جس نے شرق سے لیکر مغرب تک پوری دنیا کو چھان مارا (یعنی ذوالقرنین کا قفقہ)۔ دوسرے ان لوگوں کا قفقہ معلوم کرو جو غار میں جا چھپے تھے (یعنی اصحاب کعبہ کا واقعہ)۔ تیسرے رُوح کیلئے ہے؟ اگر وہ پہلے دو سوالوں کے جواب دے دیں اور تیسرے سوال کے جواب سے سکوت کریں تو سمجھو کہ وہ سچے رسول ہیں۔

(سیرت المصطفیٰ ص ۱۴۱)

ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے اس ہوتی کہ اہل مکہ کے سوالوں کا حل
وحی کے واسطے سے معلوم ہو گا۔ اس لئے مکے والوں سے کہا کہ کل اگر ہم سے ملو، سارے
سوالوں کا حال حل کھوں گا۔“

مگر اللہ کے رسولؐ سے اس کلام کا سہوا ہوا کہ ”اگر اللہ کا حکم ہوا“ اس لئے ایک
عرصہ وحی الہی سے محروم رہے۔ مآل کار کلام الہی وارد ہوا اور ایک مکمل سورہ وحی
کی گئی۔ اُس سے اُس گروہ کا سارا حال معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے حکم سے اک کسار کی
کھوہ اگر سالہا سال سے سو رہا ہے۔ اسی سورہ سے اُس عالم صالح کا حال معلوم ہوا کہ وہ
سارے عالم گھومنا اور کامگار رہا اور لوگوں کی مدد کے لئے اک لوہے کی سدر کھڑی کی کہ
وہاں کے بزرگ اک کساری گردہ کی ٹوٹ مار سے رہا ہوں اور رُوح کے معاملے کے
لئے اللہ کی وحی آئی:

”اے رسولؐ! وہ لوگ رُوح کے معاملے کے لئے سوال لائے کہ در کھوں
اللہ کا اک ارش ہے۔“

اور رسول اکرمؐ کے اُس سہو کے لئے کلام الہی وارد ہوا :
”اس طرح کے کلام سے الگ رہو کہ ”کل وہ کام کروں گا“ ہاں مگر اس کلمہ
کو بلا نو کہ ”اگر اللہ کا حکم ہوا“ اور اگر سہو ہو اللہ سے دل کی لو لگاؤ۔“

۱۔ اُسوقت آنحضرتؐ انشاء اللہ کہنا بھول گئے تھے۔ اس لئے کئی روز تک وحی نہیں آئی رُسُومُ الْعَطْفِ جِزِ احْتِشَاءِ
۲۔ انہی سوالوں کے جواب میں سورہ کہف نازل ہوئی (حوالہ بالا) ۳۔ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بھی سورہ کہف
میں تفصیلاً نازل ہوا (حوالہ بالا) ۴۔ حضرت ذوالقرنین نے سیسے اور تانبے سے دو پہاڑوں کے درمیان ایک پوار
بنائی تاکہ لوگ یا جوچ اور ماجورج سے محفوظ رہیں (معارف القرآن ج ۲، ص ۱۵) ۵۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے :
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي : (وہ تجھ سے پوچھتے ہیں رُوح کو، کہہ دے رُوح
میرے رب کے حکم سے) (ترجمہ معارف القرآن ج ۲، ص ۱۵) ۶۔ سورہ کہف کی ۲۲ ویں آیت ہے : وَلَا تَقُولُ لَـ
لشَيْءٍ اِنِّي فَاعِلٌ مِّثْلُكَ عَذَاهُ الْاِنَّا نَیْسَاءُ اللّٰهُ زَمَرٌ اِذْ كُنَّا نَبِّکَ اِذَا نَسِیْتَ ، (اور نہ کہنا کسی کام
کو کہ میں کل کروں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے اور یاد کرے اپنے رب کو جب بھول جائے۔) (ترجمہ معارف القرآن ج ۲، ص ۱۵)

اس طرح ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل مکہ کے ہر دو سوال حل ہوئے اور
روح کے سوال کا معاملہ اسی طرح ہوا کہ وہ اللہ کا اک امر ہے مگر خدا اور ہٹ دھرمی کی
دوسے وہ راہ اسلام سے رُکے رہے۔

وہ سارا دور رسول اکرم اور اہل اسلام کے لئے ہر طرح کٹا اور محال دور رہا۔
مگر اللہ والے اہل مکہ کے سارے آلام کو سہہ کر اس لئے مسرور رہے کہ وہ اللہ اور
اُس کے رسول کے آگے کامگار ہوں۔ مگر اللہ کی مدد ہمراہ نہی اور اسلام کا گداواں
آگے ہی رواں دواں رہا۔

ماہِ کامل کے دو ٹکڑے

امروچی کو آئے ہوئے آٹھ سال کا عرصہ ہوا۔ نکتے کے ہٹ دھرم لوگ ہر طرح سعی
رہے کہ اسلام کا کام رُکے۔ مگر اللہ کے کرم سے اور ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
مساعی سے کلمۂ اسلام کے حامی اک اک کمر کے سوا ہوئے۔

نکتے کے سرکردہ لوگ اس امر سے عادی رہے کہ وہ امیر اسلام کے آڈے ہوں
اور اسلام کی راہ مسدود ہو۔ مکہ کے گمراہ اکٹھے ہو کر آئے اور رسول اللہ ص سے کہا کہ
اگر اللہ کے رسول ہو، ہم کو کوئی اس طرح کا عمل دکھاؤ کہ اس سے لوگوں کو کھل کر معلوم
ہو کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کا رسول ہے اور ہمارے دلوں سے لاطمی کی گرد
دور ہو۔ کئی علماء کی رائے ہے کہ نکتے کے سردار رسول اللہ ص سے ملے اور کہا کہ ماہِ کامل
کے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرداروں سے ملے اور کہا کہ اگر
اللہ کے حکم ہے اس طرح کر کے دکھاؤ، اسلام لاؤ گے؟ سردار کا وعدہ ہوا کہ ہاں! ہم

لے شیعہ قرآن کا واقعہ ہجرت سے ۵ سال پہلے پیش آیا کہ کفار قریش کے یہ لوگ آئے: ولید بن خنیس، ابوجہل
عاص بن وائل، عاص بن ہشام، اسود بن عبدغوث، مدعہ بن الاسود اور نضر بن حارث۔
(سیرۃ المصطفیٰ ج ۱ ص ۱۶۷)

کلمہ اسلام کہہ کر مسلم ہوں گے۔ ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگے دعاگو ہوئے۔ سارے لوگ سوئے ماہ کامل زد کر کے کھڑے ہوئے۔ معاً ماہ کامل کے دو حصے ہو گئے اور اک ٹکڑا دوسرے سے الگ ہو کر دو رہا۔ اس حال کا مطالعہ کر کے سکتے کے گمراہوں کے حواس اُڑ گئے اور اس طرح محو ہوئے کہ اک دوسرے سے لاعلم ہو گئے۔ ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اُس لمحہ صدا آئی اے لوگو! گواہ رہو۔ ماہ کامل اسی طرح دو ٹکڑے رہا۔ اللہ کے حکم سے ماہ کامل کے دو ٹکڑے اک عرصہ اسی طرح ذہ کر اک دوسرے سے مل گئے۔

سکتے کے وہ ہٹ دھرم لوگ کھڑے ہوئے اور کہا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے عملِ سحر سے ہم مسحور ہو گئے، اس لئے لوگو! بڑے رہو، اگر دور کے امصاد سے کارواں کے لوگ آکر اس حال کے گواہ ہوئے اُس لمحہ امرا صلی معلوم ہو گا۔ کارواں کے لوگ مکہ مکرمہ آئے اور گواہ ہوئے کہ ماہ کامل کے دو ٹکڑے کارواں کے سارے لوگوں کو دکھائے گئے۔ مگر وہ لوگ اُسی طرح اسلام سے ہٹے رہے۔

اہل اسلام کا رحلہ اول

اسلام کا کارواں اللہ کے حکم سے رواں رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کے ہمدیوں کی مسلسل مساعی سے ارد گرد کے لوگوں کو راہِ حدیثی ملی۔ اس حال سے گمراہوں کے دلوں سے حسد کا دھواں اُٹھا اور وہ اہل اسلام کے اور سوا عدو ہو کر اہل اسلام کی دشمنی اور الم دہی کے لئے ہر ہر گامِ مساعی ہوئے۔ مگر اس حوصلے سے محروم رہے کہ وہ رسول اکرم کو آلام دے کر مسرور ہوں، اس لئے سارا حید اور طلالِ مادی وسائل سے محروم مسلمانوں کو دکھ دے کر دور ہوا اور اس طرح رسول اللہ کے ہمدیوں کے

لے پہلی ہجرت حبشہ ❖

لئے مکہ مکرمہ کی وادیِ آلام اور دکھوں کا گھر ہو کے رہ گئی۔

اس لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل لے ہوئی کہ اہل اسلام بکتے سے رہا ہی ہو کر حاکمِ اُمت کے ملکِ رواں ہوں۔ وہ حاکمِ عدل والا ہے۔ وہاں اہل اسلام کو آرام ملے گا۔ اس لئے ہمدیوں سے کہا

”اللہ کے اس کرہ کے کسی اور حقہ کے لئے رہا ہی ہو۔ اللہ کے کرم سے اس ہے کہ وہ ساروں کو اکٹھا کرے گا“

ہمدیوں کا سوال ہوا کہ رسول اللہ کہاں اور کس سفر کے لئے؟

”اُس ملک کو زور کر کے کہا کہ ”وہاں“ اور کہا کہ اُس ملک کا حاکم عادل ہے۔

ہادئی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم سے کئی لوگ آمادہ ہو گئے کہ وہ بکتے کو الوداع کہہ کر اُس ملک کے لئے رہا ہی ہوں۔ اس طرح اہل اسلام کے سولہ لوگوں کا کارواں اُس ملک کو رہا ہی ہوا۔ اہل مکہ کو معلوم ہوا وہ دوڑے کہ اس کارواں کی راہ روک کر اُس کے آڈے ہوں۔ مگر اللہ کے حکم سے اہل اسلام ساحل آئے اور وہاں اس ملک کی سواری کھڑی مل گئی اس لئے اللہ کے کرم سے ہر کاوٹ دور ہوئی اور وہ ساحلِ مُراد سے آگے۔

اُس ملک آ کر اہل اسلام اک عرصہ رہے اور ہر دک سے رہا ہو کر اللہ کے آگے رسول اللہ اور دوسرے اہل اسلام کے لئے دعا گورہے۔

لے حبش کے بادشاہ نجاشی کا اصل نام اُمّیہ تھا (سیرت خاتم الانبیاء و سولہ مولانا مفتی محمد شفیع ج ۱ ص ۱۳۱)

۱۳۱۱ھ آنحضرتؐ نے فرمایا، تقرقوا فی الارض فان الله سيجعلکم الخ ذم زمین میں کہیں چلے جاؤ اللہ ضرور تم کو عنقریب جمع کرے گا، سیرت المصطفیٰ بحوالہ ند قانی ج ۱ ص ۱۳۱۔ ۱۳۱۲ھ فرمایا کہ حبش جاؤ وہاں کا بادشاہ کی پرہیزگار نہیں کرتا۔ (راجح السیرۃ ص ۸۸) پہلی ہجرت حبش کے وقت گیارہ مرد اور پانچ عورتیں اس قافلے میں شامل تھیں۔ سیرت مصطفیٰ ج ۱ ص ۱۸۱۔

حصہ دوم

اہل اسلام کو وہاں آئے کئی ماہ کا عرصہ ہوا کسی واسطے سے مسلمانوں کو اطلاع ہوئی کہ اہل مکہ اسلام لے آئے اور دوسرے علماء کی رائے ہے کہ اطلاع ملی کہ مکے کے لوگوں سے صلح ہو گئی، اس لئے مسلمانوں کی رائے ہوئی کہ سوئے مکہ راہی ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوں۔ وہ لوگ وہاں سے سوئے مکہ راہی ہوئے۔ مکے سے کئی کوس اُدھر آکر معلوم ہوا کہ وہ اطلاع مر دود ہے۔ سارے لوگوں کے لئے اک مسئلہ کھڑا ہوا۔ کئی لوگ وہاں سے حاکم احمہ کے ملک رواں ہوئے اور دوسرے سارے لوگ کوئی ٹک کر، کوئی کسی مکتی کے سہارے مکہ مکرمہ آ گئے۔ مگر اہل مکہ سے طرح طرح کے آلام اور دکھ کا سلسلہ آگے سے سوا ہوا۔ اس لئے ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ اہل اسلام اُسی ملک کے لئے راہی ہوں۔ اس طرح رسول اکرم کے سوا اور دوسروں کا کارواں اس ملک کے لئے راہی ہوا۔ دوسرے علماء کی رائے ہے کہ اس ریل کے لئے اُسی اُسی اور دو لوگ آمادہ ہو کر وہاں گئے۔ واللہ اعلم

حاکم احمہ کا عمدہ سلوک

اہل اسلام کا کارواں حاکم احمہ کے ملک آکر ٹھہرا۔ احمہ کا اہل اسلام سے اکرام اور رواداری کا سلوک ہوا۔ اہل اسلام وہاں آرام سے رہ کر اللہ اشکر کے مسرور ہوئے۔ مگر اہل مکہ کو اللہ والوں کا آرام کہاں گوارا۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ کے ہمراہوں کو وہاں آکر آرام ملا۔ آرام کی اطلاع سے دکھی ہوئے۔ سارے اکٹھے ہوئے اور رائے

۱۔ ہجرت ثانیہ بجانب حبشہ ۲۔ سیرت المصطفیٰ میں جو فہرست دی گئی ہے اس میں ۸۶ مردوں اور ۷ عورتوں کے نام ہیں۔ مگر عقائدین یاسر کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ وہ شامل تھے یا نہیں، اس لئے کل ایک سو دو آدمی ہوئے مگر حج البیہ میں لکھا ہے کہ کل ۸۶ مہاجرین تھے۔

ہوئی کہ حاکم اصحمتہ کو آمادہ کرو کہ وہ اہل اسلام کو مکہ مکرمہ لوٹا دے۔ اس کام کے لئے دو آدمی ارسال ہوئے۔ اک ولیدؓ عاص اور دوسرا اُس کا اک ہمد۔ ہر دو طرح طرح کے اموال لے کر حاکم اصحمتہ کے ہاں گئے اور اموال دے کر کہا کہ ہمارے کئی لوگ مکہ مکرمہ سے اس ملک آ گئے۔ ہمارا مذہب ہے کہ سارے مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ حاکم اصحمتہ کا لوگوں کو حکم ہوا کہ اُس گروہ کے لوگوں کو ہمارے آگے لاؤ کہ اصل حال معلوم ہو۔

ہر دو گمراہوں کی سعی رہی کہ حاکم کے عملہ کے لوگ حاکم سے اس امر کے لئے مُصر ہوں اور وہ رسول اللہؐ کے ہمدوں کے مکالمے سے دُور رہے۔ اس لئے کہ ہر دو کو ڈر ہوا کہ حاکم مسلمانوں کے کلام سے مسحور ہو گا۔ مگر حاکم کے حکم سے رسول اللہؐ کے کئی ہمد، رسول اللہؐ کے ولیدؓ کو سرور کر کے حاکم کے محل آ گئے۔ مگر اس طرح آئے کہ ہر اللہ والا اس امر سے دُور رہا کہ حاکم کے آگے سر ٹکا کر اُس کو اکرام دے۔ لوگوں کا سوال ہوا مگر دوسرے علماء کی رائے ہے کہ حاکم کا سوال ہوا کہ انے لوگو! اس امر سے کس لئے عادی رہے؟

رسول اللہؐ کے ولیدؓ آگے آئے اور کہا کہ: ”یے حاکم! اللہ کا ہم کو حکم ہے کہ اس امر سے دُور رہو کہ اللہ کے سوا کسی کے آگے سر ٹکاؤ۔ ہم لوگوں کو اللہ کا اک رسول عطا ہوا ہے، اُس کا حکم ہمارے لئے اسی طرح ہے اور ہم اللہ کے رسول کے لئے اسی طرح سلام کے عادی رہے۔“

حاکم اصحمتہ کا سوال ہوا کہ رسول اللہؐ کے مسلک اور مکہ والوں کے مسلک کے

۱۔ عمرو بن العاص اور عبد اللہ بن ابی ریحہ (سیرت المصطفیٰ ص ۱۸۷) صحیح السیرم ۹۹ ۲۔ اُن کو خطرو تھا کہ مسلمانوں کے کلام حق کا کہیں بخاشی پر اثر نہ ہو جائے۔ ۳۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ ۴۔ سجدہ کرنے کا دستور تھا مگر مسلمانوں نے سجدہ نہیں کیا۔

سوا کس دوسرے مسلک کے راہرو ہوئے ہو؟ ولد عم آگے آئے اور اس طرح ہم کلام ہوئے۔

”اے حاکم ہم سالہا سال سے لاعلمی کی گہری کھائی گرے رہے اور علم سے دور رہے۔ مٹی کے گھڑے ہوئے انہوں کے آگے سرڑکا کر سارے اللہوں کے مملوک رہے۔ مُردار کھا کر مسرور رہے۔ ہر طرح کی حرام کاری ہمارا معمول ہی صلتہ نجی سے کوسوں دور رہے۔ ہمارے ہمسائے ہم سے دکھی رہے، ہر آدمی اک دوسرے کا عدو ہو کر رہا۔ ہمارے مال دار محروموں کو ڈکھ دے کر مسرور ہوئے۔ سالہا سال ہمارا حال اسی طرح رہا۔ مگر اللہ کا کرم ہوا اور ہمارے لئے اللہ کے حکم سے اک رسول کی آمد ہوئی۔ وہ ہم سارے لوگوں سے سوا مکرم رہا۔ اور ہم اک عمر اُس کے ہمراہ رہ کر اُس کے ہر وعدہ اور صالح عمل سے آگاہ رہے۔ وہ اللہ کا رسول ہو کر اُٹھا اور ہم سے کہا کہ سارے اللہوں سے دور ہو کر اُس اللہ کے ہونے ہو کہ وہ واحد ہے۔ ہمارے لئے اُس کا حکم ہوا کہ صلتہ نجی کے عادی ہو، ہمسائے سے عدو سلوک کرو اور اس کے واسطے سے ہم کو حلال اور حرام کا علم ہوا۔ اُس کا حکم ہوا کہ مُردار حرام ہے اور کہا کہ والد کے سائے سے محروم لوگوں کے مال سے دُور رہو اور کہا کہ اس اللہ کے مملوک ہو رہو کہ سارا عالم اُس کی ہمسری سے عاری ہے۔ عمادِ اسلام کے عادی رہو۔ ماہِ صوم کے صوم رکھ کر اللہ کے آگے کامگا رہو۔ حلال کمائی سے محروموں کے لئے مال ادا کرو اور رُوح و دل سے اسلام کے احکام کے عامل رہو۔

اے حضرت جعفرؓ کی یہ ساری تقریر بالکل اسی طرح کتابوں میں موجود ہے اور الحمد للہ اس تقریر کا پورا مفہوم اُسی ترتیب کے ساتھ غیر منقوٹ الفاظ میں ادا ہوا ہے۔ اے عمادِ اسلام : نماز، زکوٰۃ ادا کرو۔

اے ملک! ہم اُس رسول کے ہدم ہوئے اور اُس کے لائے ہوئے احکام کے حامل ہوئے۔ سارے نئے کے لوگ اُس رسول کے اوپر ہمارے عدد ہو گئے۔ ہم کو کوڑے مارے گئے۔ سر عام رسوا کئے گئے۔ ہر طرح کے دکھ اور آلام ہم کو ملے اور ہمارے لئے نئے کی وادی حرام کر دی۔ ہمارے سردار اور اللہ کے رسول کا حکم ہوا کہ ہم حاکم عادل کے ملک آکر نئے والوں کے آلام سے رہا ہوں۔

حاکم احمہ کا دل اس کلام سے ملائم ہوا اور کہا کہ اے لوگو! اُس کلام کا کوئی حصہ معلوم ہے کہ وہ اللہ کی درگاہ سے اُس کے رسول کے لئے جی ہوا۔ اگر معلوم ہے اس کلام کا کوئی حصہ ہمارے آگے کہو۔ رسول اللہ کے ولید عم آگے آئے اور اس سورہ کے اول حصے کی ادائیگی کی کہ وہ سورہ روح اللہ رسول کی والدہ کے اسم سے موسوم ہے اور روح اللہ کے احوال مسعود سے معمور ہے۔ معلوم ہے کہ حاکم احمہ روح اللہ رسول کے مسلک کا آدمی رہا اور وحی کے علم سے آگاہ رہا۔ اس کلام الہی کا سامع ہو کر وہ حاکم اور اُس کے رؤساء دور و گراں حال ہوئے۔

حاکم احمہ اس کلام سے مسحور ہو کر اٹھا اور کہا کہ ”روح اللہ“ وحی کا کلام اور رسول مکی کی وحی کا کلام اک دوسرے کا مکمل عکس ہے۔ اس طرح کہہ کر حاکم اٹھا اور نئے کے لوگوں سے کہا کہ ”امر محال ہے کہ اس طرح کے صالح لوگوں کو نئے والوں کے حوالے کر دوں۔“

عمر و ولد عاص اور اُس کا ہمراہی اس حال سے ملول ہوئے مگر ولد عاص اگلی سحر کو حاکم احمہ کے آگے اکھڑا ہوا اور کہا کہ اے ملک! اہل اسلام سے معلوم کرو کہ محمد

۱۔ اس موقع پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کی (سیرۃ المصطفیٰ ص ۱۹) ۲۔ بخاشی اتنا دیا کہ اس کی ڈاڑھی تر ہو گئی۔

صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے روح اللہ رسول کے لئے کس طرح کی ہے؟ ولیدؓ سردار سے
حاکم کا سوال ہوا کہ لوگو! درج اللہ رسول کے لئے رسول مکی کی رائے ہم سے کمزور، ولیدؓ
سردار گئے آئے اور کہا کہ اے ملک ہمارے سردار اور اللہ کے رسول کو درج اللہ کے
لئے وحی کی گئی کہ هُوَ رِسُوْلُهُ وَرُوْحُہُ (وہ اللہ کا رسول ہے اور اُس کی روح ہے)۔
حاکم اصحمتہ اٹھا اور کہا کہ واللہ! درج اللہ اس کلام کے مدعا کے ہوا ہر امر سے عاری ہے
روح اللہ وہی ہے کہ اس کلام سے معلوم ہوا۔

حاکم اصحمتہ اس طرح اہل اسلام اور رسول اکرمؐ کا حامی ہوا اور رسول اللہؐ کے
ہمد و وہاں آرام سے کئی سال رہے۔ عمرو ولد عاص اور اُس کا ہمراہی وہاں سے کمال
طول اور مراد سے محروم سوئے مکہ مکرمہ راہی ہوئے۔

ہمد رسولؐ کا اسلام

اُدھر باؤنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے ہمد اعلیٰ نے کلمہ اسلام کے
لئے ہر طرح ساعی رہے۔ اُدھر لوگوں کے دل اسلام کے لئے ہموار ہوئے۔ اُدھر مکے
والوں کے دل حسد و ہوس کی آگ سے دھک اُٹھے۔

علماء سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دُعا گو ہوئے کہ
”اے اللہ! عمر اور عمرؓ میرے دو سرداروں سے کسی اک کو اسلام کا حامی کر دے اور
اُس سے اسلام کی مدد کرے“ (رواہ احمد)

۱۔ تاریخ اسلام مولانا اکبر شاہ خاں بنیب آبادی ص ۱۱۳ ۲۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہجرت
جیشہ اولیٰ اور ثانیہ کے درمیان اسلام لائے سیرت المصطفیٰ ص ۱۶۱ ۳۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ
۴۔ عمرو بن ہشام (ابو جہل)
۵۔ سیرت مصطفیٰ ص ۱۵ ج ۱

رسول اللہ ص کو وحی سے معلوم ہوا کہ عمر و اسلام سے محروم رہے گا۔ اس لئے
 ہمدیم عمر کے لئے دعا دی کہ ”اے اللہ! عمر سے اسلام کی مدد کر۔“
 ادھر ضروری طور سے ہمدیم رسول عمر کی اسلام سے آمادگی کا حال ہمدیم گرامی
 عمر ہی سے اس طرح مروی ہے۔

”عمر و کا اہل تکہ سے وعدہ ہوا کہ اگر کوئی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو مار ڈالے
 اُس کو سو سواری عطا کر دیں گا۔ عمر اس سے بٹے اور اس وعدے کا حال اُس سے
 معلوم کر کے گھر سے متوجہ ہو کر اس ارادے سے گھر سے رواں ہوئے کہ وہ رسول اللہ
 کو مار کر اموال حاصل کر لے۔ ماہ کے اک محل آنے کے وہاں اک گائے کھڑی ہے
 اور لوگوں کا ارادہ ہے کہ اُس کو کاٹ کر مسرود ہوں۔ عمر وہاں آ کھڑے ہوئے
 معاً اس گائے سے صدا آئی

”لوگو! اک امر کا منگنا ہے، عالی کلام والا، اک مرد ہے اور صدا دے
 رہا ہے کہ گواہ رہو کہ اللہ واحد ہے اور محمد اُس کا رسول ﷺ ہے۔“

عمر گرامی کو محسوس ہوا کہ وہ صدا عمر ہی کو دی گئی ہے اور اس صدا کا روئے کلام
 اُسی کے لئے ہے۔ مگر عمر اسی ارادے سے رسول اللہ ص کے گھر کے لئے رواں رہے۔
 اک آدمی تلاوت کر رہا تھا کہ ”اے عمر! کہاں کا ارادہ ہے؟“ اُس سے دل کا ارادہ کہا۔
 مگر وہ آدمی آگے ہوا اور کہا کہ ”اول والد کے داماد اور اُس کے گھر والوں کا حال

لے سنن ابن ماجہ کے حوالہ سے سیرت مطہر میں دعا کے یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں: اَللّٰهُمَّ اَيِّدْ اِسْلَامَ
 بَعْرِ بْنِ الْحَطَّابِ خَاصَّةً رَاٰ اِسْلَامَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ سَاسًا كَوَقُوتِ دَعَا۔ (دم ۱۹۵)
 ﷺ اُس پچھڑے سے یہ آواز آئی ”یا الٰہ! زید بن عمرو بن جحیم۔ رَجُلٌ یُّسَمُّ بِلِسَانِ نَصِیحٍ یَدْعُو اِلٰی
 شَہَادَةِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَاَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُکَ اِلٰی ذَرِیَّتِکَ اَبْنِکَ یَدْعُو اِلٰی کَیْمِیَابِ اَمْرِہِ۔ ایک
 مرد ہے جو نصح زبان کیساتھ صدا دے رہا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت کے لئے بلاتا رہا ہے۔
 زید بن عطفہ بن الفرج الباری ص ۱۹۶، ﷺ بن عبد اللہ عمام طے ۛ

معلوم کر دے۔ وہ اسلام لے آئے۔ اس اطلاع سے عمر کھول اُٹھے اور اسلمہ لے کر وہاں آئے۔ اُس گھر آ کر کلام النبی کی سحر کاہ صداول سے ٹکرائی۔ مگر وہ آگے آئے اور والد کے داماد اور اُس کی گھر والی کو اس طرح مارا کہ وہ لہو لہو ہو گئے۔ مگر وہ اللہ دالے اُس کے آگے مار کھا کر ڈٹے رہے اور کہا کہ اے عمر! ہمارا کوئی حال کر رہیہ سلام لے آئے اور اللہ کے رحم سے گمراہی سے دور ہوئے۔

عمر مکرم آگے آئے اور کہا کہ وہ کلام ہمارے آگے دہراؤ۔ اللہ کا کلام مسموع ہوا۔ دل کی گرہ کھلی۔ گمراہی اور لائے کی کافی کھٹا دل سے ہٹا۔ اک سردی سردی طاری ہوا اور کہا۔

”وہ کلام ہر کلام سے اعلیٰ و اکرم ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اک اور ہمدم وہاں عمر مکرم کے ڈر سے لگے رہے، آگے آئے اور کہا ”اے عمر! سرد ہو کہ ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعا کا منگوار ہوئی، عمر مکرم کا اصرار ہوا کہ ہم کو رسول اللہ کے گھر کی راہ دکھاؤ اور ہمارے ہمراہ آؤ۔“

رسول اللہ کے وہ ہمدم عمر مکرم کر لے کر سڑے ”دارِ کوہ“ آئے اور وہاں در کھٹکٹا کے کھڑے ہوئے۔ اُس لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عزم ہدم اور دوسرے لوگوں کے ہمراہ رہے۔ عزم ہدم کو معلوم ہوا کہ عمر دے کے اُدھر کھڑا ہے۔ کہا کہ اگر عمر اصلاح کے ارادے سے آ رہا ہے، ہم سے عمدہ سلوک حاصل کرے گا اور اگر اُس کا کوئی اور ارادہ ہے، اُسی کی حسام سے اُس کو ہلاک

لے قرآن کریم کی آیات ”وَجَزَّ عَمْرًا دَرَّطَ فَرَايَا احسن هذا الكلام واکرمه“، کیا ہی اچا اور بزرگ کلام ہے۔ ”سیرت مصطفیٰ“ ۱۹۷۲ء اُس وقت حضرت خبابؓ، اُن ابھن اور بنوئی و تعلیم دے رہے تھے۔ (حوالہ بالا) سہ حسام عربی میں تارا کو کہتے ہیں۔

(المنجد)

کروں گا۔

عمرِ مکرم راوی ہوئے کہ رسول اللہ ﷺ کے حکم سے گھر کا در کھلا۔ دو ہندم اُس کے لئے آگے آئے۔ مگر رسول اللہ ﷺ کا حکم ہوا کہ اس سے الگ رہو اور کہا کہ اے عمر! اسلام لے آؤ اور دُعا کی کہ ”اللّٰهُمَّ آخِذْهُ“ اے اللہ اس کو راہِ ہدیٰ عطا کر۔“

عمرِ مکرم آگے آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول اسی ارادے سے اس گھر کو رہی ہوا ہوں اور کلمہ اسلام کہہ کر رسولِ اکرم ﷺ کے حائی ہوئے۔ ہادی اکرم کمال مسرور ہوئے۔ اور اللہ احد کی صدا لگائی۔“

عمرِ مکرم کے اسلام سے اہل اسلام کو کمال حوصلہ ہوا۔ عمرِ مکرم اُٹھے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، سارے اہل اسلام کو ہمراہ لے کر سوئے حرم آؤ کہ اللہ کا گھر صدائے لا الہ الا اللہ سے معمور ہو۔ عمرِ مکرم اہل اسلام کو لے کر حرم آئے اور مکے کے گمراہوں سے کہا کہ اے لوگو! گواہ رہو کہ عمر کو راہِ ہدیٰ مل گئی اور وہ اسلام لاکر اللہ اور اُس کے رسول کا حامی ہوا ہے۔ اہل اسلام کھلم کھلا حرم آکر محمدِ الٰہی ہوں گے۔ اگر کسی کو حوصلہ ہوئے آئے۔ الحاصل اس طرح عمرِ مکرم کے واسطے سے اہل اسلام کے لئے حرم الٰہی کا در کھلا اور وہ کھلم کھلا دہاں آکر اللہ کے آگے سر ٹکا کر اور دارِ اللہ کا ”دُعا“ کر کے مسرور ہوئے۔

علماء سے مروی ہے کہ عمرِ مکرم اسلام لائے۔ عمرِ مکرم کا ارادہ ہوا کہ اول کسی اس طرح کے آدمی کو اطلاع دوں کہ وہ سارے اہل مکہ کو اس امر سے مطلع کر دے۔ اس لئے ولیدِ عمر کے گھر گئے اور اُس سے اسلام کا حال کہا، وہ اُسی دم سوئے حرم دھڑا اور لوگوں کو لے لے میرتِ ابنِ ہشام کے حوالے سے میرتِ مسلمانیں یہی الفاظ نقل کئے گئے ہیں۔ یہ اس وقت تک مسلمان دارِ اہم ہی میں چسپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اُس کے بعد حضرت عمر فاروقؓ نے اسلام کے بعد وہ علی الاعلان حرم شریف آکر عبادت کرنے لگے۔ ”دور“ طرانت

عمرِ مکرم کے اسلام کی اطلاع دی۔ عمرِ مکرم اُس کے ہمراہ حرم آئے۔ لوگ اُس کے عدو ہو کر حملہ آور ہوئے اور عمرِ مکرم کو مارا۔ عاص وائل سہمی وہاں آئے۔ لوگوں سے حال معلوم ہوا۔ کہا کہ لوگو! اس سے الگ رہو، عاص اُس کا حامی ہوا۔ اس طرح وہ عمرِ مکرم کو ہمراہ لے کر گھر آئے۔

عمرِ مکرم کے اسلام سے اہل مکہ کو کمال دکھ ہوا اور وہ آگے سے سوا اہل اسلام کے عدو ہوئے۔ ادھر اہل اسلام کو عمرِ مکرم کی ہمدی سے کمال حوصلہ ہوا اور وہ کھل کر عملِ اسلام کے لئے سعی ہوئے۔



اہلِ مکہ کا معاہدہ عدمِ سلوک

عمرو دلدعاس اور اُس کا ہمراہی حاکمِ اصمہ کے ملک سے مکہ مکرمہ لوٹ کر آئے۔ اہلِ مکہ کو معلوم ہوا کہ وہ ہر دو اُس ملک سے محروم ہوئے اور حاکمِ اصمہ اہلِ اسلام کا حامی ہوا۔ ادھر عثمِ ہمدان اور عمرِ مکتوم اسلام لاکر اہلِ اسلام کے حامی ہو گئے اور اہلِ اسلام کا حوصلہ آگے سے بڑھا ہوا۔

گرچہ ہوں کے دل اس حال سے طول ہوئے۔ مکتے کے سردار اور اہلِ رشتے لوگ اکٹھے ہوئے اور اک دوسرے سے رشتے لی کہ اسلام اور اہلِ اسلام کی گاڑی کس طرح ٹکے۔ ہر طرح کی رشتے آئی۔ مگر طے ہوا کہ رسولِ اکرمؐ کے دادا اور اُس کی ساری آل اولاد سے ہر طرح کا سلوک کاٹ کر بکھو اور اُس رشتہ کے لوگوں سے ہر طرح کا معاملہ روک لو۔ سارے لوگ اس رشتے کے حامی ہوئے اور ولدِ عکرہ سے کہا کہ اس معاملے کے لئے اک معاہدہ لکھو کہ اہلِ مکہ اس معاہدے سے آگاہ ہو اور اس کے عامل ہوں۔ ولدِ عکرہ سے معاہدہ لکھوا کر سارے سرداروں کی گواہی لی گئی اور اُس کو "رارِ اشد" کے در سے لٹکا کر عثمِ سردار کو اطلاع دی کہ اس طرح کا معاہدہ ہوا ہے۔ اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ہمارے حوالے کر دو گے، ہم اس معاہدے سے الگ ہوں گے۔

عثمِ سردار کو معلوم ہوا کہ اہلِ مکہ ہم لوگوں کی رسوائی اور المِ دہی کے لئے آمادہ ہو کر صلہِ رحمی اور عدل کی راہ سے دور ہو گئے۔ اہلِ اُسرہ کو لے کر عثمِ سردار اُس رشتہ کوہ آگئے

کہ وہ درۂ عجم سردار ہی کے اسم سے موسوم ہے۔ عجم سردار کے سارے ہی اہل اُسرہ،
مسلم ہوں کہ گمراہ۔ اُس درۂ کوہ اُکھر رہے، سوائے عجم مردود کے کہ وہ گمراہوں
کے ہمراہ رہا۔

ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو اور اک سال سارے اہل اُسرہ کے ہمراہ
اُس درۂ کوہ کے محصور ہو کر رہے۔ وہ سارا عرصہ اُسرہ رسول کے لئے طرح طرح کے
دکھوں اور آلام کا رہا۔ اس لئے کہ اہل مکہ کا ہر معاملہ سارے لوگوں سے رُکا رہا۔
لوگ اکل و طعام سے محروم ہو گئے۔ گھاس اور کھال کے ٹکڑے کھا کھا کر رسول اللہ
کے لئے سارے مدے سے۔ اس سارا عرصہ رسول اللہ درۂ کوہ سے آ کر کلمۃ اسلام کے
لئے ساعی رہے۔ اللہ کے رسول کو اللہ کے سوا کس کا ڈر۔ اہل مکہ کی ساری ہٹ دھرمی
دھرمی کی دھرمی رہی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر الہی کو لے کر گھوٹے اور
لوگوں کو اللہ کی راہ دکھائی۔

اس محصوری کو دو سال اور اک سال کا عرصہ ہوا کہ مکے کے اک رحم دل آدمی
ولید عمر کو وہ امر مکروہ لگا کہ ہم سارے لوگ اکل و طعام کھا کر مسرور ہوں اور ہمارے
ماموں اور دُوسرے لوگ ٹکڑے ٹکڑے سے محروم ہوں۔ ولید عمرو وہاں سے اُنھ کو
اور اک اہل رائے سے ملا اور دل کا حال کہا اور کہا کہ واللہ اس طرح کا معاملہ ہر
طرح سے مکروہ ہے اور صلہ رُحمی اور عدل سے دُور ہے۔ اگر عمروؓ کے ماموں
کے لئے اس طرح کا معاہدہ ہو۔ واللہ وہ اس طرح کے معاہدہ سے دُور رہے۔
ہر دو کی رائے ہوئی کہ اور لوگوں کو اس رائے کے لئے آمادہ کرو۔ ولید عمرو
وہاں سے اُنھ کو ولید عقی کے گھر آئے اور سارا معاملہ کہا۔ وہ اس رائے کے حامی
ہوئے۔ اسی طرح ولید عمرو کی مساعی سے کئی لوگ اس رائے کے حامی ہو گئے۔ طے ہوا

لے شعب ابی طالبؓ لے ہشام بن عمروؓ لے عمرو بن ہشام (ابو جہل) لے مطعم بن عدی ؓ

کہ اگلی ستر کو اس معاملے کو آگے دکھ کر اس معاہدے سے الگ ہوں۔ وہ سردار اگلی ستر کو حرم آئے اور اس معاملے کو آگے رکھا، مگر عمرو لا علم والا ”اٹھا رہا۔

ادھر بادشاہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے واسطے سے اطلاع دی گئی کہ وہ سارا معاملہ گل ستر کے معدوم ہوا مگر کلمہ **اَسْمُكَ** اللہ کے اسم سے اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ عثم سردار کو رسول اللہ ص سے سارا حال معلوم ہوا۔ وہ کمال مسرور ہوئے۔ عثم سردار وہاں سے اٹھے اور دوڑے ہوئے حرم مکرم آئے۔ وہاں سارے سردار اکٹھے ملے۔ کہا کہ لوگو! محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ہر کلمہ اور کلام اٹل ہے۔ اس لئے طے کر لو کہ اگر اُس کا کلام اسی طرح اٹل ہوا، اس معاہدے سے الگ ہو رہو گے۔ آؤ اور معاہدہ لاکر اس امر کی آگاہی حاصل کرو۔ ہمارا وعدہ ہے کہ اگر معاہدہ سالم ہوا۔ ہم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو مکے والوں کے حوالے کر کے اُس سے الگ ہوں گے۔ سارے سردار اہلاً و سہلاً کر کے اٹھے اور کہا کہ اے مکرم سردار وہ امر لائے ہو کہ اُس کی اساس عدل ہے۔ اس لئے آؤ معاہدے کا حق معلوم کرو۔ لوگ معاہدے کو لے کر آئے۔ اُس کو کھولا، سارا معاہدہ مسطور ٹکڑے ٹکڑے ہر کر معدوم ہوا اور اللہ کا اسم علیٰ حالہ لکھا رہا۔ اہل مکہ اس امر سے ٹھٹھر کر رہ گئے۔ عثم سردار وہاں سے لوٹ کر ”درہ کوہ“ آئے اور لوگوں کو سارے معاملے کی اطلاع دی اور کہا کہ اللہ کے حکم سے ہم کو اس معاہدہ سے رہائی مل گئی۔ اے لوگو! آؤ اور گھروں کی ماہ لو۔

ہمدرد رسول و شی کا اسلام

اسی سال اُس ملک کا اک ماہر کلام دوسی مکہ مکرمہ وارد ہوا۔ وہاں آکر لوگوں سے

یہ اس زمانے کا تذکرہ ہے کہ اسم اللہ کی جگہ باسم اللہ لکھا کرتے تھے یہ اصح السیرۃ ص ۹۵۔
یہ حضرت طفیل دوسی، عرب کے اک مشہور شاعر تھے۔

معلوم ہوا کہ تکتے کا اک آدمی سحر کر کے لوگوں کو راہ سے ہٹا رہا ہے۔ اُس کے سحر سے صد ہا لوگ اک دوسرے کے عدد ہو گئے۔ اس لئے اُس آدمی کے کلام سے دُور رہو۔ دوسری کو اس معاملے سے ڈر لگا۔ اور وہ آلہ شمع کو روٹی سے مسدود کر کے وہاں گھوما۔ اک سحر کو حرم آ کے کھڑا ہوا۔ ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اُدھر آئے اور لوگوں کے ہمراہ محمد و دعا بنوئے۔ اُس کو ڈر لگا کہ وہ اس کلام کے سحر سے مسخو رہو کہ کسی اور راہ کا ہو رہے گا۔ مگر دل سے کہا کہ اس مُلک کا ماہر کلام ہوں، کلام مکروہ اور کلام محمود سے آگاہ ہوں۔ اگر کلام مکروہ ہوا رُک کر دوں گا۔ آگے آ کر کھڑا ہوا۔ کلام الہی کی صدا سرمدی سرور میں ہو کر دل سے نکل گئی۔ اُسی دم اس کلام سے گھائل ہوئے۔ ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)، اہل مکہ اس کلام کے اور ہمارے آئے آئے۔ اک حصہ اس کلام کا سمیوع ہوا ہے۔ دل کو لو لگی ہے کہ اس کلام کا اور کوئی حقہ سمیوع ہو۔

کلام الہی سے دل کا اور ہی عالم ہوا۔ اللہ واحد کا ڈر دل کو طاری ہوا اور اسلام کے لئے دل کی راہ ہموار ہوئی اور اُسی دم کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہہ کر اسلام لے آئے۔

مُصَارَعَةُ رَسُولٍ

اسی سال کا حال ہے کہ مکہ مکرمہ کا اک مصارع اور لڑائی کا ماہر سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر راہ ملا۔ رسول اکرم اُس کے آگے آئے اور کہا کہ :

لے کان ۱۰ مصارعہ حبشی مصارع : پہلوان اس پہلوان کا نام زکات بن عبد بنید تھا جو مکہ کا سب سے بڑا پہلوان تھا اور کوئی اس کے مقابل نہ آتا تھا (راج السیر ص ۹)۔

”اللہ سے ڈرو اور اسلام لے آؤ۔“

کہا کہ کس طرح معلوم ہو کہ اللہ کے رسول ہو اور اسلام ہی اللہ کی راہ ہے؟
 ہادئی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اُس کے آگے آئے اور کہا کہ لڑائی کے ماہر ہو اور
 مکہ مکرمہ کے معلوم مصادر ہو، ہم سے مصادر نہ کر لو۔ اگر ہم سے لڑ کر ہار گئے۔
 اسلام لے آؤ گے؟ وہ مصادر اُسی دم لڑائی کے لئے آمادہ ہوا اور کہا ہاں!
 اگر اس لڑائی کو ہاروں گا، اسلام لے آؤں گا۔ رسول اکرم اُس کے آگے آئے
 اور معمولی سی لڑائی لڑ کر اُسے گرا ڈالا۔ وہ لڑائی کا ماہر اس ہلکی سی لڑائی سے گریہ
 گم سم ہوا اور کہا کہ اس لڑائی کو دہرا کر اک لڑائی اور لڑو۔ اگر اس لڑائی کو ہارا
 اسلام لے آؤں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری لڑائی کے لئے
 آگے آئے اور اُس کو اٹھا کر گرا ڈالا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر دوڑا اور لوگوں
 سے کہا کہ اے مکے والو! محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ساتھ ہے۔ اور وہ (دوڑ
 اسلام کی راہ سے ہٹا ہی نہ رہا۔



لے اُس نے تمام قریش میں مشہور کر دیا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بڑے جادوگر ہیں
 مگر ایمان نہ لایا۔

صَدْموں کا سال

سردارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آدھی صدی کی ہوئی اور امِ رُوحی کو آٹے ہوئے دس سال ہوئے کہ رسولِ اکرمؐ کو دو رُوح گسل صدمے ملے ”عیم سردار اور عروسِ مکرمہ کا وصال، اسی لئے سارے علماء سے وہ سال ”صدموں کا سال“ کے اسم سے موسوم ہوا۔

عیم سردار کے وصال کا حال اس طرح ہے کہ عیم سردار کی عمر اُستی سے سوا ہوئی اور وہ گھر کے ہو رہے اور مالِ کارِ لمحۃ وصال آگیا۔ اُس دم بکتے کے کئی سردار اور اہلِ رائے لوگ عیم سردار کے گھر آئے اور کہا کہ اے سردار! اس دم وصال سارے اللہوں کے اسم کا ورد کر کے اللہوں کو مسرور کرو۔ اُسی دم ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم عیم سردار کے آگے آئے اور کہا کہ اے عیم مکرم! لمحۃ وصال آگیا ہے۔ اس لمحہ اگر کَلَامِ اللہِ اَکْبَرُ اللہِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللہِ کہہ لو، اللہ سے دُعا کروں گا کہ وہ ساری عمر کے مکرمہ اعمالِ محو کر کے دارِ السلام کی دائمی عمر عطاء کرے گا۔ بکتے کے سردار اُٹھ آئے اور کہا کہ اے سردار! اس دم سارے اللہوں کی راہ سے ہٹ کر اسلام کی راہ لگو گے؟ اور ہر طرح سے عیم سردار کو کلمۃ اسلام سے روکا۔

عیم سردار رسول اللہ ص سے ہم کلام ہوئے اور کہا۔

۱۰ تاریخ اسلام جلد اول صفحہ ۱۲ آپ نے فرمایا کہ مرتے دم لالہ کہہ لیجئے کہ میں خدا کے ہاں آپ کے ایمان کی شہادت دوں۔

(سیرت النبیؐ ج ۱ ص ۲۴)

امامہ ہو لکہ وہ کلمہ کہہ لوں۔ مگر مکے والوں کو احساس ہو گا کہ وصال کے ڈر سے وہ کلمہ کہا ہے۔

اس لئے والد ہی کی راہ رہ کر مروں گا۔

اس طرح کہہ کر عیم سردار راہی ملکِ عدم ہو گئے۔

رسول اکرم کو عیم سردار کے وصال سے کمالِ صدمہ ہوا کہما۔

عیم سردار کے لئے صدا دُعا گو رہوں گا۔ ہاں اگر اللہ اس امر سے روک دے؟

اسی امر کے لئے کلامِ الہی وارد ہوا۔

رسول اور اہل اسلام کے لئے امر مکر وہ ہے کہ وہ گمراہوں کے لئے

دُعا گو ہوں، گو وہ گھروالے ہی ہوں۔ ہر گاہ کہ معلوم ہوا کہ وہ

دادِ الا لام کو راہی ہوئے؟

عیم سردار کے وصال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی صدمہ ہوا۔

رسول اللہ کے لئے ہر طرح کے آلام سے اور مکے کے گمراہوں کے آگے حوصلے

سے ڈٹے رہے۔ ہر ہر گام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عیم سردار سے

سہارا ملا۔

اک عرویں مکرّم کا دم رہا۔ اُس کے اموال رسول اللہ اور اسلام کے کام آئے۔

اُس محرم دل کے لئے اللہ کا حکم آ لگا اور اس طرح وہ مسلمہ اول اور سارے مسلمانوں

کی ماں اک عمر رسول اکرم کی ہمراہی اور دلداری کر کے اللہ کے گھر کو سدھائی ر اللہ

ہم سادوں کا مالک ہے اور ہر آدمی اُسی کے گھر لوٹے گا۔

۱۔ آخری کلمہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا علیٰ ملّۃ عبد المطلب یعنی عبد المطلب ہی کے

دین پر ہوں (سیرت مصطفیٰ ج ۱ ص ۲۰۰) ۲۔ دادِ الا لام : دوزخ ۳۔ قرآن کریم کا ارشاد

ہے : مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَوْ كَانُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ

مَا بَيْنَ يَدَيْهِمْ إِنَّهُمْ لَعَبَآءٌ حَلِيبٌ۔

علماء کی رائے ہے کہ عیم سرور کے وصال سے آدھے ماہ اُدھر عروسِ مکرّم کا وصال ہوا۔ وہ دلدارِ رسول کہ سارے لوگوں سے اَوّل اسلام لاکر رسولِ اکرمؐ کی حامی ہوئی۔ وہ محرمِ رسول کہ سارا مالِ رسول اللہ کو لے کر مُصر ہوئی کہ اس مال سے اسلام کی راہ ہموار کرو۔ رسولِ اکرم صلی اللہ علیٰ رسولہ وسلم کی وہ دلدادہ کہ اُس کی مُسکراہٹ اور دلداری سے ہر کڑا مرحلہ سہل ہوا۔ مالِ کارِ عمر کے سارے مرحلے طے کر کے اللہ کے گھر کو سُندھاری۔ اللہ اُس کو کمر وٹ کر وٹ کر وٹ دارِ السلام کا آرام عطا کرے۔

مرورِ عالم صلی اللہ علیٰ رسولہ وسلم اس دُہرے صدمے سے کمالِ ملول ہونے اور اک عرصہ گھرتی کے ہو کر رہ گئے۔ عیم مرثود کو معلوم ہوا، وہ رسول اللہ سے گھر آکر ملا۔ اور کہا۔ اے محمد صلی اللہ علیٰ رسولہ وسلم، دل کے طال کو دُور کرو اور معمول کی طرح کام کرو۔ اگر کوئی آڑے آئے گا، اُس کو روکو گے۔ اہل مکہ کو معلوم ہوا، وہ اکٹھے ہو کر عیم مرثود کے گھر آئے اور کہا کہ اُس آدمی کے بھروسہ ہو گئے کہ عیم سرور کے والد کے لئے اُس کی رائے ہے کہ دارِ الانام کی اُگ اُس کو کھائے گی، وہ عیم مرثود اس اطلاع سے کھول اٹھا اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیٰ رسولہ وسلم سے اُگہ سائل ہوا کہ اے محمد! ہم سے دادا کا حال کہو کہ وہ وصال ہو کر کدھر گئے، دارِ السلام کہ دارِ الانام؟ رسولِ اکرمؐ کا کلام ہوا کہ دادا کا حال اُس کے گردہ والوں کے حال کی طرح ہوا۔^۱ اس امر سے اُس کو آگ لگی اور وہ اور سوارِ رسول اللہ کا عدو ہوا اور حسد و ہٹ دھرمی کی اس حد آگاہ کہ رسولِ اکرمؐ کے لئے اسلام کا کام محال ہوا۔

۱۔ یہ سیرتِ مستطیٰ میں ہے کہ عیم رسول ابوطالب کے وصال سے پانچ دن بعد حضرت خدیجہ الکبریٰؓ کا انتقال ہوا اگر سیرت کی دوسری کتابوں میں مختلف روایات ملیں کہیں پندرہ دن بعد لکھا ہے اور کہیں دو ماہ بعد البتہ شیعہ نبوی میں وصال پر سب کا اتفاق ہے۔ ۲۔ ابولعب کا یہ سارا قصہ طبقات ابن سعد جلد اول صفحہ ۳۱ سے لیا گیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابولعب کے جواب میں فرمایا کہ "عبد المطلب کا ٹھکانہ اپنی قوم کے ساتھ ہے۔"

رسول اللہ سے اہل کسار کا سلوک

عیم سرور کے وصال سے اہل مکہ کے حوصلے سوا ہو گئے اور ہر ہر گام رسول اکرم کے لئے رکاوٹ ہو کر آگے آئے اور گمراہی اور لاعلمی کے ساہوکاروں سے طرح طرح کا عدم حمی کا سلوک ہوا۔ کوڑا کرکٹ لاکر رسول اللہ کے گھر ڈالا۔ اللہ کے رسول کے سر مسعود کو کوڑے کرکٹ اور گردے آلودہ کر کے مسرور ہوئے۔ الحاصل وہ سارا دور اس طرح کے آلام اور دکھوں کا دور رہا۔

ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ وہ مکہ مکرمہ سے ساٹھ کوس دور اُس کساری مصر کو رواں ہوں کہ وہ اس ملک کے سرکردہ گروہوں کے سرداروں کا گھر ہے۔ رسول اللہ کو اس لگی کہ وہاں کے لوگ اگر اسلام لے آئے اُس سے اسلام کی راہ دوسرے امصار اور دوسرے گروہوں کے لئے ہموار ہوگی۔

ہمدم ملوک کو ہمراہ لے کر سوئے کسار رواں ہوئے۔ ساٹھ کوس کے کپڑے مڑھل طے کر کے وہاں آئے۔ وہاں کے اک سرور مسعود اور اُس کے دو ولید اُم کے گھر آئے اور کلمہ اسلام آگے رکھا، وہ لوگ اس امر کو مسموع کر کے کھول اُٹھے اور رسول اللہ کے عدو ہو گئے اور سوئے کلام اور ٹھٹھا کر کے الگ ہوئے اور محلے کے لڑکوں کو اُکسا کر کہا کہ اس آدمی کو ڈولوں سے مارو۔ ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال سے کمال ملول ہوئے۔ وہاں کے محلے محلے گھوم کر صدا لگائی، مگر گمراہوں کے دل گمراہی اور ہٹ دھرمی کی کالک سے ڈھکے ہی رہے۔ رحم و کرم سے محروم وہاں

لے طائف والوں کا۔ تہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ تہ ولید اُم: بھائی۔ مسعود، عبد یل اور حبیب تینوں بھائی وہاں کے سرداروں میں سے تھے۔

کے لوگوں کا سلوک کمالِ عدمِ رحمی کا ہوا۔ لڑکے ڈالے لئے رسول اللہ کے آگے آئے۔ لڑکوں کے ڈالے کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہو ہو گئے۔

اللہ اللہ! کس طرح وہ لوگ اللہ کے اُس رسول کے عدو ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گمراہی سے الگ ہو کر دادِ اللام کی آگ سے دور ہوں اور وہی لوگ اس رسولِ رحم و کرم کے آڑے آئے۔ الحاصل، اس مصرعِ اکبر سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے دُکھوں سے سوا دُکھ ملا۔ وہاں کے لوگوں سے گھائل ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلک کو ہمراہ لے کر راہ کے اک سائے دار محلِ اکبر کے۔ دُکھے دل سے اللہ کے رسول کی دُعا ہوئی۔ اُس دُعا کا حاصل اس طرح ہے :-

» اے اللہ! وسائل کی کمی اور کم حوصلگی اور لوگوں کے سوئے سلوک کا گلیہ ہے اے سارے رحم والوں سے سوا رحم والے! کم داروں کے مددگار اس رسول کو کس کے حوالے کرے گا، کسی رحم سے دور عدو کے حوالے کرے کسی ہمدم کے حوالے کرے وہ ہمارے اُمور کا مالک ہو۔ اگر اللہ کا سہارا ہو اس رسول کے سارے گلیے دور ہوئے۔ اے اللہ! اگر اللہ کی مدد ہو امرِ اسلام سہل ہو گا۔

اللہ کی درگاہ سے اللہ کا وہ ملک ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ملا کہ سارے کمساروں کا امر اُس کے حوالے ہے۔ کہا۔ اے رسول! اللہ کے حکم سے مامور ہوا ہوں کہ اگر رسول کا حکم ہو، اس مصرع کے ہر دو مصرعوں کے کمساروں کو بلا کر سارے لوگوں کو مار ڈالوں۔ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوا کہ

اے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ سے پوچھا کہ اُحد سے زیادہ کوئی سخت دن آپ پر گزرا ہے، تو آپ نے اسی سفر کا حوالہ دیا۔
(سیرتِ مصطفیٰ ص ۲۱۰)

اے ملک! اللہ کے رسول کو اُس ہے کہ اس مہر کے لوگوں کی اولاد سے لوگ مسلم ہوں
 مجھے اور اللہ واحد کے علم کے حامل ہو کر دوسرے سارے الہوں سے دُور ہوں گے۔
 ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سوئے مکہ راہی ہوئے اور حرا
 اکبر کے حکم ہوا کہ مطعم ولد عدی سے کہلا دو۔ اگر وہ ہمارے ہمراہ اور حامی ہو،
 ہم مکہ مکرمہ وارد ہوں۔ گو مطعم ولد عدی اسلام سے دُور رہا، مگر اُس لمحہ وہ رسول اللہ
 اور ہمد مملوک کا حامی ہوا اور گھروالوں کو مسلح کر کے اور سوار ہو کر حرم کے آگے اکھڑا
 ہوا اور صدا دی کہ لوگو! محبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کا اس لمحے ولی ہوا، ہیں
 اس لئے اُس سے دُور رہو۔ ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول حرم آئے اور حمد
 دُعا کر کے گھر لوٹے۔



۱۔ سیرت مصطفیٰ ص ۲۱۱ بحوالہ صحیح بخاری وفتح الباری و معجم طبرانی۔ ۲۔ طائف سے واپسی
 پر آپ نے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لئے مطعم بن عدی سے کہلایا کہ کیا ہیں پناہ دو گے؟
 اُس نے قبول کیا اور اپنے بیٹوں اور قوم کے لوگوں کے ہمراہ مسلح ہو کر حرم کے دروازے کے پاس آ
 کھڑا ہوا اور کئے والوں سے کہا کہ آنحضرت میری پناہ میں ہیں۔ (سیرت مصطفیٰ ص ۲۱۳) ۳۔

آحوالِ اسراء

ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کوئی آدھی صدی اور اک سال کی ہوئی کہ اسرارے سماوی کا وہ اکرام ملا کہ عالم مادی اور عالم ملائک کا ہر اکرام اور ہر عہد اس سے کم ہے۔ دوسرے سارے رسول اس اکرام سے محروم رہے۔ اللہ کا رسول دم کے دم اس عالم مادی سے دور ہو کر سرور ملائک کے ہمراہ سوئے سماوی ہی ہوا اور اللہ کی کرسی کی رسائی حاصل ہوئی اور اللہ سے ہم کلام ہو کر ٹوٹا عالم معاد کے لامحدود اسرار و حکم حاصل ہوئے۔

اس رحلہ سماوی کا حال اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرور ملائک کے گھر اگر محو آدم ہوئے اور سو گئے۔ معاً وہاں سرور ملائک اللہ کے حکم سے آئے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر حرم لائے۔ سرور ملائک کا اک ملک گھوڑا وہاں کھڑا ہوا ملا۔

سرور ملائک ”الروح“ آگے آئے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل کر صدر مسعود کاٹا اور سرور عالم کے دل کو ”ماءِ طاہر“ سے دھو کر اور اسرارِ علوم الہی اور اللہ کی گواہی سے معمور کر کے دکھا اور سرورِ رسول عطاء کی۔ رسول اکرم وہاں سے اٹھے سرور

۱۔ واقعہ معراج: علماء کی اصطلاح میں اس واقعہ کو اسراء کہتے ہیں۔ عربی میں اسراء کے معنی سیر کے آتے ہیں (سیرت مصطفیٰ ص ۲۳) حیرت کی بات ہے کہ سیرت النبیؐ کی جلد اول میں مولانا شبلی نعمانیؒ نے اس واقعہ کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا (محمد ولی)۔ ۲۔ معراج کے وقت آنحضرتؐ کی عمر کیا دن برس اور نواہی تھی۔ ۳۔ ملک گھوڑا: براق۔ ایک بہشتی جانور جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا اور برق رفتار تھا۔

(سیرت مصطفیٰ ص ۲۳، سیرت النبیؐ ج ۱ مطبوعہ بیتنا دار اہل اسلام لاہور)

ملائک ملکی گھوڑا لائے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کا سلام ہو۔ اللہ کا حکم ہوا ہے کہ اس گھوڑے کی سواری کر کے ہمارے ہمراہ اسراٹے سہادی کر کے درگاہ الہی آؤ اور اللہ مالک الملک سرطوبہ رسول اللہ کو اس امر سے دلی سرور ہوا اور سرورِ ملائک الروح کا کلام ہوا کہ ”اے گھوڑے! کو! اللہ کا وہ رسول سواری کرے گا کہ وہ اس گھوڑے کے سارے سواروں سے مکرم سوار ہے۔ اس کلام سے وہ گھوڑا رام ہو کر آگے ہوا۔ اللہ کا رسول اس ملکی گھوڑے کا سوار ہوا اور سرورِ ملائک رسول اللہ کے ہمراہ رہے۔ وہ سرورِ مسخرہ گھوڑا اس طورِ رواں ہوا کہ دم کے دم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ”دارالمطہر“ آگے بڑھا۔ اللہ کا وہ مسعود گھر کہ اول اول اللہ والے سوئے ”دارالمطہر“ ہی رہا کہ کے عبادِ اسلام کے لئے کھڑے ہوئے۔

علمائے کرام سے مروی ہے کہ رحلۃ اسراء کے راہ کے سارے مراحل طرح طرح کے اسراء و احوال رسول اللہ کو مطالعہ ہوئے اور سرورِ ملائک سے اسراء و حکم کے علوم حاصل ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ”دارالمطہر“ آئے اور اللہ کے آگے رکوع کر کے اور سرورِ ملائک کا حمد و دُعا کی۔

اللہ کے سارے رسول ”دارالمطہر“ آکر اکٹھے ہوئے۔ اک رسول اُٹھے اور عبادِ اسلام کے صدا لگائی، لوگ کھڑے ہو گئے اور رُکے رہے کہ کوئی سارے لوگوں کا امام ہو۔ سرورِ ملائک رسول اللہ کو لے کر آئے اور کہا کہ لوگوں کے امام ہو کر عبادِ اسلام کی ادائیگی کرو۔ ہادی اکرمؐ لوگوں کے امام ہوئے۔ عبادِ اسلام کی ادائیگی مکمل ہوئی۔ سرورِ ملائک کا سوال ہوا کہ معلوم ہے کہ کس گروہ کے امام

لہ دارالمطہر: بیت المقدس ۱۵ سب سے پہلے آپؐ نے دو رکعت تہیۃ المسجد کی ادا کیں۔ سیرت مصطفیٰ ص ۲۱۰۔ بحوالہ صحیح مسلم (تہیۃ المسجد) کا لفظ مسلم کی روایت میں نہیں ہے۔

آئے۔ اس طرح اللہ کے حکم سے رحلہ اسراء کے وہ سارے مراحل سحر کی آمد سے اُدھر
ہی طے ہو گئے۔

سحر ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اُٹھے اور گھردانوں سے وہ سارا حان
کہا۔ گھردا لے ڈرے کہ اگر رسول اللہ ص سے اہل مکہ کو وہ سارا حال معلوم ہو گا، وہ لوگ
رسول اکرم کے کلام کو رد کر کے اور سوا عدو ہوں گے۔ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم سے کہا کہ احوال اسراء کو کئے جانے والوں سے روک رکھو کہ وہ اس سے سوا
عدو ہوں گے۔ مگر رسول اکرم ص اُٹھے اور کہا کہ واللہ! اس حال کو لوگوں سے لامناذ
کہوں گا۔ اللہ کے رسول کو کیا گوارا کہ وہ اللہ کے اس کریمہ احکام و علام کو لوگوں
کے ڈر سے روک دے۔ اس طرح کہہ کر سوئے حرمِ ہداں ہوئے۔ اہل مکہ سے اسراٹے
سماوی کا سارا حان کہا، وہ سارے لوگ اس حال کو معلوم کر کے اکٹھے ہو گئے اور
ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر کہا کہ ”دارالمطہر“ تک سے دو ماہ کی
راہ ہے کس طرح وہاں سے سحر سے اُدھر ہی ہو کر آ گئے؟ اور طرح طرح کے محل
سوال ہوئے۔ ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے اور وہ سارے احوال
کہے کہ اس رحلے کے مراحل سے مطالعہ ہوئے۔ کہا کہ اک کاہداں تک آ رہا ہے،
وہ کئی مراحل اُدھر ہے اور اُس کاہداں کے کئی حال کہے۔ وہ کاہداں اک عرصہ اُدھر
تکے وارد ہوا اور سارے احوال اُسی طرح معلوم ہوئے۔ مگر کتے کے سردابٹ دھری
کی راہ لگے رہے اور کہا کہ وہ کوئی سحر کا معاملہ ہے۔

اہل مکہ ہمیں مکہم سے آ کر ملے اور کہا کہ اہل اسلام کے سردار کا معاملہ معلوم
ہے؟ اُس کا دعویٰ ہے کہ وہ ”سحر“ سے اُدھر ہی اُدھر ”دارالمطہر“ ہو کر لوٹا

ہے۔ کہا کہ لوگو! ہم سے کہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ اسی طرح ہوا ہے؟ کہا۔ ہاں وہ اسی حال کا مدعی ہے۔

بہنم مکرم آگے آئے اور کہا کہ لوگو! معلوم ہو کہ اگر اللہ کے رسول کا دعویٰ وہی ہے، گواہ رہو کہ وہ دعویٰ لامحالہ اٹل ہوگا۔

مال کارکتے والوں کے رسول اللہ سے طرح طرح کے مہمل سوال ہوئے اور حاسدوں کا گردہ حسد وہٹ دھری کی راہ لگا رہا۔ سوال ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دارالمظہر کا مکمل حال ہم سے کہو کہ وہ کس طرح کا گھر ہے؟ اُس کے در اور کھڑکی کے عدد سے آگاہ کرو۔ اللہ کی مدد ہوئی اور اُس کے حکم سے دارالمظہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہوا۔ اُس کے در، کھڑکی اور دوسرے احوال مطالعہ کر کے لوگوں کو آگاہی دی اور اہل مکہ کو معلوم ہوا کہ رسول اکرم کا ہر کلام اٹل ہے۔

مگر دائے محرومی کہنے والے اس اللہ کے رسول کے سارے احوال سے مطلع رہے اور ہر حال سے گواہی ملی کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ مگر ہٹ دھری اور حسد کے رنگ سے دل مُردہ ہی رہے اور راہ ہدیٰ سے کوسوں دُور ہو گئے۔



وادی اُحد کے لوگوں کا اسلام

اسرائیلسی سادی سے کئی ماہ اُدھر اُس سال کا موسیٰم احرام آگیا۔ دُور دُور کے امصار و ممالک کے لوگ مکہ مکرمہ کے لئے راہی ہوئے۔ ہادی اکرم صلی اللہ علی رسولہ وسلم کا معمول رہا کہ وہ ہر سال اس ماہ دُور کے آئے ہوئے لوگوں سے ملے کہ اللہ کے حکم اور اللہ واحد کے علم سے لوگ آگاہ ہوں۔ ہمد مکرم کو ہمراہ لے کر ہادی اکرم صلی اللہ علی رسولہ وسلم موسیٰم احرام کے ماہ ہر گروہ کی درد گاہ آئے اور لوگوں سے اللہ واحد کے امر اسلام کو کہا۔

اس سال وادی اُحد کے اُس ممر سے کئی لوگ مکہ مکرمہ آئے۔ وہی معمورہ اُحد کہ اللہ کے حکم سے اس ماہ سے کوئی دو سال اُدھر ہادی مکرم کی درد گاہ ہوا اور حرم رسول ہوا۔ اور وہاں رسول اللہ کی دائمی آباد گاہ ہے۔

معمورہ اُحد کے لوگوں کو وہاں کے اسرائیلی علماء سے معلوم رہا کہ اک رسول اُمم کی آمد کا دور آ رہا ہے۔ وہ اللہ کا رسول سارے عالم کو راہ ہدی دکھا کر لوگوں کو اللہ واحد کی راہ لگائے گا۔ وہاں کے علماء سے اس رسول کے کئی احوال معلوم ہوئے اور وہاں کے علماء کو اس رہی کہ وہ اُس رسول موعود کے ہمراہ ہو کر

لہ نبوت کے گیارہویں سال مدینہ منورہ کے قبیلہ خزرج کے لوگ حج کے لئے آئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کے سامنے اسلام پیش کیا۔ وہ یہود مدینہ سے سنتے آئے تھے کہ اللہ کا ایک رسول آنے والا ہے۔ اُن لوگوں نے آپ کو پہچان لیا اور اسی مجلس میں ایمان لے آئے۔ یہ کل چھ آدمی تھے۔ (سیرت مصطفیٰ ص ۱۷۲) :-

وادی اُحد کے لوگوں سے معرکہ آرا ہوں گے اور اس کے سارے اعداء ہلاک ہوں گے۔

ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گروہ کی ورد و گاہ آئے، وہ لوگ وہاں آکر آگاہ ہوئے کہ وادی مکہ اس رسولِ اتم سے معمور ہو گئی ہے۔ اس گروہ کے کئی لوگ سارے گروہ سے الگ ہو کر رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ رسولِ اکرم سے کلام الہی مسموع ہوا۔ اس کلام سے اُنھ کو اک سرمدی لہر دلوں سے ٹکرائی اور دلوں سے لاعلمی اور گمراہی کی گھٹا ہٹی، اک دوسرے سے کہا کہ ”اللہ کا وہی رسول ہے کہ اُس کا علم ہم کو اسمائِ ثانیٰ علماء سے حاصل ہوا ہے اور ہم اس رسول کے لئے دعا گو رہے، اس لئے اے لوگو! اس سے اول کہ وہ علماء اور علماء کے لوگ ہم سے آگے ہو کر اسلام کے حامی ہوں، اسلام لے آؤ“ اسی دم کلمۃ اسلام کہہ کر اللہ واحد کے گواہ ہوئے اور اسلام لا کر ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی ہوئے۔ کل دو کم آٹھ آدمی وہاں مسلم ہوئے اور موسمِ احرام کے سارے احکام ادا کر کے معمورۂ اُحد رواں ہوئے۔ وہ لوگ وہاں آکر ہر اک آدمی کو رسولِ امیؐ اور اُس کے لئے ہوئے احکام سے آگاہ کر کے رہے۔ اس طرح وادی اُحد کے امصار اور لوگوں کو اللہ کا حکم رسا ہوا اور اللہ کے حکم سے ہادی امم کے لئے وہاں کا ماحول ہموار ہوا۔

لے مدینہ کے یہود چونکہ اقلیت میں تھے، اس لئے جب اوس اور خزرج سے اُن کا جھگڑا ہوتا تو وہ کہا کرتے تھے کہ غقریب نبی آخر الزماں مبعوث ہوں گے اور ہم اُن کے ساتھ مل کر تم کو عادی و ثمود کی طرح ہلاک و برباد کر دیں گے۔ (سیرت معظمہ ص ۲۵۴) تھے یہ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر یہود ہم سے کرتے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اسی سعادت میں ہم پر بیعت لے جائیں۔ اسلئے وہیں چھ آدمی اسلام لائے (حوالہ بالا) تھے ان چھ آدمیوں کے نام یہ ہیں: حضرت اسعد بن زرارۃ، عوف بن الحارث، رافع بن مالک، عقبہ بن عامر، قلیبہ بن عامر اور حضرت جابر بن عبد اللہ (حوالہ بالا) ۛ

رسول اللہ کے مددگاروں کا عہد

رسول اُمّ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال معلوم کر کے وہاں کے اور کئی لوگوں کا امداد ہوا کہ وہ مکہ مکرمہ آکر اسلام کے اکرام سے مالا مال ہوں۔ اس لئے اگلے سال موسمِ احرام کے ماہ وہاں سے دس اور دو آدمی راہی ہوئے اور ہادی اکرمؑ سے مکہ مکرمہ سے کئی کوئس اُدھر اک گھاٹی آکر ملے اور رسول اکرمؑ سے کلامِ الہی مسموع کر کے اسلام لائے اور اس عہد کے عامل ہوئے :-

(۱) اللہ واحد کے علاوہ کسی دوسرے اللہ کے اکرام سے دُور ہوں گے۔

(۲) لوٹ مار، حرام کاری اور اولاد کی ہلاکی سے دُور ہوں گے۔

(۳) دُوسروں کی رسوائی سے الگ ہوں گے۔

علماء کے ہاں معمورہ اُحد کے لوگوں کا اسلام اور اس عہد کا حال مددگاروں کا عہدِ اولیٰ کے اسم سے موسوم ہے۔ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ اسلام کے دو معلم اس گروہ کے ہمراہ وہاں کے لئے راہی ہوں کہ وہ وہاں کے لوگوں کو کلامِ الہی سکھا کر اور اسلام کے احکام سے آگاہ کر کے اللہ کے آگے کامیاب ہوں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہندم اُس گروہ کے ہمراہ رواں ہو کر معمورہ اُحد آگئے اور رُوح و دل سے اسلام کے لئے ساعی ہوئے۔ ہر دو ہندموں کی ساعی سے وہاں کے کئی گروہ اسلام لائے اور اس طرح اللہ کے حکم

لے مددگار رسول : انصارِ مدینہ سے عرب کے بعض قبیلوں میں رواج تھا کہ وہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہما معلم ہو کر مدینہ منورہ گئے۔ یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اوس کے سرکردہ لوگوں میں سے تھے۔ جب وہ اسلام لے آئے تو بنی عبدالاشہل کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ عہدِ اولیٰ بختِ اولیٰ

سے معمورہ اُحد کی گلی گلی اور محلہ محلہ کلمۃ اسلام سے معمور ہوا۔
ہر دو ہجڑوں سے اک ہجڑ مکہ مکرمہ لوٹ آئے کہ رسول اللہ ص سارے احوال سے
مطلع ہوں یہ

رسول اللہ کے مددگاروں کا دوسرا عہد

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امیرِ وحی آئے ہوئے دس اور دو سال کا عرصہ
مکمل ہوا اُس کے اگلے سال کے موسمِ احرام کی آمد آمد ہوئی۔ معمورہ اُحد سے اس سال
کئی سو لوگ مکہ مکرمہ کے لئے جا ہی ہوئے۔ وہاں کے مسلمانوں کا ارادہ ہوا کہ اس سال
اللہ کے رسول سے مصر ہوں کہ وہ اللہ کے سہارے مکہ مکرمہ سے جا ہی ہو کہ معمورہ
اُحد کو حرم کے پاس رہے۔ مکہ مکرمہ سے اک دو میل اُٹھ کر لوگوں کا ارادہ ہوا کہ مددگاروں
سے کوئی آدمی مکہ مکرمہ جا ہی ہو اور ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح
ملے کہ مکہ کے گمراہ اس امر سے لاعلم ہوں اور وہاں آکر رسول اللہ کو اس گروہ کی
آمد کی اطلاع دے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اُس عزمِ گرامی کو ہمراہ لے کر رواں ہوئے کہ
رسول اللہ کے وہ عزم گوا اسلام سے دور رہے، مگر رسول اکرم کے ہمدرد اور حامی
رہے۔ اس طرح ہر دو مکے کے لوگوں کو لاعلم رکھ کر اُسی گھاٹی آ گئے کہ وہاں اک سال
اُدھر، معمورہ اُحد کے دس اور دو لوگ مسلم ہوئے۔

معمورہ اُحد کے لوگ رسول اللہ سے ملے۔ کلامِ الہی سے رُوح و دل کے قدر

۱۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۲۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر ابوطالب
کی وفات کے بعد سے آپ کو بہت عزیز دیکھتے تھے۔

کھلے اور نکل سامنے اور دس سے سوا لوگ اسلام لائے۔ اور ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مددگاری کا عہد کر کے رُوح و دل سے رسول اللہ کے حامی ہوئے اور رسول اکرمؐ سے کہا کہ اے رسول اللہ! مکے والوں کی ہٹ دھرمی اور گمراہی حد سے سوا ہو گئی ہے۔ اس لئے ہم سارے مددگاروں کی رائے ہے کہ اللہ کا رسول اعدائے اسلام کے آلام سے دُور ہو کر معمورۂ اُحد آ کر رہے اور وہاں کے لوگوں کو اللہ کی راہ دکھائے۔ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے ہر حکم کے عامل ہوں گے۔

رسول اللہ کے عہد گرامی اُٹھے اور مددگاروں سے کہا کہ اے لوگو! معلوم ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سارے اہل مکہ کے لئے ہر طرح مکرم ہو کر رہے اور معلوم ہو کہ ہم لوگ ہر طرح اُس کے حامی اور مددگار ہوئے۔ امر اسلام سے اہل مکہ اُس کے عدو ہو گئے۔ اس لئے اگر اللہ کو گواہ کر کے وعدہ کرو کہ اُس کی ہر طرح امداد کرو گے اور سدا اُس کے حامی رہو گے۔ وہ معمورۂ اُحد کے لئے آمادہ ہوں گے اور معلوم ہو کہ اس امر سے سارا ملک معمورۂ اُحد کے لوگوں کا عدو ہو گا، اگر اس کے لئے آمادہ ہو کہ سارے ملک کے اعداء سے اکٹھے ہو کر اس کے لئے لڑو گے۔ سو اس امر کا امدادہ کرو اور اگر اس حوصلے سے محروم ہو اسی محل سے لوٹ لو۔ مگر رسول اللہ کے مددگاروں کا ہر طرح وعدہ ہوا کہ وہ ہر طرح اور ہر حال رسول اللہ کے حامی ہوں گے۔ ہادی اکرمؐ مددگاروں کے اس عہد سے مسرور ہوئے اور اُس گروہ کے دس اور دو مددگاروں کو حکم ہوا کہ وہ دوسرے لوگوں کے معلم اور مصلح ہوں۔ اس طرح رسول اکرمؐ مددگاروں کا وہ عہد لے کر مکہ مکرمہ لوٹ آئے اور مددگاروں کا گروہ سارے احکام عمرہ و احرام ادا کر کے معمورۂ اُحد رواں ہوا۔

لہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر کل سے آدی مدینہ منورہ کے اسلام لائے (صحیح السیرۃ) لہ مدینہ منورہ کے لوگوں میں آنحضرتؐ نے بارہ نقیب مقرر فرمائے اور کہا کہ تم اپنی قوم کے کفیل اور ذمہ دار ہو۔

اہل اسلام کو وداعِ مکہ کا حکم

امروچی سے ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احوالِ صالحہ دکھائے گئے اور امروچی کی آمد ہوئی۔ اسی طرح وداعِ مکہ سے ادھر اقل اقل کئی مصر دکھائے گئے کہ کوئی اک مصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وردِ گاہ ہوگا۔

اللہ کا حکم ہوا اور رسول اللہ کو وحی آئی کہ مکہ مکرمہ کے ہمدم اور اہل اسلام معمورہ اُحد کو اک اک کر کے رواں ہوں۔ ہمدیوں کو اس حکم اور اس رستے کی اطلاع دی گئی۔

لوگوں کو حکیم رسول بلا اور وہ اس حکیم الہی اور رسول اللہ کے حکم کے عمل کے لئے آمادہ ہوئے۔

سادے لوگوں سے اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدم اور ہم عمر والدِ سلمہ مع گھر والوں کے آمادہ ہوئے کہ مکہ مکرمہ کو الوداع کہہ کر اُس مصر کو رواں ہوں کہ وہی معمورہ رسول ہوگا۔ مگر مکے والوں کو معلوم ہوا، وہ آگے آکر ڈٹ گئے اور کہا کہ ہم کو اُس کی گھر والی ام سلمہ کو روک کر ہی آرام ہوگا، اس لئے کہ وہ ہمارے اُسے کی ہے۔ اس لئے اگر والدِ سلمہ کا امادہ ہو وہ ام سلمہ کے علاوہ ہی رہا ہی ہو۔ ادھر سے والدِ سلمہ کے اُسے کے لوگ آگئے اور کہا کہ ام سلمہ کے گود کا لڑکا ہمارا ہے۔ اس لئے وہ ہمارے ہمراہ رہے گا۔ الحاصل اس طرح والدِ سلمہ، اُس کا لڑکا

لہ وداعِ مکہ: ہجرت ۱۰ھ سے پہلے ابتداء آپ کو ایک کھجور والی جگہ دکھائی گئی۔ حدیث میں ہے کہ آنحضرتؐ کو تین شہروں میں سے انتخاب کرنے کا اختیار دیا گیا۔ وہ تین شہر مدینہ، یثرب و قرینہ تھیں۔
(سیرت مصطفیٰ ص ۲۶۹)

اُوُس کی اہل، الگ الگ ہو گئے اور والدِ سلمہ ہر دو سے الگ ہو کر سوئے معمورہ رسول
راہی ہوئے۔ مگر اللہ کی مدد اور اک عرصہ کی سعی سے لڑاکا اتم سلمہ کو ملا اور وہ ہزدو
رسول اکرمؐ کے وداع مکہ کے اک سال اُدھر معمورہ رسولؐ آکر والدِ سلمہ سے مل گئی۔
تکے کے سردار اہل اسلام کے ہر طرح آڑے آئے۔ مگر مکہ مکرمہ کے اہل اسلام
اسی طرح اک اک کر کے معمورہ رسولؐ راہی ہوئے اور مکہ مکرمہ کے صدا گھر مالکوں
سے محروم ہو گئے۔

وہی محدود لوگ مکہ مکرمہ رہ گئے کہ وہ گمراہوں کے ملک کی رہے اور مال سے
محروم۔ نکتے کے گمراہوں کے سردار اس حال سے کمال طول ہوئے اور دل مسوس
کر رہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیٰ رسولہ وسلم، علی کریم اللہ اور ہمدیم مکرم اللہ کے حکم سے
مکہ مکرمہ ہی بسکے رہے۔

اہل مکہ کی کارروائی

نکتے کے سرداروں کو اس حال سے کمال دکھ ہوا اور احساس ہوا کہ رسول اللہ
کے سادے ہمدیم مکہ مکرمہ سے راہی ہوئے۔ اسی طرح کسی لمحے محمد صلی اللہ علیٰ رسولہ
وسلمؐ مکہ مکرمہ کو الوداع کہہ کر راہی ہوں گے۔ اس لئے رائے ہوئی کہ سادے
سرکردہ لوگ ”دارالرائے“ آکر اکٹھے ہوں کہ اس مسئلے کا کوئی حل حاصل ہو۔ مگر راہی
اور لا علمی کے سادے ہی سا ہو کار اکٹھے ہو گئے۔ ہر طرح کی رائے دی گئی، کسی کی رائے
ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیٰ رسولہ وسلمؐ کو کمرے کا محصور کر کے سادے درمستود کر

لے معمورہ رسولؐ: مدینہ النبی۔ مدینہ منورہ کا نام ہجرت سے پہلے شرب تھا۔ آنحضرتؐ کی تشریف آوری سے
وہ مدینہ النبی مشہور ہوا۔ ”معمورہ رسولؐ“ مدینہ النبی ہی کا ترجمہ ہے۔ :-

دو، مگر وہاں اک ممترا آدمی کھڑا ہوا اور کہا کہ اُس کے اُسے دالے حملہ آور ہو کر اُس کو ہلا کر کے رواں ہوں گے۔ کسی کی رائے اُنی کہ اُس کو مکہ مکرمہ سے دُور کر کے اس مسئلہ کو حل کر دو۔ مگر ممترا آدمی کھڑا ہوا اور اس طرح کہہ کر اس رائے کو رد کر کے ہلا کر اُس کو مکہ مکرمہ سے دُور کر دو گے۔ وہ دوسرے امصار کے لوگوں کو مسلم کر کے حملہ آور ہو گا۔ عمروؓ، عدو اللہ کھڑا ہوا اور رائے دی کہ اس طرح کر و کہ ہر گروہ کا اک سردار لو اور سارے سردار مل کر کسی طرح محسد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو لا علم نہ کر حملہ کرو اور مار ڈالو۔ اس طرح اُس کا دم ہر گروہ کے سر اُٹے گا۔ اس طرح اُسے رسولؐ کے لوگوں کے لئے محال ہو گا کہ وہ سارے گروہوں سے محرکہ آراء ہوں۔ اُس ممترا آدمی کو وہ رائے عمدہ لگی اور اس طرح وہ اللہ کے عدو طے کر کے اُٹھے کہ وہ اللہ کے رسولؐ کو اکٹھے وار کر کے اور اُس کو ہلاک کر کے ہی مسرور ہوں گے۔

رسول اکرمؐ کو وداعِ مکہ کا حکم

ادھر حسد و ہٹ دھرمی، گمراہی اور لاعلمی کے علمبرار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلاکی کے معاملے طے کر کے اُٹھے اور ادھر درگاہِ الہی سے وحی آگئی اور ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے کی اطلاع دی گئی کہ مکے کے گمراہ اس طرح کی کارروائی اور مکر کے معاملے طے کر کے اُٹھے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سارا عرصہ اللہ سے اُس لگائے رہے کہ اللہ

ﷻ شیخ بخاری: بعض علماء کا خیال ہے کہ وہ ممترا آدمی ابلیس تھا۔ واللہ اعلم (امج السیر)

ﷻ عمرو بن ہشام: ابو جہل

کا حکم آئے اور وہ سوتے معمورہ رسول داہی ہوں۔ ہمدیم مکرم کو اُس لگی رہی کہ اللہ کے حکم سے وہ رسول اللہ کے رَحْلۃ وِدَاع کی ہمراہی سے مالا مال ہوں گے۔ اسی لئے وہ اس رَحْلۃ رسول کے ہر طرح کے امور کے لئے ساعی رہے کہ کسے معلوم ہے کس لمحہ اللہ کا حکم ہوا اور وہ رسول اللہ کے ہمراہ داہی تھے ہوں۔

علی کرم اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا سرور ملائک المروح سے سوال ہوا کہ رسول کے ہمراہ اس رَحْلۃ کی ہمراہی کسے ملے گی؟ کہا کہ ہمدیم مکرم کو۔“
(رواہ الحاکم)

مال کا رسول کا حکم وارد ہوا کہ اللہ کا رسول مکہ مکرمہ کو الوداع کہہ کر معمورہ رسول کو داہی ہو۔ ہادی اکرم اس حکم الہی سے مسرور ہوئے اور گھر سے اٹھ کر ہمدیم مکرم کے گھر کے لئے داہی ہوئے اور ہمدیم مکرم سے مل کر کہا کہ اللہ کا حکم ہوا ہے کہ ہم مکہ مکرمہ کو الوداع کہہ کر معمورہ رسول کو داہی ہوں۔ ہمدیم مکرم کا سوال ہوا کہ اس ہمدیم مکرم کو اس رَحْلۃ مسعود سے ہمراہی حاصل ہوگی؟ کہا ”ہاں“ دلی سرور کی اس اطلاع سے رُوح و دِل کھل اُٹھے اور ہمدیم مکرم کی لڑکی اور رسول اللہ کی عروس مطہرہ راوی ہوئی کہ ”والد اس اطلاع کو حاصل کر کے اس طرح مسرور ہوئے کہ رو اُٹھے۔ اُس لمحہ ہم کو اول اول معلوم ہوا کہ کمال سرور کس طرح سے آدمی کو دلا سکے گا۔

ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ راہ کے لئے سواری کا اور کسی راہ دلی

لے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آنحضرت اُن کو سفر ہجرت میں ساتھ رکھیں گے، اس لئے اس سفر کی تیاریاں شروع کر دی تھیں اور دو سواریاں بہت اہتمام سے پال رہے تھے۔ (ابن سعد و جامع السیر) ۳۷ عروس مطہرہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے پیشتر مجھے گمان نہ تھا کہ فرط مسرت سے بھی آدمی رونے لگتا ہے۔

(سیرت مصطفیٰ ص ۲۷۲) ❦

کا معاملہ طے کرو۔ ہمد مکرّم آگے آئے اور کہا کہ اے رسول اللہ کے کرم سے دو سواری کا مالک ہوں۔ اک سواری ہم سے اللہ کی راہ کے لئے وصول کر لو اس سے ہمد رسول مسرور ہو گا۔ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ اُس سواری کو بول دے کہ ہم سے مال حاصل کرو۔ رسول اللہ کے اصرار سے وہ سواری بول لی گئی۔ اس محل آکر اہل مطالعہ کو احساس ہو گا کہ ہادی اکرم کا اصرار کس لئے ہوا کہ سواری بول ہی لوں گا۔ ہر گاہ کہ ہمد مکرّم کا اس سے سوا مال ساری عمر اسلام اور رسول اللہ کے لئے رہا۔ دراصل وداع مکہ اور اللہ کے لئے دوسرے ملک کے لئے رحلہ اک امراہم اور اعلیٰ مکم ہے۔ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ اس رحلے کے سارے مراحل رسول اللہ کے وسائل ہی سے طے ہوں کہ اللہ کے اس حکم کی ادائیگی ہر طرح سے مکمل ہو۔

اُدھر سارے سردار طے کر رہے معاملے کی رُو سے مسلح ہو کر رسول اکرم کے گھر کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور رسول اللہ کے گھر کو محصور کر کے کھڑے ہوئے کہ کس لمحے سارے سردار مل کر حملہ آور ہوں۔ اللہ کی درگاہ سے ہادی اکرم کو اس امر کی اطلاع دی گئی۔ اُن مکرّم اُٹھے اور علی کرم اللہ کو حکم ہوا کہ اے علی! اللہ کے رسول کو حکم ہوا ہے کہ وہ ہمد مکرّم کو لے کر سوئے معمورہ رسول راہی ہو اور حرم مکہ کو الوداع کہے۔ مکے کے سرداروں کا گروہ گھر کے اُدھر اس ارادے سے کھڑا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو مار ڈالے، اس لئے ہماری رائے ہے کہ مکہ مکرمہ ہی رُکے رہو اور اہل مکہ کے رکھوائے ہوئے اموال ہم سے لے لو۔ مالکوں کو اموال لوٹا دو اور معمورہ رسول اکرم علیہ السلام

لے یہ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی کی توجیہ ہے (محمولی) لے ایک طرف تو دشمنی کا یہ حال ہے کہ جان کے پیاسے ہو رہے ہیں، دوسری طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری پر اتنا کامل بھروسہ ہے کہ اپنی امانتیں اُن کے پاس رکھوائی ہوئی ہیں۔

(محمولی)

سے ملو اور اے علی! ہماری ہر میزدا اور ٹھہ کر سوز ہو۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ سرداروں کے اُلام سے دُور رہو گے۔

علیؑ کرمۃ اللہ کو اس طرح مامور کر کے رسول اللہؐ گھر سے آگے آئے۔ سارے سردار وہاں کھڑے ہوئے۔ طے۔ اللہ کے حکم سے کلامِ الہی کے اک حقہ کا ورد کر کے رسول اللہؐ آگے آئے اور اک مٹھی مٹی لے کر سرداروں کے سر اس سے آلودہ کئے۔ اللہ کے حکم سے سارے سردار حواسِ کم کر دہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے اور رسول اکرمؐ کے حال سے لاعلم رہے اور اس طرح اللہ کا رسول اللہؐ کے اعداء کے سروں کو مٹی سے آلودہ کر کے وہاں سے رواں ہوا۔ وہاں سے رسول اکرمؐ ہمدیم مکہ کے گھر آئے۔ سارا احوال کہا اور وہاں سے گھر کی کھڑکی کی راہ سے ہمدیم مکہ کو ہمراہ لے کر رواں ہوا اور دُکھے دل سے حرمِ مکہ کو الوداع کہا۔

اللہ اللہ! مکے والوں کو وہ رسولِ امم عطا ہوا کہ سارے رسولوں کا امام ہے اور اُسی کے علوم و حکم سے مالا مال ہو کر، اہل اسلام، عالمی سرداروں کے مالک ہوئے۔ مگر وائے مکے کے لاعلموں کی محرومی کہ اُس کو مکے سے دُور کر کے سدا سدا کے لئے علم و ہدٰی سے محروم ہوئے۔ مکے ہی سے وہ کرم کی گھٹا اٹھی اور مکے ہی والے اس گھٹا کے عطا و کرم سے محروم رہے اور عطا و کرم کی اس گھٹا سے مالا مال وہ ہوئے کہ مکہ مکرمہ سے کوسوں دُور ہے۔ اللہ کا کرم کس کے لئے ہے، وہ اُسی کو معلوم ہے۔

سحر ہوئی اور مکے کے سرداروں کے حواس اکٹھے ہوئے۔ اک آدمی کی صدا آئی کہ لوگو! وہاں کس کے لئے کھڑے ہو؟ رسول اللہؐ سرداروں کے سروں کو مٹی سے آلودہ کر کے وہاں سے عرصہ ہوا رواں ہو گئے۔ وہ اطلاع حاسدوں کے لئے اک دھماکہ اور اک دھکا ہو کر لگی۔ بیروں سے مٹی اُڑا کے وہاں سے دُسوائی کو گلے لگا کے

لے آنحضرتؐ کی وہ چادر جو ہرے رنگ کی تھی، حضرت علیؑ اور ٹھہ کر لیٹے۔ (سیرتِ مصطفیٰ)

رواں ہونے اور لوگوں کو صدادی کہ لوگو! دوڑو! کسی طرح رسول اسلام اور اُس کے ہمدم کو لوٹانا لاؤ۔ اگر ہو سکے ہر دو کو مار ڈالو۔ اموال کی طبع دی گئی کہ اگر کوئی رسول اسلام کو مار ڈالے گا۔ وہ مکے والوں سے سو سو اسی مال حاصل کرے گا۔ ہر شوہر کا رے دوڑائے گئے کہ وہ کسی طرح رسول اللہؐ کی راہ روک کر امر اسلام کے آڑے ہوں۔ ہر طرح سے سعی کی گئی کہ وہ کسی طرح رسول اللہؐ کو اس رُحلے سے روک کر کامگار ہوں۔ مگر اللہ کا حکم سدا سے حاوی ہے اور سدا حاوی رہے گا۔ مگر اہوں کے سارے ادا دے مکر و حسد کے سارے دلو لے مٹی ہو کر رہے۔

ہمد مکرّم کی وہ لڑکی کہ رسول اکرمؐ کی عروسِ مطہرہ ہوئی اُس سے مروی ہے کہ ہمد مکرّم کی دوسری لڑکی اسماءؓ رسول اکرمؐ اور ہمد مکرّم کی راہ کے لئے طعام لے کر آئی۔ مسئلہ ہوا کہ طعام کے لئے رستی کہاں سے آئے کہ اُس سے طعام کو محکم کر کے ہمراہ کر لے۔ اسماءؓ اور اُڑھی ہوئی ردا کے دو ٹکڑے کر کے لائی، اک ٹکڑا طعام کے لئے ہوا اور دوسرا ماءِ طاہر کے لئے۔ رسول اکرمؐ صلی اللہ علیہ وسلم اُس کی اس ادا سے مسرور ہوئے اور لاڈ سے اُس کو دو رستی والی ”کہہ کر صدادی۔ اُسی لمحہ سے اس کا اسم ”دورستی“ والی ہوا۔

سہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا - سیرت مصطفیٰ ص ۲۶۶

۲۶ ناشتہ دان باندھنے کے لئے رستی کی ضرورت ہوئی تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بعض روایات کے مطابق اور رضی کے دو ٹکڑے کئے اور بعض کے مطابق کرے باندھے ہوئے ٹپکے کے دو ٹکڑے کئے۔ اُسی دن سے اُن کا نام ”ذات الخاقین“ مشہور ہو گیا۔

(ابھی سعد - سیرت مصطفیٰ ص ۲۶۶)

ہمدِ مکرم کی حوصلہ دہی

ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمدِ مکرم کو ہمراہ لے کر ہمدِ مکرم کے گھر سے
 رواں ہوئے۔ ہمدِ مکرم کو اللہ کے رسول کی ہمراہی کا وہ اکرام ملا کہ وہ اک عرصہ اُس
 کے لئے رُوحِ دل سے دُعا گو رہے۔ اللہ کی درگاہ سے وہ دُعا کا مکار ہوئی۔ اس لئے
 احساس ہوا کہ اللہ کا رسول سارے اعداء کی مکاری اور مسامحی سے دور رہے۔
 گھر سے رواں ہو کر عام سڑک سے ہٹ کر مکہ مکرمہ کے اک کوہِ ساری راہ لی۔ ہمدِ مکرم
 کی وہ ساری راہ اس طرح طے ہوئی کہ گاہ وہ رسول اللہ کے آگے ہو کر رہی ہوئے۔
 اور گاہ دُک گئے کہ اللہ کا رسول آگے ہو۔ ہر ہر گام اُس دلدادہ رسول کو دھڑکا لگا
 رہا کہ ادھر ادھر سے کوئی عدو اکھڑا ہو گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہوا
 کہ اے ہمدِ مکرم! کس طرح کی راہ دہی ہے کہ گاہ آگے ہو اور گاہ دُک گئے کہ آگے
 رہی ہو۔ کہا۔ اے اللہ کے رسول! دل کو احساس ہوا کہ کوئی عدو آگے ٹوہ لگا
 کھڑا ہو گا۔ اس لئے آگے ہو کہ اُس عدو کے وار کو روکوں۔ گاہ دھڑکا ہوا کہ
 کوئی مکہ مکرمہ کی راہ سے آ کر حملہ آور ہو گا۔ اس لئے دُکا رہا کہ اللہ کا رسول آگے ہو۔
 اس طرح ہر ہر گام رسول اکرم کے ارد گرد ہو کر ساری راہ طے کی اور مکہ مکرمہ سے
 دو کوس ادھر کسار کی اک کھوہ کے آگے اکھڑے ہوئے۔ وہاں اک ہمدِ مکرم آگے
 ہوئے اور کہا کہ اے رسول اللہ! مٹھو واول اس کھوہ کا کوڑا کہ کٹ دو کر دوں۔
 اس طرح ہمدِ مکرم رسول اکرم کو لے کر کسار کی اُس کھوہ کو آ رہے کہ اک عرصہ وہاں

لے غارِ ثور کو جاتے وقت حضرت ابو بکرؓ کی بیٹائی کا یہ حال تھا کہ کبھی وہ رسول اللہ کے پیچھے چلتے کبھی آگے
 کبھی دائیں اور کبھی بائیں۔ آنحضرت کے سوال پر یہی وجہ بتائی کہ کبھی مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ دشمن آگے ہو گا کبھی پیچھے
 کبھی دائیں کبھی بائیں :-

مکرم مکرمہ کے اعداء سے دور ہوں۔

مکہ مکرمہ کے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے گلی گلی اور سڑک سڑک گھومے اور مال کی طبع لئے ہوئے سرگرداں رہے کہ کسی طرح رسول اکرم اور اُس کے ہمدرد کو روک کر مال کے مال ہوں۔ اسی طرح کئی لوگ لالچی اور دوسرے اسلحہ لے کر اُس کے گاہ اور کھوہ کے آگے آگئے۔ ہمدرد مکرم کو ڈر لگا کہ گمراہ لوگ اس کھوہ آکر ہم سے آگاہ ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے رسول اللہ! وہ لوگ آگئے۔ لوگوں کو ہمارا حال معلوم ہو گا۔ کہا۔

”دل سے الم کو ڈر رہو۔ اللہ ہمارے ہمراہ ہے۔“

رسول اللہ کا وہ کلمہ کلام الہی کا ساتھ ہے اور اسی طرح ہوا۔ اللہ کی مدد اس طرح ہوئی کہ اک مہتر مکرم کو حکم ہوا کہ وہ اُس کھوہ کے کھلے تھتے کو ڈھک دے اور دو حمام صحرائی وہاں آگئے۔ نیکے دل لے ٹوہ لگائے ہوئے اُدھر آئے۔ اک آدمی کا اصرار ہوا کہ اس کھوہ کو ٹٹولو۔ وہ لوگ وہاں لگے ہوئے ہوں گے، مگر سردار آگے ہوا اور کہا کہ سالہا سال سے وہ کھوہ آدمی سے محترم نہ رہی ہے۔ کوئی حمام صحرائی کسی آدمی کے ہمراہ رہا ہے؟ اُس مکرمی کے گھر کو مطالبہ کرو، وہ گھر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سال مولود کی عمر سے بواجر سے کا ہے۔ اس کلام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حمام صحرائی اور مکرمی سے اللہ کے رسول کی مدد کی گئی ہے۔

لے قرآن کریم نے اس واقعہ کا تذکرہ فرمایا: ﴿لَمَّا تَخِزْنَ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا﴾ غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ (سیرت مصطفیٰ ص ۲۵۷ بحوالہ دلائل بیہقی)۔ لے حمام صحرائی: جھنگلی کبوتر۔ جھنگلی کبوتروں نے وہاں آکر انڈے دے دیئے تھے۔ لے اُن لوگوں میں سے ایک تجربہ کار نے کہا کہ اس غار پر مکرمی کا جال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے۔ :-

رسول اکرم ہمد مکرّم کے ہمراہ اک عرشہ اس کھوہ رہے۔ ہمد مکرّم کے لڑکے کو اول ہی سے حکم رہا کہ وہ کسی طرح اُس کھوہ آئے اور ہم کو مکے والوں کے احوال سے آگاہ کرے۔ وہ اسی طرح وہاں لنگ لٹکا کر آئے اور سارے احوال کی اطلاع دی۔ اسی طرح ہمد مکرّم کے اک راعی عامر کو حکم رہا کہ وہ وہاں آکر دودھ دوہے اور اللہ کے رسول اور اُس کے ہمد کی مدد کرے۔

مصر کا یہ دو عالم صلی اللہ علیٰ رسولہ وسلم اک عرشہ محدود وہاں رُکے رہے اور مالِ کاذب ہادّی اکرم صلی اللہ علیٰ رسولہ وسلم اک سحر کو کھوہ سے آگے آئے اور ہمد مکرّم کے طے کر دہ راہِ دائیں اور ہمد مکرّم کو ہمراہ لے کر وہاں سے رواں ہوئے۔

راہ کے مراحل

علماء سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیٰ رسولہ وسلم، ہمد مکرّم اور ہمد راعی عامر اور اُس راہِ داں کے ہمراہ معمورہ رسول کے ارادے سے رواں ہوئے اور ساحلی راہ سے معمورہ رسول کے لئے راہی ہوئے۔ اہل علم سے مروی ہے کہ کھوہ سے آگے چلے دواغ مکہ اُس سال کے ماہِ سوم کی اول کو ہوا۔ ۵۰

ہمد مکرّم کی لڑکی اسماء سے مروی ہے کہ اگلی سحر کو مکے کا مردار عمر و اُس کے گھر آکر

۱۔ غارِ ثور میں آنحضرت کا قیام تین دن رہا ۵۰ حضرت عبداللہ بن ابی بکر، دن کو مکہ مکرمہ رہتے اور رات کو اگر دن بھر کے حالات سے آنحضرت اور حضرت ابو بکر کو اطلاع دیتے (سیرتِ معظمہ ص ۲۹۳) ۵۱ حضرت ابو بکرؓ کے ایک آزاد کردہ غلام حضرت عامر بن نبیرہ جو سابقینِ اول میں سے ہیں، دن بھر بکریاں چراتے اور رات کو بکریاں لے کر وہاں آ جلتے تاکہ آنحضرت بقدر حاجت دودھ پئ لیں۔ ۵۲ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے سے اک داسے بتائے والے کو اجرت پر لے کر لیا تھا، اُس کا نام عبداللہ بن ابی قحط تھا۔ ۵۳ غارِ ثور سے آنحضرت یکم ربیع الاول کو پیر کے دن روانہ ہوئے۔ (سیرتِ معظمہ ص ۲۹۳ بحوالہ مستدرک) ۵۴

سائل ہوا کہ والد کہاں ہے؟ اسماء آگے آئی اور کہا ”اللہ کو معلوم ہے“ وہ آگے ہوا اور اسماء کو مارا۔

الحاصل گمراہوں کے سردار ہر طرح ساعی ہوئے کہ رسول اکرمؐ کا کوئی حال معلوم ہو، مگر اللہ کے حکم سے محروم رہے۔ ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے ہمدنوں کے ہمراہ راہ کے مراحل طے کر کے سردار اک سرائے آکر رُکے۔ ارادہ ہوا کہ وہاں سے طعام اور دوسرے ماکول مول لے کر، ہمدنوں کو کھلا کر اور کھا کر آگے رواں ہوں۔ سرائے کی مالکہ سے کہا کہ کوئی طعام ہے؟ وہ مالکہ لوگوں کے آگے آئی اور کہا کہ اُس کا آدمی گھر سے دُور ہے اور اُس کا گھر ہر طعام سے محروم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمدنوں کے ہمراہ وہاں رُکے رہے۔ دُور اک رہو کھڑی دکھائی دی۔ کہا کہ وہ کس کی ہے؟ مالکہ کھڑی ہوئی اور کہا کہ ہمارے ہے۔ ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہا کہ اگر رائے ہو اُس کا دودھ دہ لوں۔ وہ مالکہ مسکرائی اور کہا کہ اس دہوم کے دودھ کہاں؟ وہ سارے گلے سے الگ اس لئے کھڑی ہے کہ راہ روی اس کے لئے محال ہے۔ ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ”دہوم“ کے آگے آئے اور اللہ کا کوئی اسم کہہ کر اس سے گھڑوں دودھ دوا۔ سارے لوگ اُس دودھ سے مالا مال ہوئے اور اللہ کے حکم سے گھڑوں دودھ اُس سرائے کی مالکہ کے لئے رہا۔ وہ مالکہ اُس سارے حال کا مطالعہ کر کے کمال مسرور ہوئی۔

اللہ والوں کا وہ کارواں سرائے سے آگے رواں ہوا۔ سرائے کا مالک گھر ٹوٹا۔ گھڑوں دودھ رکھا ہوا ملا۔ مالکہ سے سوال ہوا کہ وہ دودھ کہاں سے ملا؟ کہا کہ اس دودھ کا معاملہ اس طرح ہے کہ اک مرد مکرم کہ اُس کا روئے مسعود اللہ کی

لے وہ اُمّ معبد کا خیمہ تھا۔ یہ دہوم : لاغر بھری۔ بھری کے لئے کوئی متبادل، عربی کے اس لفظ کے سوا نہیں ملا۔ (المنجد) ❦

عطا کردہ دمک سے دمکا ہوا اور اُس کا کلام مٹھائی لئے ہوئے اور ہر کلمہ الگ الگ کہ اُس کے سامع محو کلام ہوں۔ ہمدیوں کے ہمراہ، ہماری سرائے اُکے رُکا۔ اُس کا حال کس طرح کون؟ سر اسرطاہر و مطہر، سادگی کا عادی، سر اور وارھی گہری کالی اور اور رُوئے مسعود ماہِ کامل کی طرح گورا۔ اُس کی ہر آوا، اوسط کا کمال لئے ہوئے لوگوں سے ٹھہر ٹھہر کر کلام کرے اور لوگوں کا دل موہ لے۔ دُہم اُس کے اکرام سے معمور اُس کی ہر آوا کے دلدادہ وہ آئے اور اللہ کا اسم کہہ کر دودھ دوبا اور اللہ کی عطاء سے سارا دودھ ہم کو دے کر راہی ہو گئے۔

سمرائے کاناک سارا حال معلوم کر کے مسرور ہوا اور کہا کہ وہ مردِ کامل ہی ہے کہ مکے کے لوگ ہر سُرُو اُس کے لئے سرگرداں رہے۔ واللہ! اگر اُس مردِ کامل سے کسی طرح بٹوں اُس کے ہمراہ ہوا ہوں۔

اک صدائے لا معلوم

احوالِ رسول اکرمؐ کے ماہر علماء سے مروی ہے کہ ادھر سمرائے کا معاملہ ہوا اور ادھر وادی مکہ مکرمہ کے ادگرداں صدائے گائی گئی۔ سارے اہل مکہ اس صدا کے سامع ہوئے۔ مگر سارے مکے والے لا علم رہے کہ وہ صدا کہاں سے آئی۔ اُس صدائے لا معلوم کا حامل اس طرح ہے۔

۱۔ اُمّ مسند نے اپنے شوہر کے استفسار پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک پر بڑی مؤثر تیر رکی اور رسول اکرمؐ کا پورا نقشہ کھینچ کر دکھ دیا (ابن سعد و سیرت مصلیٰ)۔
۲۔ اُمّ مسند کے شوہر نے کہا کہ اگر میں اُن سے ملتا تو اُن کی صحبت میں رہتا۔ اگر تجھے اس کا موقع ملے تو بھی ایسا ہی کرنا۔ (ابن سعد و سیرت مصلیٰ)

۳۔ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ مکہ مکرمہ میں اُس روز ایک غیبی آواز سنی گئی جو اشعار پڑھ رہی تھی یہاں عربی اشعار نقل کرتا ہوں۔ غیر محفوظ آواز میں جو ترجمہ کیا گیا ہے، اُس کے موازنے سے اس کا صحیح (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

”لوگوں کے مالک، اللہ کا کرم دو ہمدوں کو عطا ہو کہ وہ راہ کی سرائے
 آ کے ٹھہرے، ہر دو راہ ہدی لے کر آئے اور سرائے کی مالک کو
 راہ ہدی مل گئی۔ اُس آدمی کو دل کی مراد ملی کہ وہ اس راہ کے لئے
 محمدؐ کا ہمراہی ہوا۔ اس سرائے کی مالک سے یہوم اور اُس کے
 دودھ کا حال معلوم کرو۔ اگر سوال کرو گے وہ یہوم اس حال کی
 گواہی دے گی۔ وہ اس یہوم کو سرائے والی کو دے گئے کہ
 ہر راہ کو اُس سے دودھ ملے۔“

اک گھوڑے سوار کا معاملہ

اس سے آگے مسطور ہوا کہ مکے والوں سے وہاں کے سرداروں کا وعدہ
 ہوا کہ اگر کوئی آدمی رسول اللہؐ کو مار ڈالے اور اگر محصور کر لائے اُس کو سوتواری
 کے مساوی مال ملے گا۔ اسی لئے مکہ مکرمہ کے طامع لوگ اس کام کے لئے ہر سو
 دوڑے۔ مکہ مکرمہ کے اک آدمی ولید مالک سے مروی ہے کہ اُس سے اک آدمی
 ملا اور اطلاع دی کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ساحلی راہ سے ہمدوں کے
 ہمراہ راہی دکھائی دئے۔ ولید مالک کا ارادہ ہوا کہ وہ گھوڑا دوڑا کر ادھر

(بقیہ حاشیہ ص ۱۰۷ سے آگے) سلف آئے گا اور ترجمے کی خوبی بھی ظاہر ہوگی (الحمد للہ)

جزی اللہ رب الناس خیر جزائہ	دقیقین خلا خیمتی امّ معبد
ہما نزلہا بالہدی فاحمدتہ	فقد فاز من الصلی دقیق محمّد
سلوا اختکم عن شاتہا وانا فہا	فانکھ ان تسلوا الشاقۃ تشہد
فغار روہار ہنالدیہا لحاب	یورودہا فی مصدر ثمود

(ابن سعد: سیرت مصطفیٰ ص ۲۹۸۔ بحوالہ سیرت ابن ہشام، اصابہ وغیرہ) سیرت مصطفیٰ میں دو شعر

اس سے ناظر بھی منقول ہیں (محمولی) لہ سراقہ بن مالک بن حنظلہ

راہی ہوا اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو محصور کر کے مال حاصل کرے۔ اس لئے مکے والوں کو لا علم رکھا کہ اُسے ڈر ہوا کہ اگر کسی اور کو معلوم ہوگا، وہ سعی کر کے اس مال کا حقہ دار ہوگا۔ وہ وہاں سے گھوڑا دوڑا کر راہی ہوا، اور راہ کے مراحل طے کر کے مال کا رسول اکرمؐ کی راہ آگیا۔

ہمدیم مکرم کو دور سے گھوڑے سوار کی گرد دکھائی دی، دل کو ڈر لگا اور رسول اکرمؐ سے کہا کہ ”اے رسول اللہ! کوئی گھوڑے سوار آ رہا ہے، ڈر ہے کہ ہم محصور ہوں گے۔“

ہادئی اکرمؐ کا وہی کلام ہوا کہ اس سے اول کھوہ کے ادھر ہمدیم مکرم سے ہوا۔

”ڈر کو دل سے دور رکھو، اللہ ہمارے ہمراہ ہے۔“

وہ گھوڑے سوار سونے رسول اللہ دوڑا۔ اللہ کے رسولؐ کی دعا ہوئی:

”اَللّٰهُمَّ اَصْرِعْهُ؛ اے اللہ! اس کو گرا دے۔“

اُسی دم اللہ کے حکم سے اُس کے گھوڑے کا اگلا حقہ کڑ کر رہا۔ اُس کو اس حال سے کمال ڈر لگا اور احساس ہوا کہ رسول اللہؐ کی دعا سے اس امر کا رد ہوا ہے۔ گڑا کڑا کر کہا کہ ”ہر دو آدمی اللہ سے دعا کر و کہ اللہ اس الم سے رہا کر دے۔ وعدہ ہوا کہ رہا ہو کر سونے مکہ لوٹوں گا اور دوسرے لوگوں کو اس راہ سے رد کوں گا۔ ہادئی اکرمؐ صلی اللہ علیہ وسلم دعا گو ہوئے۔ اللہ کا حکم ہوا، اسی دم گھوڑا رہا ہوا۔ ولید مالک سے مروی ہے کہ اُسی دم دل کو احساس ہوا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) لا محالہ حادی ہوں گے۔ وہ رسول اکرمؐ کے لئے اموال راہ لاکر کھڑا ہوا کہ اللہ کا رسولؐ اس کو لے لے۔ مگر رسول اکرمؐ اس سے دُور ہے اور

لے میرے مسلمان ہیں ہے کہ آپ نے یہاں بھی وہی فرمایا کہ لَا تَخْزَنَنَّ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ۖ

کہا کہ ”لوگوں سے ہمارے حال کی اطلاع کو روکو“
 ولید مالک وہاں سے لوٹ کر سوٹے مکہ راہی ہوا۔ اس اطلاع کو لے کر
 مکہ مکرمہ سے کئی لوگ اُدھر آئے اور اس گھوڑے سوار سے ملے۔ سارے لوگوں
 سے کہا کہ لوگو! معلوم ہو کہ اس راہ کے ہر موڑ سے آگاہ ہوں اور سارے لوگوں
 سے سوا راہ داں ہوں، اس راہ کی سعی لا حاصل ہے، اس لئے سوٹے مکہ لوٹ
 لو۔ وہ سارے اُس کے ہمراہ مکہ مکرمہ لوٹ گئے اور اس طرح اللہ والوں کا دوا
 آگے رواں ہوا۔

اسلمی سہمی کا اسلم

ولید مالک کی طرح ادراک آدمی اسلمی ساٹھ اور دس سواروں کو ہمراہ لے کر
 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے راہی ہوئے کہ ہر دو اللہ والوں کو مکے والوں
 کے حوالے کر کے مال دار ہوں۔ مگر اُس کے لئے اللہ کا حکم اور ہی طرح ہوا۔
 وہ آئے اور سدا سدا کے لئے سارے گردہ کے ہمراہ رسول اللہ کے محصور اور
 مملوک ہو گئے۔ اللہ کا معاملہ ہر آدمی سے الگ ہی ہے۔ عمر مکرم، ہادی اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم کی ہلاکی کے ارادے سے راہی ہوئے۔ اللہ کے کرم کی اک لہرائی اور
 ساری عمر کے لئے رسول اکرم کے روئے مسعود کے گھائل ہو گئے۔ اُدھر عم سردار
 ساری عمر رسول اللہ کے حامی و مددگار رہے، مگر راہ ہدی سے محروم ہی اللہ کے
 گھر سد ہارے۔ اسلمی کا معاملہ اسی طرح ہوا کہ گھر سے رسول اللہ کی محصور کی
 ارادہ اور مال کی طبع سے دل معمور کئے۔ وہاں آئے، مگر وہاں آکر اُس کے لئے
 اللہ کے کرم کی گھٹا اٹھی اور دل سے ساری عمر کی گراہی، لاعلمی اور طبع کو دھوکہ لوٹی۔

اسلمی مع اس گروہ کے رسول اکرم کی راہ آگئے اور رسول اکرم کے آگے اُکھڑے ہوئے۔ اللہ کے رسول کا سوال ہوا۔

”کس اسم کے مالک ہو؟“

کہا کہ اسلمی ہوں۔

ہمدیم مکرم سے کلام ہوا۔ کہا۔

”اے ہمدیم! ہمارا کام ”سرد“ اور صالح ہوا۔“

اسلمی سے سوال ہوا۔

”کس گروہ سے ہو؟“

کہا۔ ”گروہ اسلم سے۔“

رسول اکرم کا ہمدیم مکرم سے کلام ہوا۔

”ہم سالم رہے۔“

اسلمی سے سوال ہوا۔

”گروہ اسلم کے کس حصے سے ہو؟“

کہا۔ ”اولادِ سہم سے۔“

ہمدیم مکرم سے رسول اللہ کا کلام ہوا۔

”اس کا سہم اس کو ملا۔“ سہم سے مراد ہے حصہ۔ رسول اکرم کے اس کلام کی

مراد ہوتی کہ اسلمی کو اسلام سے حصہ ملا۔

اسلمی سائل ہوا کہ رسول اکرم اور ہمدیم مکرم کا حال معلوم ہو۔ رسول اکرم ہم کلام

ملے اور دو میں کام کا ٹھنڈا ہونا، کام کے ختم ہو جانے یا غراب ہو جانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے مگر

عربی میں ٹھنڈا، کایابی اور خوشی وغیرہ کا استعمال ہے۔ حضرت بریدہ کے نام میں بھی یہ مفہوم پایا جاتا ہے۔

تھ عربی میں سہم کے معنی حصہ یا ٹکڑے کے ہوتے ہیں۔ اس لفظ سے آنحضرت نے اس کو بشارت دی

کہ اس کو اسلام سے حصہ ملے گا۔

ہوئے اور کہا۔

”محمد ہوں اور اللہ کا رسول ہوں“

اُسی دم اسلمی کلمہ اسلام کہہ کر اسلام لائے اور اُس کے ہمراہ وہ ساٹھ اور دس لوگوں کا گروہ اسلام لاکر رسول اکرم کا حامی ہوا اور سارے کے سارے ہادی اکرم کے ہمراہ سوتے معمورہ اسلام راہی ہوئے۔

ہمد اسلمی کی راے ہوئی کہ ہم اسلام والوں کا اک علم ہو کہ ہم اُس علم کو لے کر معمورہ رسول وارد ہوں۔

ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اُس کو عمامہ رسول عطا ہوا کہ وہ اس کو علم کر کے مراد حاصل کرے۔ علماء سے مروی ہے کہ رسول اکرم کی ”معمورہ رسول“ اس طرح آمد ہوئی کہ ہمد اسلمی علم لئے آگے آگے رہے پلہ

ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راہ کے اک مرحلے آئے۔ وہاں رسول اکرم کے ہمد وکد عوام ملے۔ وہ اک دوسرے ملک سے مال لے کر مکہ مکرمہ کے لئے راہی ہوئے۔ رسول اکرم سے آکر کہا کہ اگر حکم ہو سکے والوں کے اموال دے کر معمورہ رسول آکر رسول اللہ سے ملوں۔

حکم ہوا کہ ”ہاں! اسی طرح کرو“

اک حصہ مال کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمدوں کو دے کر مکہ مکرمہ کے لئے راہی ہوئے۔

لے حضرت بریدہ اسلمی نے رائے دی کہ ہمارا ایک علم ہونا چاہیئے۔ آنحضرت نے اپنا عامر بارک نیزے سے باندھ کر ان کو عطا کیا۔ (سیرت مصطفیٰ) لے اس واقعہ کی ساری تفصیل سیرت مصطفیٰ جلد اول سے لی گئی ہے جو بیہقی، زر قافی اور استیعاب کے حوالوں سے منقول ہے۔ (محمد ولی)

لے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جو شام سے مال تجارت لے کر آ رہے تھے راستے میں ملے۔

تاریخ اسلام مولانا اکبر شاہ عفی عنہ (۱۴۲۲ھ)

اللہ کے اسم سے کہ عام رحم والا، کمال رحم والا ہے

حصہ سوم

اعلائے اسلام کا دور

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمورہ رسول آمد
اسلام کے لئے آن مکرّم کے معرکے
لوگ عالم کو رسول اللہ کے مراسلے
پہنچوں اور مددگاروں کی حوصلہ کاری
رسول اللہ کا رحلتہ و دواع
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مسعود

رسول اللہ کی آمد آمد

اُدھر معمورہ رسول کے سارے لوگ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہمدم مکہ مکرمہ سے وہاں آکر رہے اور وہاں کے وہ مددگار کہ اس سے اول اسلام لائے۔ عرصہ سے رُوح و دل سے دُعا گو رہے کہ کسی طرح اللہ کا رسول مکہ مکرمہ سے راہی ہو کر اس گہوارہ اسلام آئے اور اہل اسلام کے دلوں کو مسرور کرے۔

اہل اسلام کو اطلاع ہو گئی کہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمدم مکرمہ کے ہمراہ حرم مکہ کو الوداع کہہ کر وہاں سے راہی ہو گئے۔ اولادِ عمرو کے گاؤں کے لوگ اور دوسرے ہمدم مددگار اکٹھے ہو کر ہر سحر کو گاؤں سے حرہ کے محل آکر کئی کئی گھڑی اُس لگائے کھڑے رہے کہ اسلام کا وہ ماہِ کامل اُس راہ سے طلوع ہو گا۔ مگر اُس لمحہ مسعود سے محروم گھر لوٹے۔ کئی سحر اسی طرح کا معمول رہا۔ ہر سحر کو اللہ کے رسول کے دلدادے اکٹھے ہو کر وہاں کھڑے رہے اور گری و لوٹے سے سرگراں ہو کر مراد سے محروم لوٹے۔ مال کا ماہِ سوم کی دس اور دو کی سحر ہوئی، وہی ماہِ سوم کی دس اور دو کہ اُس کو رسول اکرم کا مولود مسعود ہوا۔ وہی مسعود سحر دہرا کر آئی اور وادیِ اُحد کے سارے امصار کے لوگوں کو ہادیِ کامل عطا ہوا۔ وہی سوموار کا لمحہ مسعود ہے۔ اک امراٹلی کی لکڑا آئی کہ لوگو! وہ رہے لوگوں کے سردار! ”دَم کے دَم وہ اطلاع مسعود سارے لوگوں

لے مدینہ منورہ سے دو میل کے فاصلہ پر قبا میں بنی عمرو بن عوف رہتے تھے۔ یہ اکثر روایات کی دوسے آپ دو شبہ ۱۲ ربیع الاول کو قبا تشریف لائے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ۸ ربیع الاول کو قبا تشریف لائے۔

کی ہو گئی۔ سارا گاؤں اور ارد گرد کا سارا ماحول مدائے ”اللہ احد“ سے معمور ہوا۔

سارے لوگ گھروں سے اکرا کھٹے ہو گئے۔ اک ہما ہی کا سماں ہوا۔ دلوں کی کلی کھل گئی، سارے لوگوں کے دُوسکرا ہٹوں سے کھل گئے۔ سرور اور ولولوں سے وہ حال ہوا کہ وہاں کے لوگ اس طرح کے سرور اور ہما ہی سے سدا محروم ہے۔ سارے لوگوں سے اقل رسول اللہ کے مددگاروں کے گروہ کو ہادی عالم اور ہمد مکرّم کی سواری دکھائی دی۔ اولادِ عمر و اللہ احد کی مدد لگا کر سونے رسولؐ دوڑے۔ ہر آدمی ساعی ہوا کہ وہ ہر اک سے اقل رسول اللہ سے ملے۔

اُدھر لوگ ہمد مکرّم کے آگے آئے۔ دل سے کہا کہ لوگ کس طرح اس امر سے آگاہ ہوں گے کہ اللہ کا رسول کہاں ہے۔ اک ردا لے کر کھڑے ہوئے اور رسول اللہ کے سر مکرّم کو اُس ردا کے سائے سائے رکھا کہ اس طرح لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کا رسول وہ ہے۔ سارے اہل اسلام رسول اللہ کی سواری کے ارد گرد ہوئے اور اس طرح رسول اکرمؐ کی سواری معمورہ رسولؐ سے دو کون اُدھر اولادِ عمر و کے گاؤں آگئی۔

وداع کی گھاٹی سے گاؤں کی لڑکی اور لڑکوں کی صدا آئی۔ وہ رسول اکرمؐ کے لئے اس طرح آمدِ رسولؐ لگا لگا کر مسرور ہوئے۔

”وداع کی گھاٹی سے ہمارے لئے باہِ کامل طلوع ہوا ہے۔ ہم لوگ اللہ کی حمد کے لئے مامور ہوئے کہ ہم ہر دُعا گو کے ہمراہ حمد کر کے

لے اس سے پہلے وضاحت ہو چکی ہے کہ ”مددگار“ کا لفظ ”انصاری“ کے لئے ہے اور ”ہمد“ کا لفظ ”مناہر“ کے لئے (محمودی) لے ”وداع کی گھاٹی“؛ ثنایاتِ وداع۔ مدینے کے وہ نیلے جہاں لوگ باہر سے آنے والوں کا استقبال کرتے تھے۔۔

(محمودی) ❦

مسرور ہوں۔ اے وہ کہ ہمارے لئے اللہ کی عطا ہے۔ اللہ کا حکم
لے کہ ہمارے لئے وار د ہوا ہے۔“

اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اولادِ عمرو کے اس گاؤں آکر رُکے۔
اولادِ عمرو کے سردار ولد ہدم کا گھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ بنوا۔
اور سعد کا گھر اس لئے رہا کہ وہاں آکر اللہ کا رسول دُور دُور سے آئے ہوئے لوگوں
سے ملے۔ کوئی اُدھے ماہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رُکے رہے اور
لوگوں کا اک سلسلہ رہا کہ وہاں آکر لوگ رسول اکرم سے ملے۔

ہمدِ رسول علیٰ کرمہ اللہ کہ رسول اکرم کے حکم سے مکہ مکرمہ ہی رہ گئے سارے
اموال مکے والوں کو لوٹا کر اُسی گاؤں آکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ اس
گاؤں کے لوگوں سے اللہ کے رسول کو آرام ملا۔

اللہ کے گھر کی معماری

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہوئی کہ اس گاؤں کے لوگوں کے لئے
اللہ کا اک گھر ہو کہ لوگ وہاں آکر کھڑے ہوں اور اللہ واحد کی حمد کے لئے اکٹھے
ہوں۔ سارے لوگوں کے ہمراہ رکوع کر کے اور اللہ کے آگے سر ٹکا کر ”حمداً اسلام“
کے حکم کے عامل ہوں۔ اس طرح دورِ اسلام کے اُس اول گھر کی اساس رکھی گئی کہ اُس کے
لئے کلامِ الہی کی گواہی ہوئی کہ ”اللہ کے اس گھر کی اساس اللہ کا ڈر ہے۔“

لہ روایات میں ہے کہ آنحضرت کی آمد پر وہاں کی لڑکیوں نے یہ نغمہ گایا :

طلع البدر علینا من ثنایات الوداع

وَجِبَ اشکر علینا ما دعا اللہ داع

ایہا المبعوث فینا جنت بالامر اللطاع

وہم یخ اسلام جلد اول ص ۱۲۵

۱۔ مسجدِ نبیؐ کی تعمیر جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔

اس طرح وہ اللہ کا گھر ”اللہ کے ڈھ“ کی محکم اساس کے سہارے کھڑا ہوا اور اسی طرح کھڑا ہوا ہے اور ہمارے دور کے لاکھوں لوگوں کا مصلحتی ہے۔ ہادی اکرم اور ہمد و مددگار اس گھر کے معمار ہوئے۔ اس اللہ کے گھر کے لئے کلام اللہ اس طرح وارد ہوا۔

» اقل ہی سے اللہ کے اس گھر کی اساس اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ کا وہ گھر اس کا اہل ہے کہ اللہ کا رسول وہاں آکر کھڑا ہو۔ اللہ کا وہ گھر طاہر لوگوں سے معمور ہے اور طاہر لوگوں سے اللہ مسرور ہوا۔“

اسلامی سال کا سلسلہ

اولادِ عمرو کے گاؤں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ادھر کا سارا عرصہ اسلامی سلسلہ سال سے الگ ہے۔ رسولِ اکرم کی وہاں آمد کے اس امر اہم سے اسلامی سال محدود ہوا۔ کئی علماء کی رائے ہے کہ وہاں آکر رسولِ اکرم کا لوگوں کو حکم ہوا کہ اس سال سے اسلامی سال کا سلسلہ محدود کرو۔ مگر محکم رائے دوسرے علماء کی ہے کہ اسلامی سال کا سلسلہ ہمدِ رسولِ عمرِ مکرم کے حکم سے وصالِ رسول سے کئی سال ادھر ہوا اور اس کے لئے عمرِ مکرم کے حکم سے اس دور کے سرکردہ علماء اکٹھے ہوئے اور ہر طرح کی رائے آئی۔ کسی کی رائے ہوئی کہ اسلامی سالوں کا سلسلہ رسولِ اکرم کے سالِ مولود سے ہو، مگر وہ اس لئے رد ہوا کہ

لہ قرآن کریم کی اس مسجد کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی: تَمَسَّجِدُ اسْمُ عَلٰی النَّقْوٰی اٰمَنٌ اَقْلَ یٰ اٰمَنٌ اِن تَعْمَدُ فِیْہِ فِیْہِ رَجَالٌ یَّحِبُّوْنَ اَنْ یَّتَطَهَّرُوْا وَاَدَّ اللّٰہُ یَحِبُّ الْمُطَهَّرِیْنَ (جس مسجد کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقویٰ پر رکھی گئی، وہ مسجد اس کی پوری سستی ہے کہ آپ اس میں جا کر کھڑے ہوں۔ اس مسجد میں ایسے مرد ہیں جو طہارت اور پاکی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک وہ صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے) سیرت مصطفیٰ ص ۳۰۳۔ ۳۰۴ اس روایت کو حاکم نے اکلیل میں ذکر کیا ہے لیکن یہ روایت معتقل ہے (یعنی معتدل)

”رُوحِ اشتر“ رسول کے لوگوں کا سال رُوحِ اشتر کے مولود کا سال ہے۔ اسلام کے حاکم دوم عمر مکتوم کی رائے سے طے ہوا کہ اسلامی سالوں کا سلسلہ وداعِ مکہ کے سال سے محدود ہو۔ اس لئے کہ وداعِ مکہ کے سال ہی سے اسلام کو اصل علو حاصل ہوا۔ اس لئے اسلامی سالوں کا سلسلہ اسی سال سے محدود ہوا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں آمد ماہِ سوم کو ہوئی اور سال کا ماہِ اول علماء کی رائے سے معمولاً ماہِ محرم ہی رہا۔ اس لئے اسلامی سالوں کے سلسلے کا سال اول، آدھے ماہ کم دس ماہ کا ہوا۔



لے چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول میں قبا تشریف لائے اور عرب کے عام دستور کے مطابق سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کو ہی رکھا گیا۔ اس لئے سنِ ہجری کا وہ پہلا سال ساٹھ نومہ کا ہوا۔ اس لئے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر یہ کہا جائے کہ فلاں واقعہ ہجرت کے دوسرے سال محرم میں پیش آیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہجرت سے دس ماہ بعد وہ واقعہ پیش آیا۔ (محمد ولی)

رسول اکرم کی معمورہ رسول آمد

معمورہ رسول کے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیٰ رسولہ وسلم سے وہاں آکے ملے۔ اور ہادی عالم کے علوم وحکم سے مالا مال ہو کر لوٹے۔ اک عرصہ اسی طرح معمول رہا۔ مال کا معمورہ رسول کے مددگاروں کی دعا کا منگا رہوئی۔ رسول اکرم ص سے وہاں آکر کہا کہ معمورہ رسول کے سارے لوگوں کے دل کی آس ہے کہ اللہ کا رسول سارے ہمدنوں اور مددگاروں کے ہمراہ وہاں آئے اور اس مہر کو حرم رسول کا اکرام ملے۔ اللہ کے حکم سے ارادہ رسول اسی طرح ہوا اور رسول اکرم آمادہ ہوئے کہ وہ معمورہ رسول کے لئے رہا ہی ہوں۔

معمورہ رسول کے لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیٰ رسولہ وسلم کے اس ارادے کی اطلاع ملی۔ ہر ہر محلے کے لوگ گروہ درگروہ آکر وہاں اکٹھے ہو گئے۔ اللہ کا رسول سوا رہا اور سارے لوگ رسول اللہ ص کی سواری کے ارد گرد ہوئے۔ ہر کوئی رُوح و دل کے در واکٹھے آس لگائے رہا کہ اللہ کا رسول اُس کے گھر وارد ہوا اور اس کو رسول اللہ کی ہمسائیگی کا وہ اکرام ملے کہ سارے عالم کے اموال اور اکرام اُس کے آگے گرد۔ اللہ کا رسول اللہ والوں کے ہمراہ اسی طرح رواں رہا۔

اولادِ سالم کے محلے آکر رسول اکرم صلی اللہ علیٰ رسولہ وسلم رک گئے اور وہاں

۱۔ بنی سالم کا محلہ راستے میں پڑتا تھا۔ وہاں آپ نے پہلی نماز جمعہ ادا فرمائی اور نہایت

بلغ خطبہ دیا۔ (سیرت مصطفیٰ ص ۳۱۲) ❖

ڈک کر اُس محلے کے اک محل آکر ”عمادِ اسلام“ کے لئے کھڑے ہوئے۔ لوگوں سے ہم کلام ہوئے۔ اللہ کے رسولؐ کا وہ کلام ہر دل کو مودہ کر رہا اور لوگوں کو اللہ کے احکام اور علوم و اسرار ملے۔

عمادِ اسلام کو ادا کر کے اللہ کا رسولؐ سوار ہوا اور صد ہا لوگ سواری رسولؐ کے گرد ہوئے۔ علماء سے مروی ہے کہ سارا معمورہ رسولؐ، رسول اللہ کی آمد سے دمک اٹھا اور لوگوں کے سرور کا وہ عالم ہوا کہ وہاں کے لوگ اس طرح کے سرور سے لاعلم رہے۔ رسول اللہ کی آمد گائی گئی۔

”وداع کی گھاٹی سے ہمارے لئے ماہِ کامل طلوع ہوا ہے۔ ہم اللہ کی حمد کے لئے مامور ہوئے کہ سدا اُس کی حمد کر کے مسرور ہوں۔“

اے اللہ کے رسولؐ کہ ہمارے لئے اللہ کے حکم لے کر آئے ہو۔“

اللہ والوں کے دل ولولوں سے معمور ہوئے۔ ہر کسی کے دل کا اصرار ہوا کہ رسول اللہ کی سواری کی لگام لے کر اُس مکرّم و مسعود سوار کو گھر لے آئے۔ ہر محلے کے لوگ اسی طرح ساعی رہے کہ اللہ کا رسولؐ وہاں وارد ہو۔ مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو حکم ہوا کہ ”دَعَوْهَا“ اس سواری سے الگ رہو، اس لئے کہ رسولؐ کی سواری اللہ کے حکم سے مامور ہے۔ کہاں آکے رُکے گی۔ اس کا علم اللہ ہی کو ہے اور وہی محل اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہوگا۔

اس اطلاع سے مددگاروں کے دل دھڑک اُٹھے۔ سواری رسولؐ کا ہر ہر گام اللہ والوں کے دل سے اُٹھی ہوئی دُعاؤں اور دلوں کے ولولوں سے گہرا ہوا اُٹھا۔

ﷺ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”دَعَوْهَا فَاتَّخَذَهَا مَمْرًا“، اس کو چھوڑ دو، یہ منجانب اللہ مامور ہے۔ (حوائہ بالا) :-

ہر کسی کو اُس ہوئی کہ رسول اللہ کی ہمسائیگی کا اکرام اُس کو ملے گا۔ مگر سوارٹی رسول اس طرح رواں رہی کہ کسی معلوم کہ وہ رحم و کرم کی گھٹا کس کے گھر کے لئے رواں ہے۔

مالِ کار اللہ کا حکم مکمل ہوا اور سوارٹی رسول رک گئی۔ مگر کہاں؟ اولاد مالک کے محلے کے اُس حصے آکر رک گئی کہ وہ حصہ والد کے سائے سے محروم دو لڑکوں کی ملک رہا۔

رسول اکرم کا گھر

سوارٹی رسول دو لڑکوں کے اُس حصے آکر رک گئی، اُس حصے سے ملا ہوا ایک مددگار رسول کا گھر، رسول اللہ کی ورود گاہ اور آرام گاہ ہوا۔ اُس مددگار کے اُس گھر کے لئے علماء سے اک اہم معاملہ مروی ہے۔ اُس معاملے کی رو سے وہ گھر صد ہا سال سے رسول اللہ ہی کا رہا۔ اس لئے کہ اُس گھر کی معاری اک حاکم صالح کے حکم سے ہوئی اور اسی ارادے سے ہوئی کہ وہاں اللہ کے حکم سے اللہ کا اک رسول آکے ٹھہرے گا۔ اس گھر کا سارا حال علمائے کرام سے اس طرح مروی ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے صد ہا سال اُدھر اک

لے یہ محدث بنی بنی اور بنی مالک کے ناموں سے مشہور تھا۔ بنی بنی وہی محلہ ہے جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ مکرمہ کے ساتھ اپنے ماموں وغیرہ کے یہاں بچپن میں رہے تھے۔ (سیرت مصطفیٰ ص ۳۸) وہ قطعہ زمین دو یتیم لڑکوں کی ملک تھا، جن کے نام سہل اور سہیل تھے۔ ۳۹ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آپ نے قیام فرمایا۔

ہمسائے ملک کا اک حاکم صالح و ادنیٰ اُحد کے اس مصرِ آکر رُکا۔ دو سو اور دو سو سو سیوی
 وحی کے ماہر علماء کا گروہ اُس کے ہمراہ رہا۔ وہ سارے لوگ اس مصرِ آکر رُکے۔ اُس
 مصر کے احوال سے علمائے وحی کو کئی امور معلوم ہوئے۔ اُس حاکم صالح سے کہا کہ اگر
 حاکم کی رائے ہو، ہم علماء کا گروہ اسی مصر کو گھر کر کے رہے۔ حاکم صالح کا سوال ہوا
 کہ علماء کی وہ رائے کس لئے ہوئی؟ علماء اس حاکم سے اس طرح ہم کلام ہوئے۔

”ہم کو اللہ کے رسولوں کی وحی سے معلوم ہوا کہ اللہ کا اک رسول سارے
 رسولوں کے سلسلے کے لئے مہر ہو کر آئے گا۔ اُس کا اسم محمدؐ ہو گا اور
 کسی دور کے مصر سے آکر وہ اس مصر ٹھہرے گا۔“

اس حال کو معلوم کر کے حاکم کی رائے ہوئی کہ سارے علماء کا گروہ اسی مصر
 ٹھہرے اور حکم ہوا کہ ہر عالم کو وہاں اک گھر ملے۔ سارے گروں سے الگ اک گھر،
 رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وہاں اک عالم کو عطا ہوا اور عالم سے
 کہا کہ وہ گھر اللہ کے اس رسول کے لئے ہے کہ وہ وہاں آکر اس گھر کو آرام گاہ
 کر کے رہے اور اک مراسلہ لکھ کر اُس عالم کے حوالے ہوا۔ حاکم کا وہ مراسلہ رسولِ اکرم
 کے لئے مسطور ہوا۔ اس مراسلے کا اردو ماہصل اس طرح ہے۔

”مدگواہ ہوا ہوں کہ محمد و احمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کا رسول ہے
 اگر اس حاکم کی عمر کو طول ہوا اور رسول اللہ کا دور اس کو ملا، لا محالہ
 اللہ کے اس رسول کا مددگار ہوں گا اور اُس کے اعدائے معرکہ آرا۔“

لے۔ یمن کا بادشاہ تیج ایک مرتبہ مدینہ منورہ آکر ٹھہرا۔ چار سو تورات کے عالم اُس کے ہمراہ تھے۔
 علمائے یہود نے بتایا کہ یہ شہر نبی آخر الزمان کا دارالہجرت ہو گا۔ اس نے تمام علماء کے لیے مکان
 بنوائے اور ایک مکان آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے تیار کرایا اور ایک خط لکھ کر
 اُس عالم کو دیا۔ حضرت ابو ایوب کا مکان وہی مکان تھا۔ ب۔

ہوں گا اور اُس کے دل سے ہرالم کو دور کر دیں گا۔“

ملاء کی رائے ہے کہ وہ مددگار رسول کہ اس کا گھر رسول اللہ کی آرامگاہ ہوا، دراصل اُسی عالم کی اولاد سے ہے اور وہ گھر رسول اکرمؐ کا وہی گھر ہے کہ صد ہا سال اُدھر اُس حاکم سے رسول اللہ کے لئے اُس عالم کو عطا ہوا۔ (واللہ اعلم)

الحاصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اُس گھر آکر رہے اور وہ مددگار رسول اللہ کے اس کرم اور عطاء سے کمال مسرور ہوئے کہ اللہ کے حکم سے اُس کو رسول اللہ کی ہمسائی عطا ہوئی۔

دور دور کے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اُس گھر آکر ملے اور کلام الہی کے سامع ہوئے۔ اسی ماہ وہاں کے کئی لوگ اسلام لائے۔

معمورہ رسول کے لوگ

صد ہا سال سے دو طرح کے لوگ معمورہ رسول رہے۔ اول وہ گروہ کہ وہاں صد ہا سال سے گھر کر کے رہا اور اسلام لا کر رسول اللہ کے مددگاروں کا گروہ ہوا۔ دوسرا گروہ اسرائیلی لوگوں کا رہا۔

اس گروہ کے لوگ سود کی کمائی کھا کھا کے مالدار ہو گئے اور مالدار کی رُند سے وہاں

لے تبیح کے خط کے الفاظ یہ ہیں :-

رسول من اللہ یاری التسم	شهدت علی احمد اقلہ
لکننت وزیر آلہ قبت عمہ	فلو حد عمری الخ غیرہ
وفرحت عن حدہم کل غتہ	وجاہدت بالتیغ اعدائہ

(سیرت مصطفیٰ ص ۳۱۳ - بحوالہ وفاء الوفا)

کے دوسرے لوگوں کے امور کے سردار ہوئے۔ اس گروہ کے لوگوں کو علماء سے معلوم رہا کہ وہ دور آگاہ ہے کہ اہل عالم کو اک اللہ کا رسول عطا ہوگا۔ اُس رسول کے لئے اگلے رسولوں کو وحی کی گئی، مگر اس گروہ کو اصرار رہا کہ وہ رسول موعود اسرائیلی گروہ سے ہوگا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمورہ رسول آمد ہوئی۔ اس گروہ کے سرکردہ علماء کی رائے ہوئی کہ وہ رسول اللہ ص سے مل کر اور اُس کے احوال کا مطالعہ کر کے آگاہ ہوں کہ اللہ کا وہ رسول وہی رسول موعود ہے کہ اُس کے لئے اللہ کے رسولوں کو وحی سے اطلاع دی گئی۔

اسرائیلی علماء کی آمد

مجھے مسطور ہوا کہ اسرائیلی علماء کو مکمل علم رہا کہ اک رسول اُمم وادی مکہ سے آٹھے گا اور اُس رسول کے دوسرے کئی احوال علماء کو معلوم رہے اور معمورہ رسول کے دوسرے لوگوں کو وہ سارے احوال اسرائیلی علماء سے معلوم ہوئے۔ رسول اکرمؐ کی معمورہ رسول آمد ہوئی۔ دوسرے لوگوں کی طرح اس گروہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اللہ کے رسول سے مل کر اُس کے اصلی احوال سے آگاہ ہو اور اُس گروہ کی راہ عمل طے ہو۔ اس لئے اس گروہ کے سرکردہ لوگ ”المدبر اُس“ آکر اکٹھے ہوئے اور طے ہوا کہ رسول اللہ ص سے اس طرح کے سوال ہوں کہ اُس کا حال اللہ کے رسول ہی کو معلوم ہو۔

اس طرح وہ گروہ اکٹھا ہو کر رسول اکرمؐ سے ملا اور ہر طرح کے سوال کر کے

آگاہ ہوا کہ وہی رسول موعود ہے کہ اس کا حال وحی کے واسطے سے اللہ کے رسولوں کو معلوم ہوا۔ مگر دل کا وہ دوسوہ اور حسد حاوی رہا کہ وہ رسول موعود اسی گروہ سے ہوگا۔ ہاں مگر وہ لوگ کہ اللہ کے گھر سے راہ ہدیٰ اور اسلام کا اکرام لکھا کر لائے۔ رسول اللہ سے مل کر اُسی دم دل سے گواہ ہوئے کہ وہی اللہ کا اصل رسول ہے اور اسلام لائے اور وہ لوگ کہ اللہ کے گھر سے محرومی لکھا کر لائے، اسلام سے محروم ہوئے اور رسول اکرمؐ کے حاسد اور عدا ہو گئے۔

علماء سے اک حال اس طرح مسطور ہوا ہے کہ اس گروہ کے سردار کا ولد اُمّ اَوَّل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور رسول اللہ کے کلام سے مسرور ہو کر لوٹا اور لوگوں سے کہا۔

» لوگو! آگاہ ہو رہو کہ لا محالہ وہ اللہ کا وہی رسول ہے کہ سالہا سال سے ہم اُس کے حال سے آگاہ رہے اور اُس کے لئے اللہ سے دعا گو رہے، اس لئے اے لوگو! اسلام لے آؤ۔“

اس گروہ کا سردار اس امر سے کھول اٹھا اور سارے گروہ کو اُس رائے سے دُور رکھا۔

اسی طرح اک اور حال علماء سے اس طرح مردی ہے کہ اک عالم لوگوں کے آگے آکر مہر ہوا کہ اُس کو رسول اکرمؐ سے ملاؤ۔ تو اُس کو لے کر رسول اکرمؐ کے آگے آئے۔ وہ سائل ہوا کہ اللہ کا کوئی کلام ہمارے آگے کہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

لے جی بنی بنی، یسویوں کا سردار تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن اور کینہ ور آدمی تھا۔ اُس کا بھائی ابویاسر آپؐ کی خدمت میں آیا۔ (سیرت مصطفیٰ ص ۱۷) جی بنی بنی نے قوم کو اسلام لانے سے روکا۔

وحوالہ بالا، ۱۵۵

و سلم سے کلامِ الہی کا سامع ہوا۔ کلام کو سموع کر کے اسی دم گواہی دی کہ واللہ! وہ کلام اُسی طرح کا ہے کہ اللہ کے رسول موسیٰ (سلام اللہ علی روحہ) کے لئے وارد ہوا۔

الحاصل اس گروہ کے کئی لوگ اسلام لائے۔ مگر گروہ کے دوسرے لوگ اُسی طرح حسد و ہوس کی راہ لگے رہے۔ ولد سلام اسی گروہ کا اک عالم رسول اکرمؐ سے مل کر اسلام کا حامی ہوا اور اللہ کے کرم سے رسول اللہ کا مددگار ہوا اور اُس کی مساعی سے اُس کے سارے گھروالے اسلام لائے۔

حرمِ رسولؐ کی معاشی

اُسے منظور ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اُس محلِ آکر رکے کہ وہ والد کے سامنے سے محروم ڈولڑکوں کی ملک رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہوئی کہ وہ حقہ مول لے کر وہاں اللہ کے گھر اور حرمِ رسول ص کی معموری کا کام ہو۔ اس لئے اُس ہمدم سے کہ رسول اللہ کے ہمسائے ہوئے کہا کہ ہم کو دو لڑکوں سے ملاؤ۔ دو لڑکوں کے ولی مع لڑکوں کے وہاں آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لڑکوں کے ولی سے ملے اور کہا کہ اس جھٹے کو اللہ کے گھر کے لئے ہم کو مول دے دو۔ وہ آگے آئے اور کہا کہ اے رسول اللہ! لڑکوں کا ولی ہوں، آمادہ ہوں کہ اس حقہ مملوک کو اللہ کے گھر کے لئے دوں۔ وہاں حرمِ رسول کی اساس رکھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصرار ہوا کہ اس حقہ مملوک کا مال ہم سے وصول کرو۔

لڑکوں کے دل مال کی طمع سے کوسوں دُور رہے۔ وہ آگے آئے اور کہا کہ اے رسول اللہ! ہم سے اس جھٹے کو اللہ کے لئے لے لو کہ وہاں اللہ کا گھر معمور ہو اور اللہ سے ہمارے لئے دُعا کرو۔ مگر اللہ کے رسول کا اصرار ہوا کہ اُس جھٹے کا مال ادا ہو اور اللہ کے حکم سے اُسی طرح ہوا۔ ہمد مکرّم کے مال سے اُس جھٹے کا مال ادا ہوا۔

سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اللہ کے گھر کی اساس رکھی گئی۔ رسول اکرم دُوسرے ہمدیوں اور مددگاروں کے ہمراہ اس حرمِ رسول کے معمار ہوئے۔ ولد علی سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ گارا گھولو۔ وہ سرورِ دل سے آگے آئے اور حرمِ رسول کے لئے گارا گھولا۔ لکڑی کے عمود کھڑے ہوئے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اسی طرح سارے ہمد و مددگار رُوح و دل سے حرمِ رسول کی تعمیر کے کام سے لگے رہے اور مال کا بڑی بکری اور لکڑی سے اللہ کے اُس گھر کی معموری کا کام سادگی سے مکمل ہوا۔ اسلام کا وہ ادارہ اَوّل معمور ہوا کہ وہاں سے اسلامی اطوار و اعمال سے مرتب لوگ ڈھل کر اہل عالم کے آگے آئے۔ وہ حرمِ رسول کہ عطاء و کرم، صلہ رحمی و سلوک، ہمدردی اور رواداری کی اساس وہاں سے اُٹھی۔ اسلامی علوم و احکام کا وہ مدرسہ اَوّل کہ وہاں سے سارے عالم کے حکماء اور علماء کو علومِ الہی کا درس ملا۔ رحم و کرم کی وہ درگاہ کہ محروموں اور مخلوکوں کی وہاں دادرسی ہوئی۔ وہ حرمِ رسول کہ حرمِ مکہ کے علاوہ

۱۔ سند احمد میں حضرت طلح بن علی کی روایت ہے کہ آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں گارا گھولوں۔ میں پھاؤڑا لے کر گارا گھولنے کے لئے کھڑا ہوا۔ چھ کچی اینٹیں مسجد نبوی کی تعمیر کے لئے بنائی گئیں اور کجور کے تنوں سے اُس کے ستون بنائے گئے اور درختوں کی شاخوں اور پتوں سے بہت تیار کی گئی۔ ب۔ (سیرت مصطفیٰ)

دوسرا حرم مکرم ہے اور وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی آرام گاہ کا حامل ہے۔

وہ سادہ اعصرہ کہ حرم رسول کی معماری کا کام ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اُسی مددگار رسول کے گھر ٹھہرے رہے۔ معمورہ حرم رسول کے کام کو مکمل کر کے ہمدموں اور مددگاروں کی رائے ہوئی کہ اللہ کے رسول کے لئے حرم رسول سے ملا کر کئی کمرے معمور ہوں کہ وہاں رسول اکرم کے گھر والے اگر رسول اللہ کے ہمراہ ہوں۔ اس طرح دو کمرے اول اول معمور ہوئے۔ اس کام کو مکمل کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اُس مددگار کے گھر سے اُٹھ کر وہاں آ گئے۔ اُس مددگار رسول کے گھر رسول اللہ کوئی اک سال سے اک ماہ کم کا عرصہ ٹھہرے۔

اسی سال حرم رسول کی معموری سے کئی ماہ ادھر رسول اکرم کے دو ہمدم رسول اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ گئے اور وہاں سے رسول اکرم کے دوسرے گھر والوں کو لے کر معمورہ رسول آ گئے۔

ہمدموں سے عمدہ سلوک کا معاہدہ

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سادے ہمدم کہ رسول اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ کو الوداع کہہ کر معمورہ رسول آ گئے۔ سارے اموال و املاک مکہ مکرمہ ہی رہ گئے۔ اس لئے مالی طور سے سادے ہمدموں کا حال گراں ہوا۔ اللہ والوں کا وہ گروہ

لے مسجد نبوی سے متصل ازواج مطہرات کے حجرے تعمیر کئے گئے اور تمام ازواج انہی گروہ میں رہیں۔

دیرت مصطفیٰ (۳۲) حضرت ابوالیب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کل قیام گیارہ مہینے اور چند دن ہوا۔ (تاریخ اسلام ج اول ص ۱۷۸)

لے عقدِ مواخات

کہ معاد کے لئے مال سے محروم ہوا۔ آلِ اولاد سے دُور ہو کر اس مصر آ رہا اور
 اللہ اور اُس کے رسول کے لئے ہر آرام سے دُور ہوا۔ رسولِ اکرمؐ کو اس اللہ والے
 گروہ کے سارے حال کی اطلاع نہی۔ اس لئے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 کا ارادہ ہوا کہ کوئی معاملہ اس طرح کا ہو کہ معمورہ رسول نہ کر ہمدموں کو سہارا
 ملے۔ اُدھر معمورہ رسول کے مددگاروں کے لئے احساس ہوا کہ مکہ مکرمہ سے ہمدموں
 کی آمد سے مددگاروں کے لئے مالی مسائل کھڑے ہوں گے۔ اس لئے حکم ہوا کہ
 سارے ہمدم و مددگار اکٹھے ہوں۔ وہ سارے لوگ رسول اللہ کے حکم سے اک
 ہڈم کے گھر اکٹھے ہو گئے۔ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اُٹھے اور سارے
 لوگوں سے ہمکلام ہوئے۔ کہا کہ اے لوگو! اللہ واحد ہے اور اسلام اللہ کی
 دکھائی ہوئی راہ ہے۔ اے لوگو! مکے سے آئے ہوئے مسلم، گھروں سے اور
 مال و املاک سے دُور ہوئے۔ اس لئے اللہ کے رسول کی رائے ہے کہ ہر مددگار
 اک ہمدم کو گھر لے آئے اور اُس سے والد کے لڑکے کی طرح عمدہ سلوک کرے۔
 اک اک مددگار اور اک اک ہمدم رسول اللہ کے آگے آئے اور ہر دو کو اک دوسرے
 سے عمدہ سلوک، ہمدردی اور رواداری کا حکم ہوا۔

رسول اللہ کے مددگار رسولِ اکرمؐ کے اس حکم سلوک سے کمال سرور ہوئے اور
 ہمدموں کے لئے دلوں کے در وا کئے۔ ہر مددگار کو رسول اللہ کے حکم سے اک الگ سا
 ملا۔ وہ اُس کا ہر طرح سے ہمدرد اور دلدادہ ہوا۔ مددگار رسول ہمدموں کے ہمراہ
 گھر آئے اور سارے مال و املاک کے دو حصے کر کے اک حصہ کی ملک اُس ہمدم کی
 کر دی۔

۱۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر اجتماع ہوا۔ اُس وقت اُن کی عمر دس سال تھی۔
 (سیرت النبی ج اول صفحہ ۲۷۶)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگاروں کا، رسول اللہ کے ہمدوں سے وہ اسلامی سلوک اور ہمدردی اور رواداری کا معاملہ ہوا کہ سارے عالم کے احوال کا مطالعہ کر لو، کسی اور ملک اور گروہ کا اس طرح کا معاملہ ہوا ہو اک امر محال ہے۔ ہر مال اور ملک کا معاملہ اسی طرح طے ہوا کہ آدھا مال مددگار رسول کا اور آدھا ہمدم کا۔ اسلامی سلوک کی وہ گروہ اس طرح محکم ہوئی کہ اگر کسی مددگار کا وصال ہوا اس کا ہمدم اُس کے مال کا حصہ وار ہوا۔

اس معاملہ ہمدردی و رواداری سے معمورہ رسول کا سارا ماحول، ہمدردی اور دلدادہ صلی رحمی و سلوک کا گہوارہ ہوا۔ اُدھر سارے ہمدم، مددگاروں کے انعام اور دلدادہ کے لئے ساعی ہوئے اور ہر کام مددگاروں کے حامی رہے۔ اس طرح رسول اکرم کے حکم سے ہمدموں کے گھروں سے دوری اور وسائل کی کمی کا مسئلہ کمال عمدگی سے حل ہوا۔

رسول اکرم کا وہاں کے لوگوں سے معاہدہ

گو سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کے حسد اور ہٹ دھرمی سے دُور ہو کر معمورہ رسول آگئے۔ مگر وہاں اگر احساس ہوا کہ معمورہ رسول کے وہ امر لئی گروہ کہ صد ہا سال سے وہاں رہے۔ اسلام اور اہل اسلام کے حاسد ہو گئے۔ دُوسرے مکے والوں کے وہ لوگ حامی رہے۔ اس لئے احساس ہوا کہ مکے والے اُس بیوائی کے

۱۔ یہ رشتہ بالکل حقیقی رشتہ بن گیا تھا۔ اگر کسی انصاری کا انتقال ہوتا تو اُس کی جائداد اور مال مہاجرین کو ملتا تھا۔ بعد میں وراثت کے احکام نافذ ہوئے اور یہ سلسلہ وراثت ختم ہوا۔ ۲۔ یہ معاہدہ میثاقی مدینہ کے نام سے مشہور ہے اور ایک اہم سیاسی دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے۔

لئے اسلام سے معرکہ آزاد ہوں گے اور معمورہ رسولؐ کے گروہ اگر ملے والوں کے حامی ہو گئے۔ اہل اسلام کے لئے اک مسئلہ کھڑا ہو گا۔

اس لئے وداعِ مکہ کے سالِ اول ہی دوسرا اہم کام کہ رسول اکرمؐ کے حکم سے ہوا۔ وہ اک معاہدہ ہے کہ معمورہ اسلام اور ادگرہ کے سارے گروہوں سے ہوا۔

اس معاہدہ سے اس طرح کے اصول طے ہوئے۔

۱۔ اگر کوئی معمورہ رسولؐ آکر حملہ آور ہو گا، سارے گروہ مل کر اس معاہدے کی رُو سے اُس عدو سے معرکہ آرا ہوں گے۔

۲۔ اگر کسی عدو سے کوئی صلح کا معاملہ ہو گا، سارے معاہدہ گروہ اس صلح کے عامل ہوں گے۔

۳۔ ”مالِ دم“ کی ادائیگی کے سارے اصول وہی ہوں گے کہ وہاں عرصہ سے رہے اور ”مالِ دم“ اُسی طرح ادا ہو گا۔

۴۔ اگر کسی گروہ کی لڑائی اُس کے کسی عدو سے ہو گی، دوسرے معاہدہ گروہ اُس کے حامی ہوں گے۔

۵۔ ہر گروہ اس امر سے دور رہے گا کہ وہ مکہ کے گمراہوں سے کسی طرح کی ہمدردی کا معاملہ کرے۔

۶۔ ہر گروہ اس امر کا مالک ہو گا کہ وہ کسی مسک کا عامل ہو۔ دوسرے گروہ اُس کے ملے کہ وہ مسک سے الگ ہوں گے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور مساعی سے معاہدے کے وہ سارے

لے یہی نون ہما کا جو طریقہ پہلے سے چلا آ رہا تھا وہی بدستور باقی رہے گا کہ ہر گروہ اپنے آدمی کا فدیہ اور خون بہا ادا کرے گا۔ یہ مذہبی معاملات ہیں ہر گروہ آزاد ہو گا۔ (سیرت النبی ص ۲۸۵ جلد ۱، صیرت مصطفیٰ واضح السیر وغیرہ) ❦

امداد ملے ہوئے اور گروہوں کے سرداروں سے اس معاہدہ کے لئے گواہی لی گئی۔ اس طرح اک اور اہم مسئلہ معمورہ رسول کے لئے کاٹے ہوا اور وہ اک دوسرے کی لڑائی سے دور ہونے اور معمورہ رسول کا ماحول اسلامی عمل کے لئے ہموار ہوا۔

دوابع مکہ کے سال اول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری مساعی کا محور اس امر کا احساس رہا کہ معمورہ رسول کا سارا ماحول، اسلامی اطوار و اعمال، صلح و سادگی اور اک دوسرے کی ہمدردی و مددگاری کا عمدہ گھر ہو اور وہاں کے سارے لوگ عمدہ اطوار و اعمال کے مالک ہوں۔ دور دور کے لوگوں کو معلوم ہو کہ اس ملک اور اس دور کے سارے مسائل کا حل اسلام ہی ہے۔ اس لئے معمورہ رسولؐ کے لوگوں سے معاہدہ کر کے رائے ہوئی کہ اگر گرد کے لوگ اس معاہدے کے عامل ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امر کے لئے دوسرے گروہوں کے امصار کے لئے راہی ہونے کہ وہاں کے لوگ اس معاہدے کے حامی ہوں اور اس طرح کئی گروہ اس معاہدے کے حامی ہو گئے۔

مکاروں کا گروہ

آگے مسطور ہوا کہ معمورہ رسول کے دواہم گروہ اوتس اور اس کا عدد گروہ اک دوسرے کے عدد ہے، ولیہ رسول وہاں کے لوگوں کا سردار رہا اور رسول اکرمؐ کی اُمد سے اُدھر اس کو اس رہی کہ وہ معمورہ رسول کا سردار ہو گا اور سارے لوگ

لے آنحضرتؐ نے اس مقصد کے لئے مکرر امداد مدینہ منورہ کے درمیان قبائل کی بیسیوں کا دورہ کیا اور بنی حمزہ بن بحر اس معاہدے میں شریک ہوئے۔ اسی سفر میں آپؐ یثرب اور ذی القعدہ بھی تشریف لے گئے۔ بنو مدیج بھی آپؐ ہی کی کوششوں سے اس معاہدے میں شریک ہوئے۔

یہ منافقین کا گروہ: قرآن کریم میں اس گروہ کا تفصیلی حال مذکور ہے۔

یہ ولیہ رسول: یعنی عبداللہ بن ابی بن سلول :-

اُس کی سرداری کے لئے آمادہ ہوئے۔ مگر معمودہ رسول کے مددگار اسلام لائے اور رسول اکرمؐ کے حامی ہوئے اور رسول اکرمؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سلسلہ ہوا۔ اُس سے ولد سلول کی سرداری کا معاملہ کھٹا ہوا اور وہ سرداری سے محروم ہو کر سلول ہوا۔ اہل اسلام اور رسول اکرمؐ کے لئے اُس کا دل حد سے معمور ہوا۔ وہاں کے ہر دو گروہ کے وہ لوگ کہ اسلام سے دُور رہے، ولد سلول کے ہمراہ ہو گئے اور دل سے اہل اسلام اور سرورِ عالم کے عدو ہوئے۔ مگر اس گروہ کے حد اور ہٹ دھرمی سے اہل اسلام اس لئے لاعلم رہے کہ سارا گروہ منکادی کر کے رسول اکرمؐ کے آگے اسلام کا حامی ہوا اور کہا کہ ہم اسلام لائے اور اللہ واحد کے ملوک ہوئے۔ مگر دل سے اسلام سے دُور رہے اور اہل اسلام سے الگ، اکٹھے ہو کر اہل اسلام کی رسوائی کے لئے سعی ہوئے۔ کلامِ الہی سے اس گروہ کے لئے دائمی آگ کے الم کی دھمکی وارد ہوئی۔

اس گروہ کے اسی مکر کی دُور سے وہ سارا گروہ ”مکاروں کے گروہ“ کے اسم سے موسوم ہوا۔ وہ گروہ سارا عرصہ اہل اسلام کا عبود ہا اور ہر ہر کام اسلام کی راہ کی رکاوٹ ہو کے رہا۔

اس سال کے دوسرے احوال

وداعِ مکہ کے سال اقلِ مسطورہ امور کے علاوہ اور کئی امور ہوئے۔ رسول اکرمؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے دواہم مددگاروں کا وصال ہوا۔ اول مددگار رسول ولد ہدم اللہ کے گھر کو سدھارے۔ ولد ہدم رسول اللہ کے وہی مددگار رہے کہ مکہ مکرمہ

لے حیرت کثوم بن ہدم جن کے مکان پر قبائیں رسول اکرمؐ مقیم رہے ❦

سے آکر رسول اکرم اولا وعمرہ کے گاؤں اول اسی مددگاہ کے گھر رہے۔ دوسرے مددگاہ السعد کہ مکہ مکرمہ آکر دوسرے لوگوں کے ہمراہ اول اسلام لائے اور رسول اکرم کے حکم سے سارے گروہ کے معلم اور دوسرے امور کے ولی ہو کر رہے۔ اسی سال مکہ مکرمہ کے گراہوں کے دوسرے گروہ لوگ باکرا رہا ہی ہوئے۔ اک عامس ولد وائل اور اک دوسرا سردار۔ وہ ہر دو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سدا عدد ہو کر رہے۔

وداع مکہ کا سال اول اس دوسرے اہم ہوا کہ اس سال کا آٹھواں ماہ ہوا کہ ہم دم مکہ کی لڑکی اور سارے اہل اسلام کی ماں، رسول اللہ کی دلدادہ عروس مطہرہ ہو کر رسول اللہ کے گھرائی۔ اسی سال معمورہ رسول کے اک مرد صالح صرمہ اسلام لاکر رسول اللہ کے مددگار ہوئے۔

مددگار صرمہ سدا سے اللہ واحد کے دلدادہ رہے۔ مادی وسائل سے سدا دور رہے اور اللہ واحد کی حمد و دعا کے لئے اک کوٹھڑی کو گھر کر کے رہے اور اللہ کی عطا سے ماہر کلام ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا علم ہوا اور اسلام لاکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہوئے۔ رسول اکرم کی مدح کے لئے صرمہ کا عمدہ کلام مروی ہے۔ اُس کے کلام کے اک حصے کا ماحصل اس طرح ہے:-

۱۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عقبہ اولیٰ میں مسلمان ہوئے اور بنی النجار کے نقیب ہوئے۔ (سیرت معظمہ ج ۱ ص ۲۵۶)

۲۔ حضرت صرمہ بن ابی اسد رضی اللہ عنہ، یہ شروع سے توحید کے دلدادہ تھے۔ ہمیشہ موٹے کپڑے پہنتے اور عبادت کے لئے ایک کوٹھڑی بنا کر رہتے تھے۔ وہاں کے بڑے اچھے شاعر تھے۔ طوالت کے غوغ سے یہاں اشعار نقل نہیں کئے گئے مگر غیر متوجہ تارجمان کے اشعار کے پورے مفہوم کو ظاہر کرتا ہے۔

”رسول اکرمؐ مکہ مکرمہ دس سال سے سوا کا عرصہ رہے اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کی راہ دکھائی۔ رسول اللہؐ کے دل کو اس رہی کہ وہاں کے لوگ اُس کے حامی ہو کر مددگار ہوں گے۔ مگر وہاں کے لوگ عدو ہو گئے اور رسول اکرمؐ وہاں سے راہی ہو کر ہمارے ہاں آ گئے۔ اللہ کا کرم ہوا اور اسلام سارے ملک کو حاوی ہو کے رہا۔

ہمارے لئے رسول اللہؐ اسی طرح کا کلام لائے کہ اللہ کے رسول موعیٰ اور دوسرے رسول لوگوں کے لئے لائے۔ ہمارے ہاں اگر رسول اللہؐ ہر طرح کے ڈر سے دور ہوئے۔ ہمارا سارا مال اللہ کے رسول کا مال ہوا اور ہم مددگاروں کے رُوح و دل اُس کے ہوئے۔ ہم رسول اللہؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اعداء کے عدو ہوئے اور اُس کے ہمدوں کے حامی ہوئے۔“

اک اہم حکیم الہی

وداعِ مکہ کے دوسرے سال اک اہم حکیم الہی وارد ہوا کہ اُس سے اہل اسلام اور رسول اکرمؐ صلی اللہ علیہ وسلم کمال مسرور ہوئے۔ اس حکیم الہی کا حال اس طرح ہے کہ رسول اللہؐ کو اور سارے اہل اسلام کو حکیم الہی رہا کہ وہ عباد اسلام کے لئے ”دار المظہر“ کی سو، دُکر کے کھڑے ہوں۔ وہ سارا عرصہ کہ رسول اللہؐ مکہ مکرمہ رہے۔ رسول اللہؐ اور اہل اسلام اسی حکیم الہی کے عامل رہے۔ مگر وہاں رہ کر اک معمول رہا کہ رسول اکرمؐ اس طرح کھڑے ہوئے کہ ”دار المظہر“ اور ”دار اللہ“ ہر دو آگے ہوں۔

لے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے آنحضرتؐ کا معمول تھا کہ نماز میں اس طرح کھڑے ہوتے کہ بیت المقدس اور بیت اللہ دونوں دُورے مبارک کے سامنے ہوں۔ مدینہ منورہ اگر یہ ممکن نہ رہا۔ (بیت مصطفیٰؐ ج ۱ صفحہ ۳۵) ❦

کے آگے اک سائے دار نکڑا رسول اللہ کے ہمدیوں اور مددگاروں کی اصلاح کردار و عمل کے لئے اور اُسوۂ رسول کے حصول کے لئے طے ہوا۔ عموماً وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہمد و مددگار آئے رہے کہ اس عالم مادی کے ہر آدم سے اور مال و املاک سے محروم رہے اور سارے مادی وسائل کو ٹھکرا کے اور گھراؤ دوسرے آراموں کو ٹھکڑا کر کے وہاں اس لئے آ رہے کہ وہاں رہ کر رسول اکرم ص سے روح و دل کی اصلاح کر کے اسلامی اطوار و اعمال کے حامل ہوں اور اُسوۂ رسول کی ہر ادا کا مطالعہ کر کے اسلام کی روح کے حامل ہوں۔

حصولِ اصلاح کے لئے ہر دکھ سہا، اکل و طعام سے محروم رہ کر سرگراں ہوئے۔ مگر وہ رسول اللہ کے دلدادہ اُسی درگاہِ رسول کے ہو رہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا کہ سارے لوگوں سے اول علومِ الہی کے دلدادہ اس گروہ کی دلداری کر کے مسرور ہوئے۔ اس گروہ کی ساری مساعی کا محور دلی مدعا رہا کہ ہر طرح سے وہ اسلامی اطوار و اعمال کے حامل ہوں۔ اسی لئے اللہ کے کرم سے وہ اللہ والے اُسوۂ رسول کے امرا و حکم کے ماہر اور عالم ہوئے۔ علماء سے مروی ہے کہ اس گروہ کے لوگوں کا عدد کئی کئی سو رہا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس گروہ کے لوگوں کے لئے حمد و اکرام

۱۔ صفحہ معنی عربی میں سائے دار سببان کے آتے ہیں، تحویل قبلہ کے بعد جب مسجد نبوی کا رُخ تبدیل ہو کر بیت اللہ کی طرف ہو گیا تو قبلہ اول کی دیوار اور اُس کے نعل جبکہ ان فقراء اور غرباء کے لئے چوڑی گئی جی کا کوئی ٹھکانہ اور گھرباد نہیں تھا۔ ۱۰۔ انہوں نے اپنے آپ کو آنحضرت کے قول، فعل اور عمل کے لئے وقت کر دیا تھا اس لئے صفحہ اسلام کی سب سے پہلی خانقاہ تھی جہاں اخلاق و اعمال کی عملی تربیت دی جاتی تھی

۲۔ اصحاب صفہ کی تعداد بعض اوقات چار سو تک پہنچی ہے۔ (سیرت مصطفیٰ ج ۱ ص ۳۶۲) ۳۔

سے معمور کلام مروی ہے۔ ہندوؤں سے مروی ہے کہ رسول اکرمؐ کو ملائکہ سے اطلاع ملی کہ اس گروہ کے دل اللہ کے ڈر سے معمور رہے۔ گو صوری طور سے اس گروہ کا حال دوسرے لوگوں سے کم رہا۔ مگر اللہ کے ہاں وہ اعلیٰ اکرام اور عہدے کے مالک ہوئے۔

ماہِ صوم کے احکام

وداعِ مکہ کے دوسرے ہی سال اہل اسلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ ماہِ مکرم کے صوم رکھو اور کلامِ الہی وارد ہوا۔ اس کا حاصل اس طرح ہے :-
 وہ ماہِ صوم کہ اُس ماہ کلامِ الہی وحی ہوا۔ وہ لوگوں کے لئے راہِ صِدْق ہے اور راہِ صِدْق کا کھلا علم اس سے حاصل ہوگا اور اسی سے راہِ ہدٰی اور گمراہی کی راہ الگ ہوگی۔ سو اگر کوئی اس ماہ کو حاصل کرے امرِ الہی ہے کہ اُس ماہ کے صوم رکھے ۛ

وَلَدِ عَمْرُو سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معمورہ اسلامؐ نے حکم ہوا کہ دس محرم کا صوم رکھو۔ اس حکمِ الہی کے ورود سے رسول اللہ کا حکم ہوا کہ دس محرم کا صوم اہل اسلام کے لئے امرِ ارادی ہوا۔ اگر ارادہ ہو رکھے، ہاں ماہِ صوم کے لئے سارے اہل اسلام مامور ہوئے۔ اس طرح ماہِ مکرم کے صوم کی

لے قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (سیرتِ معظمیؐ ج ۱ ص ۳۶۵)
 علامہ حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے مروی ہے کہ جب آپؐ مدینہ منورہ تشریف لائے تو مرفعِ عاشورا کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حکم دیا کہ عاشورا کا روزہ رکھنے کا اختیار ہے چاہے روزہ رکھے، چاہے افطار کرے۔ (سیرتِ معظمیؐ بحوالہ صحیح بخاری) ۛ

ماموری اسی سال ہوئی۔

اسی سال علی کرمہ اللہ کی عروسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی سے ہوئی۔

مکاروں کے گروہ کی اک کاروائی

آگے مسطور ہوا کہ مکاروں کے گروہ کے سردار ولید سلول کی سرداری کا معاملہ ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں آمد سے سرد ہوا۔ ادھر رسول اکرم کی مساعی سے معمورہ رسول کے کئی گروہ معاہدہ اقل کی دوسے رسول اکرم کے معاہدہ ہو گئے۔ اس امر سے اُس کا دل کڑھا اور وہ دل سے مساعی ہوا کہ کسی طرح سے رسول اکرم اور اہل اسلام کے اس غلو کو کوئی دھکا لگے۔

ادھر تک کے گمراہوں کو معلوم ہوا کہ رسول اکرم کا سارے گروہوں سے اس طرح کا معاہدہ ہوا ہے۔ رسول اکرم اور اس کے ہمدیوں اور مددگاروں کی اس سرداری سے گمراہوں کے دل دکھی ہوئے اور دکھ اور الم ہی گمراہوں کا اصل حصہ ہے۔ تکتے کے سرداروں کی رائے ہوئی کہ ولید سلول کو اک مراسلہ لکھو کہ وہ مساعی ہو کہ لوگوں کو اس امر کے لئے آمادہ کرے کہ سارے گروہ اکٹھے ہو کہ معمورہ اسلام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے اہل اسلام کو دُور کر کے کامگار ہوں۔

اک آدمی سرداروں کا مراسلہ لے کر ”معمورہ رسول“ وارد ہوا اور ولید سلول اور اُس کے گروہ سے ملا اور مراسلہ دے کر ساما حال کہا۔ مراسلے کا ماحصل اس ہے حضرت فاطمہؓ کا نکاح حضرت علی کرمہ اللہ سے اسی سال ہوا۔ (سیرت مصطفیٰ ابوالفتح بخاری)

طرح ہے کہ مکتادوں کے گروہ کو دھکی دی گئی اور کہا کہ ہمارا اک عدو مکہ مکرمہ سے رواں ہو کر معمورہ رسول آٹھرا ہے، اس لئے ہمارے اس عدو سے سارے مل کے لڑو اور اُس کو ہمارے حوالے کر دو اور معلوم ہو کہ اگر اس امر سے عادی رہے، ہم سارے گروہ مل کر معمورہ رسول حملہ آور ہوں گے۔

ولید سلول کی اس مراسلے سے مکتادی کے لئے راہ ہموار ہوئی اور وہ اس مراسلے کی آڑ لے کر اُٹھا اور وہاں کے گمراہوں کے سر پر گروہ لوگوں کو اکٹھا کر کے اس مراسلے کی اطلاع دی اور کہا کہ لوگو! ہم کو مکے والوں کے حملے کا ڈر ہے، اس لئے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے لڑائی کے لئے آمادہ رہو۔ ہمارا مسئلہ اسی طرح حل ہو گا۔

ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گروہ کے مکروہ ارادوں کا علم ہوا۔ اُسی لمحے اُٹھ کر وہاں گئے کہ سارے لوگ وہاں اکٹھے رہے اور لوگوں سے ہم کلام ہو کر کہا کہ لوگو! معلوم ہو کہ وہ مراسلہ مکے والوں کا دھوکا ہے۔ اگر وہاں کے گمراہوں سے دھوکا کھا گئے اور لڑائی کے لئے آمادہ ہوئے، معلوم رہے کہ گھانا اُٹھاؤ گے اور اُس کا مال رُسوائی ہو گا۔ اس لئے ہمارا راستہ ہے کہ مکے والوں کو لکھ دو کہ ہم معاہدے کی رو سے اہل اسلام کے حامی ہوئے دوسرے اگر مکے والے مل کر حملہ آور ہو ہی گئے، ہم سارے معاہدہ گروہوں کے لئے سہل ہو گا کہ ہم مکے والوں سے مل کر معرکہ آرا ہوں اور اگر اس کا عکس ہو، اس امر کو گمراہ کہہ لو کہ اس کا مال رُسوائی ہی رُسوائی ہے۔

اس کلام رسول سے لوگوں کے دل ڈر گئے اور وہ سارے وہاں سے اُٹھ کر گھروں کو لوٹ گئے اور ولید سلول کی مکتادی کا ارادہ سرد ہوا اور وہ مراد منکسر ہوئی۔

لے اس سازش کی یہ ساری تفصیل تاریخ اسلام ج ۱ ص ۱۵۲ سے لی گئی ہے۔

اس امر کے علاوہ اللہ کا اک اور حکم اسی سال وارد ہوا۔ اہل اسلام کے مالدار لوگوں کو حکم ہوا کہ وہ ہر سال اللہ کے عطا کردہ مال سے اک حصہ الگ کر کے محروموں کو دے کر اللہ کے آگے کامگاہ ہوں۔ اللہ کا وہ حکم عباد اسلام اور صوم کی طرح عمود اسلام سے لٹے ہے۔

اسلام کے لیے لڑائی کا حکم

اللہ کے سامنے رسول کہ اہل عالم کی اصلاح کے لئے آئے۔ ساروں کا معمول رہا کہ اول اول لوگوں کو ملائی اور رحم و کرم سے اللہ کی راہ دکھائی اور لوگوں کے لئے سادے صدمے اور آلام سے اور سرورِ دل سے اللہ کے حکم کی رسائی کے لئے سعی رہے۔ مگر لوگ ہٹ دھرمی کی راہ سے رسولوں کے عدو ہو گئے۔ اس عالم کے سامنے لوگوں سے سوا اللہ کے رسول لوگوں کے ہمدرد و دلدادہ رہے اور اسی احساس سے لوگوں کو اللہ واحد کی راہ کے لئے مدادی کہ وہ دائمی آلام سے رہا ہوں۔ مگر عالم کے ہر والد کی طرح کہ وہ ہٹ دھرم اور لاعلم لڑکے کی اصلاح کے لئے اول اول رحم و کرم اور ملائی کے سلوک کا عامل ہوا، اگر ہٹ دھرمی ہوا ہوئی مار مار کے اُس کی اصلاح کے لئے سعی ہوا۔ اسی طرح رسولوں کا معاملہ ہے کہ وہ اول اول عمدہ سلوک سے لوگوں کی اصلاح کے لئے سعی ہوئے۔ مگر اس طور سے اگر وہ راہِ ہدیٰ سے اور دور رہے، اللہ سے دعا کی کہ اللہ کی مار آئے اور اسی طرح ہوا، اللہ کی مار آئی اور وہ ہلاک کئے گئے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چرا کی وحی اول کے لمحے سے لے کر سارا عمر رحم و کرم اور عطاء و سلوک کے عامل ہوئے۔ لوگوں کو ہر طرح اللہ واحد کی راہ

دکھائی اور اس کرم و عطا کے سلوک کا صلہ اس طرح ملا کہ اہل مکہ رسول اللہ ﷺ کے عدو ہو گئے۔ ہر طرح کے دُکھ رسول اللہ اور اہل اسلام کو دے کر وہ مسرور ہوئے۔ مگر رسول اللہ اور سارے اہل اسلام سارے آلام کو اس لئے سہہ گئے کہ اللہ کا حکم اسی طرح رہا۔ مگر وہ لمحہ اُس کے رہا کہ اللہ کا حکم ہوا کہ وہ لوگ کہ رحم و کرم کے سلوک سے اور ہٹی ہو گئے اور راہِ ہدٰی سے اور دُور ہو گئے۔ وہ ماد کھا کے اور گھانا اُٹھا کے راہِ ہدٰی کے راہی ہوں۔

اُدھر اہل اسلام کو گمراہوں اور لاعلموں کی ہر کارروائی کا علم ہوا۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معرہ ہوئے کہ ہم کو لڑائی کا حکم عطا ہو کہ ہم گمراہوں سے لڑ کر اسلام کا حکم لہرا کر مسرور ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حکیم الہی کی آس رہی۔

معمودہ رسول اکرم اللہ کے کرم سے اہل اسلام کو علو حاصل ہوا۔ اس لئے وداعِ مکہ کے دوسرے سال ہی اللہ کا حکم وارد ہوا کہ اگر گمراہ لوگ اہل اسلام سے معرکہ آراء ہوں، اہل اسلام کو حکم ہے کہ وہ گمراہوں کے آگے ڈٹ کر حملہ آور ہوں۔ اس حکیم الہی سے اسلام کے معرکوں کا درگھلا اور اہل اسلام اس حکم سے کمال مسرور ہوئے۔

اسلام کی مہتموں اور معرکوں کا سلسلہ

لڑائی کے اس حکیم الہی سے اسلام اور اہل اسلام کی مہتموں اور معرکوں کا سلسلہ

لے ابتداء میں جہاد کا حکم صرف دفاع کے لئے تھا۔ مگر بعد میں اقدامِ جہاد کے احکام نازل ہوئے۔

رواں ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدوں اور مددگاروں کی
دولہ کاری اور حوصلہ آوری کے وہ احوال آگے آئے کہ اہل عالم اس طرح کے
احوال سے سدا محروم رہے۔

ہر وہ مہم اور لڑائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ہمد یا کسی مددگار کی سرکردگی سے
ہوئی ”مہم“ کے اسم سے موسوم ہوگی اور وہ مہم اور لڑائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے ہمراہ رہے ”معرکہ“ کہلائے گی۔

اسی سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ہمد و مددگار رسول اللہ
کے حکم سے کئی مہتوں کو لے کر گئے۔

اول مہم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ارسال ہوئی وہ
رسول اللہ کے عم ابی طالب کے اک کارواں کے لئے لے کر گئے۔ نئے والوں
کا سردار ”عمرو“ اس کارواں کا سردار رہا۔

اس مہم کے سارے ہمراہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدوں سے
لئے گئے۔ مددگار رسول اس مہم سے دور رہے۔ علماء کی رائے ہے کہ عجم گرامی
کی وہ مہم و دارِ مکہ کے دوسرے سال کے ماہ سوم کو ارسال ہوئی۔

اسی طرح اک اور مہم مکہ مکرمہ کی راہ کے اک مہر کے لئے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے اک ہمد لے کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی ہمد اس مہم کے

۱۔ علمائے سیرت کی اصطلاح میں اُس جہاد کو غزوہ کہتے ہیں، جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
خود شریک رہے اور جس میں آپ خود شریک نہیں ہوئے اس کو ”مہمہ“ کہتے ہیں۔ ہم نے
مہمہ کے لئے ”مہم“ اور غزوہ کے لئے ”معرکہ“ کا لفظ اختیار کیا ہے۔ (محمود علی رازی)

۲۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ۳۔ ماہ ربیع الاول ۳۔

(سیرت مصطفیٰ ص ۴۵۴) ❖

ہمراہ سوار ہو گئے۔ مگر ہر دو گروہ لڑائی سے الگ رہے۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدرد سعد اک شہام لے کر آگے آئے
 اور سوئے اعداء مارا۔ اللہ کی راہ کے لئے وہ اسلام کا شہام اول ہوئے۔
 اک اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدرد سعد لے کر راہی ہوئے
 مگر گمراہوں کا کارواں اہل اسلام سے ہٹ کر کسی اور راہ سے راہی ہوا۔ سعد
 لوگوں کو لے کر معمودہ رسول کوٹ آئے۔ اسی طرح ہادی اکرم صلی اللہ علیہ
 وسلم کے دو معرکے ہوئے، مگر لڑائی سے الگ رہے۔



۱۔ شہام: تیر کو کہتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تیر پہلا
 تیر تھا جو اسلام میں جماد کے لئے چلا گیا۔ (سیرت مصطفیٰ ص ۳۰۴)
 ۲۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

معرکہ اول کے اعلام

مکہ مکرمہ کے لوگوں کو احساس ہوا کہ معمورہ رسول اسلام کا اک حصار ہوا ہے اور اہل اسلام کے حوصلے سبوا ہو گئے۔ مگر اہوں کو اسلام اور اہل اسلام کا علو کہاں گوارا؟ دلوں کی آگ اور دہک اٹھی، گراہی اور ہٹ دھرمی کی کانک اور گری ہو گئی۔ سارے لوگوں کو ڈر ہوا کہ معمورہ رسول اسلام کا اک حصار ہو کر نہ رہوں کی راہ کھوٹی کرے گا۔ دوسرے بکتے والوں کے سارے کارواں دوسرے اہصار و مالک کے لئے معمورہ رسول ہی کی راہ سے ہو کر رواں رہے۔ ڈر ہوا کہ اہل اسلام اس راہ کے مالک ہوں گے اور بکتے والوں کے سارے مالی معاملے سدود ہوں گے۔

ہٹ دھرمی اور حسد کی راہ سے اہل اسلام کی رسوائی اور طرح طرح کے دکھ کے لئے سامی ہوئے۔

اول اقل اس طرح کے اتکاؤ کا احوال ہوئے کہ کوئی گروہ معمورہ رسول اکرمؐ مسلمانوں کے اموال ٹوٹ کر ٹوٹا۔ اسی لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل اسلام کو لے کر اُس کے لئے گئے۔ مگر اُس کو اطلاع ہوئی کہ اسلام کا عسکر آ رہا ہے، وہ حواس گم کر کے دوڑا۔

معمورہ رسول کے مکاروں کے گروہ سے اہل اسلام کی رسوائی کے معاملے طے

۱۷ کذب بن جابر النہری نے ایک جماعت کے ساتھ مدینہ منورہ کے مقبل اک چراگاہ پر چھاپا مارا اور بہت سے آؤٹ پڈ کر لے گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خبر سنتے ہی اُس کے تعاقب میں مقام بدیمک گئے۔ اسی لئے اس کو غزوہ بدر آولے کہا جاتا ہے۔

(سیرت مصلیٰ ص ۴۰۹)

ہوئے۔ دلیہ رسول کو مراسلے لکھ کر سعی کی گئی کہ اُس کے گرد وہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم سے لٹا کر سرور ہوں۔

اس طرح اہل مکہ ہر طرح سے آمادہ ہوئے کہ وہ رسول اکرمؐ اور اہل اسلام سے
معرکہ آزاد ہوں۔

گمراہوں کا کارواں

اُدھر بادئی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مکے کا اک سردار مکے والوں
کا اک کارواں لے کر مکہ مکرمہ کے لئے معمرہ رسول ہی کی راہ سے آ رہا ہے اور
اموال و املاک کا حامل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہدم و مدد گا
اکٹھے ہوئے اور رسول اکرمؐ کا حکم ہوا کہ لوگو! مکے والوں کا اک کارواں اموال و املاک
لے کر سوئے مکہ مکرمہ راہی ہے۔ اس لئے اگر اہل اسلام اس کارواں کے لئے راہی
ہوں۔ اللہ کے کرم سے اس سے کہ وہ اہل مکہ کے اموال و املاک اہل اسلام کو
عطا کرے گا۔ رسول اکرمؐ کے حکم سے سہ صد اور دس سے سوا لوگ اس کارواں کے
لئے راہی ہوئے۔ اس مہم کا مدعا اس کارواں کی راہ روک کر اُس کے اموال کا
حصول ہی رہا۔ معرکہ آزادی اور لڑائی کے ہر ارادے سے اہل اسلام دور رہے۔ اسی
لئے معرکہ آزادی کے لئے اسلحہ اور دوسرے املاک کم رہے۔

اُدھر مکے کے سردار کو کھٹکا لگا رہا کہ اگر اہل اسلام کو اس کارواں کی اطلاع ہوگئی
وہ لامحالہ اُس کی راہ روک کر اُس کے اموال کے مالک ہوں گے۔ اسی لئے ہر

ابوسفیان مکہ مکرمہ سے ایک قافلہ تجارت لے کر شام گیا اور وہاں سے مال و اسباب لے کر
واپس مکہ مکرمہ جا رہا تھا۔ یہ مدینہ منورہ سے روانگی کے وقت کسی لڑائی اور جنگ کا دہم و گمان بھی نہ
تھا، اسی لئے مسلمان بغیر جنگی تیاری کے نکل کھڑے ہوئے تھے۔

ماہِ دو سے اہل اسلام کے احوال کی اطلاع لی۔ اس طرح اس کو معلوم ہوا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا حکم ہوا ہے کہ لوگ اس کارواں کے لئے راہی ہوں۔ اُس سردار کو اس اطلاع سے ڈر لگا اور اک آدمی دلدغرو کو مال دے کر کہا کہ وہ سوئے مکہ مکرّمہ دوڑ کر راہی ہوا اور مکے والوں کو اس حال کی اطلاع دے اور کہے کہ ہم کو اہل اسلام سے ڈر ہے، دوڑ کر بہادی مدد کو آؤ۔ وہ آدمی اس اطلاع کو لے کر سوئے مکہ سوار ہو کر دوڑا۔

ادھر بادئی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال و املاک، اسلحہ اور سواری سے محروم اللہ والوں کا محدود گروہ لے کر سوئے کارواں راہی ہوئے۔ سہ صد سے سوا لوگوں کے لئے دو گھوڑے اور ساٹھ اور دس دوسرے سوار اس کے علاوہ دو دو آدمی ہر سواری کے سوار ہوئے۔

رسول اکرم کی سواری کے حصّہ دار، علی کرّم اللہ اور اُس کے اک اور ہمراہی ہوئے۔ گاہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اُس سواری کے سوار ہوئے اور گاہ ہر دو حصّہ دار اس طرح اللہ والوں کا وہ محدود گروہ معمورۂ رسول سے راہی ہو کر دو مرحلے ادھر اک محلّ روعاء آکر رکا۔ وہاں آکر رسول اکرم ص کے اک بھد گار کو حکم ہوا کہ وہ معمورۂ رسول کے امور کا حاکم ہو اور معمورۂ رسول لوٹے اور کم عمر لڑکوں کو حکم ہوا کہ وہ لوٹ کر معمورۂ رسول رہ کر دعا گو ہوں۔

اس عسکر اسلام کا اک عَلم علی کرّم اللہ کو ملا، دوسرا رسول اللہ کے اس ہمد

لہ منعم بن عمرو غفاری۔ (سیرت مصطفیٰ ص ۱۵) ۲۰ تین سو تیرہ لوگوں میں صرف ستر اونٹ اور دو گھوڑے تھے۔ ایک ایک اونٹ پر دو، دو اور تین تین آدمی سوار ہوئے۔ (سیرت مصطفیٰ ص ۱۵) ۲۱ حضرت ابولبابہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے شریک تھے۔ (حوالہ بالا) ۲۲ حضرت ابولبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام روعاء مدینہ کا حاکم مقرر کر کے واپس فرمایا۔ (حوالہ بالا) ۲۳

کو ملا کہ وہ ”وداع مکہ“ سے ادھر معمودہ رسول کے لوگوں کا معلم ہو کر مددگاروں کے ہمراہ معمودہ رسول آکر رہا۔ اک اور علم رسول اللہ کے کسی اور مددگار کو ملا۔
 راہ کے اک مرحلے آکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ
 ولد عمرو اور عدی آگے رواں ہوں اور مکے والوں کے کارواں کے حال
 سے مطلع ہوں۔

ادھر کارواں کے سردار کا آدمی مکے آکر وارد ہوا اور اہل مکہ کے سردار
 عمرو و محروم حکم کو سارے حال کی اطلاع دی۔ اہل مکہ کو وہ اطلاع اک دھماکے کی طرح محسوس
 ہوئی۔ اس لئے کہ سارے ہی اہل مکہ کے اموال اس کارواں کے ہمراہ رہے۔ وہاں
 کے ہر آدمی کا دل ڈر سے معمور ہوا اور مکے کے اٹھ سوار دو سو لوگ ہر طرح کے
 اسلحہ سے مسلح ہو کر ”عمرو و محروم حکم“ کے گرد اکٹھے ہوئے اور اس کو سردار کر کے
 کارواں کی مدد کے لئے مکہ مکرمہ سے لڑی ہوئے۔ (کمراہ مسلم)

گمراہوں اور اللہ اور اس کے رسول کے اعداء کا وہ عسکر ہر طرح کے اسلحہ سے
 مسلح اور مال و املاک اور لوگوں کے عدو سے اس طرح اکٹھا کر دیا ہوا کہ اللہ اس
 طرح کی اکٹھا سے اہل اسلام کو دُور رکھے، گمراہوں کی اس اکٹھا کے لئے کلام الہی وارد ہوا کہ
 ”اے اسلام والو! گمراہوں کے اس عمل سے دُور رہو کہ وہ گھروں سے
 اکٹھا کے اور دکھاوا کر کے رواں ہوئے۔“

ہادی اکرم کے ارسال کردہ دو آدمی اطلاع لے کر لوٹے کہ اہل مکہ اک عسکر کو ہمراہ لے کر
 مکہ مکرمہ سے لڑی ہو گئے۔

۱۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

۲۔ حبیب بن عمرو حبشیؓ اور علی بن ابی الزعباء حبشیؓ (سیرت مصطفیٰ ص ۱۷) کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ لَا يَأْتِيهِمُ الْإِنْسَانُ إِلَّا سِلَاحًا يَنْهَوْنَ عَنْ طَرَفٍ أَوْ يَبْغُونَ
 أَمْنًا يَوْمَئِذٍ يُؤْتِيهِمُ اللَّهُ ذُكُوتًا فَهُمْ يَمُوتُونَ ۗ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتٌ أَنْ لَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ
 خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ لَا يَأْتِيهِمُ الْإِنْسَانُ إِلَّا سِلَاحًا يَنْهَوْنَ عَنْ طَرَفٍ أَوْ يَبْغُونَ أَمْنًا يَوْمَئِذٍ يُؤْتِيهِمُ اللَّهُ ذُكُوتًا فَهُمْ يَمُوتُونَ ۗ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتٌ أَنْ لَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ

اسلام کا معرکہ اول

اس اطلاع کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ سارے ہجر مکہ وہ ہمد و مدد گار اکٹھے ہوں۔ وہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اس مسئلے کے لئے راڑ لی گئی کہ گمراہوں کا اک مسلح عسکر مکہ مکرمہ سے لڑائی کے ارادے سے راہی ہوا ہے۔ سارے لوگوں سے اول ہمد و مدد گار اکٹھے ہوئے اور کہا کہ ہم ہر طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے لئے روح و دل سے آمادہ ہوئے۔ رسول اللہ کا کوئی حکم ہو ہم اُس کے عامل ہوں گے۔ ہمد و مدد گار کے کلام حوصلہ دہی کو سموع کر کے غیر مکرم کھڑے ہوئے اور رسول اللہ کے ہر حکم کے لئے آمادگی کا عہد کر کے لڑائی کے لئے آمادہ ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اک اور ہمد و مدد گار اکٹھے ہوئے اور کمال حوصلگی سے ولولوں سے معمور کلمے کہے اور رسول اکرم سے کہا :-

”اے رسول اللہ! اللہ کے حکم کو مکمل کرو۔ ہم سارے لوگ اللہ کے رسول کے ہمد و مدد گار ہو کر لڑائی کے لئے آمادہ ہوئے۔ امر محال ہے کہ ہمارا عمل اللہ کے رسول موسیٰ کے ہمد و مدد کی طرح ہو، وہ لوگ موسیٰ (سلام اللہ علیہ وسلم) سے اس طرح کہہ کر الگ ہو گئے کہ موسیٰ

۱۔ معرکہ اول: غزوہ بدر ۲۔ حضرت مقداد بن اسود کی تقریر کا پورا مفہوم غیر منقوط اردو میں آگیا ہے۔ یہ تقریر صحیح بنیادی کے حوالے سے سیرت مصطفیٰ سے لی گئی ہے۔ اس کے عربی الفاظ یہ ہیں: **دليلنا لا نقول كما قالت بنو اسرائيل لموسى، اذهب انت وديك فقاتلا انا هم قاعدون ولكن اذهب انت وديك فقاتلا انا معكما مقاتلون** ۳۔

اور اُس کا اللہ عسکر اعداء سے آگے آکر لڑے، ہم کو اس لڑائی سے کوئی سروکار کہاں؟ ہمارا کلام اس طرح ہوگا کہ اللہ کا رسول اور اُس کا اللہ معرکہ آراء ہوں، ہم ہر دو کے ہمراہ معرکہ آراء ہوں گے۔“

ولد اسود کے اس کلام کو سموع کر کے ہادی اکرم صلی اللہ علیٰ رسولہ وسلم کا دُورے مسعود سرورِ دل سے دمک اٹھا۔ علماء سے مروی ہے کہ ولد اسود کے لئے رسول اکرم دُعا گو ہوئے۔ مگر ہادی اکرم صلی اللہ علیٰ رسولہ وسلم اک لمحہ دُکے اور کہا کہ :-

”لوگو! ہم کو رائے دو“

اس سوال کو دُہرا کر رسول اکرم صلی اللہ علیٰ رسولہ وسلم کا مدعا یہاں کہ ہدیوں سے لڑائی کا آمادگی کا وعدہ ہوا۔ ہدیوں کے علاوہ مددگاروں سے کوئی اٹھ کر لڑائی کی آمادگی کا وعدہ کرے۔

رسول اللہ کے مددگار سعد کو اس مدعا نے رسول کا احساس ہوا، وہ کھڑے ہوئے اور کہا :-

”اے رسول اللہ! ہم اللہ کے رسول کے واسطے سے اسلام لائے اور اللہ کے رسول کے گواہ ہوئے کہ وہ امرِ الہی لے کر ہمارے لئے وارد ہوئے۔ ہمارا اللہ کے رسول سے عہد ہوا کہ ہم اس کے حامی و مددگار ہوں گے۔ اے اللہ کے رسول! ہم محمودہ رسول سے کسی اور ارادے سے راہی ہوئے۔ مگر اللہ کے حکم سے دوسرا ہی معاملہ ہمارے آگے ہے۔“

لہ آنحضرت نے فرمایا: (شیخ و اعلیٰ ایقان الناس) (اے لوگو! مجھ کو مشورہ دو) سیرت مصطفیٰ ص ۲۲۲

تہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ (حوالہ بالا) ۴

اے اللہ کے رسول! ہم ہر طرح ارادہ رسول کے عامل ہوں گے۔ اگر اللہ کا رسول کسی سے عہدہ سلوک کرے گا، اس کو ہم سے عہدہ سلوک ملے گا اور اگر وہ کسی سے سلوک کاٹے گا، ہمارا سلوک اُس سے کٹے گا۔ اللہ کے رسول کی صلح ہماری صلح ہے، اُس کا عدو ہمارا عدو ہے۔ ہمارے سارے اموال رسول اللہ کی ملک ہونے لگے۔ اگر مال کا کوئی حصہ ہم کو عطا ہوگا، ہم اُس کے مالک ہوں گے اور اگر مال کا کوئی حصہ وہ رکھ لے گا، ہم کو وہ حصہ ہمارے حصہ سے سوا مکرم ہوگا۔ اگر ہم کو حکم ہوگا کہ عالم کے سیرے کے لئے راہی ہو، ہم لامحالہ اُس کے لئے آمادہ ہوں گے۔

ہم کو اُس اللہ کا واسطہ کہ اُس کے حکم سے اللہ کا رسول امرِ سعدی لے کر وارد ہوا کہ ہم رسول اللہ کے ہر حکم کے عامل ہوں گے۔ امرِ محال ہے کہ اللہ کا رسول اعدائے اسلام سے لڑے اور ہم مددگاری سے الگ ہوں۔ ہم کو اللہ سے اُس ہے کہ وہ ہمارے واسطے سے رسول اللہ کو وہ امر دکھا دے گا کہ اُس سے اللہ کے رسول کا دل ہماری مددگاری سے مسرور ہوگا۔ اے رسول اللہ! اللہ کے سہارے ہم کو لڑائی کے لئے لے کر راہی ہوں۔“

مددگارِ سعدی کو صلہ و دی اور ولولے سے معمور اس کلام سے رسول اکرمؐ کمال مسرور ہوئے اور احساس ہوا کہ سارے لوگ مل کر اللہ کے رسول کے ہمراہ معرکہ آراء ہوں گے۔ اس لئے عسکرِ اسلام کو محکم ہوا کہ لڑائی کے لئے اللہ کا اسم لے کر

لے حضرت سعد بن معاذؓ کی یہ سرورشاہ تقریر سیرتِ مصطفیٰ میں زندقائی کے حوالے سے نقل کی گئی ہے۔ تقریر کے دلیل ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کی عربی نہیں دی ہے۔ لیکن غیر منقوط اُردو میں تقریر کا حاصل بچہ پوری طرح آگیا ہے۔

اسلامی صدی کے دوسرے سال کے ماہ صوم کی سولہ ہے۔ اسلحہ اور عدد سے محروم ماہ صوم کے احکام اکل و طعام سے دور۔ مگر اللہ اور اُس کے رسول کے سہارے کو اصل سہارا کئے ہوئے اور اللہ کی مدد کے احساس سے مسلح اللہ والوں کا گردہ معورہ رسولؐ سے ساتھ کوس دور اک کساری جھٹے کے گرد آکر رکا۔ اہل اسلام کو مٹی والا حقہ ملا اور وہی عسکرِ اسلامی کی درود گاہ ہوا۔ مگر انہوں کا عسکر اک کساری اور عہدہ حقہ کو درود گاہ کر کے وہاں اول ہی سے ٹھہرا دیا اور وہاں آکر ”سلسلِ ماء“ کا مالک ہوا۔ اس طرح اہل اسلام ماءِ سلسال سے محروم ہو گئے۔ مگر اللہ کا حکم ہوا، اک گٹھا امٹھی اور امطارِ کرم کا سلسلہ لگا۔ اہل اسلام اٹھے اور گرٹھے کھود کر ماءِ مطہر کو اکٹھا کر کے اللہ کی حمد کی۔ اس ماءِ مطہر سے اہل اسلام کی درود گاہ کی مٹی سوکھ کر محکم ہو گئی کہ اللہ والوں کی راہ روی سہل ہو۔ اسی حال کے لئے اللہ کا کلام وارد ہوا کہ اللہ کے حکم سے وہ گٹھا اہل اسلام کے لئے آئی کہ اہل اسلام ماءِ طاہر سے مطہر ہوں اور لوگوں کے دل محکم ہوں۔

آرام گاہ رسولؐ

اہل اسلام کی رائے ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اک الگ آرام گاہ ہو کہ اللہ کا رسول وہاں آرام کرے۔ مددگارِ رسول سعد رسول اکرمؐ کے آگے آئے اور کہا :-

”اے رسول اللہ! ہماری رائے ہے کہ اللہ کے رسول کے لئے الگ اک آرام گاہ ہو اور اُس کے آگے سواری کھڑی رہے اور ہم مل کر

لے سلسالِ ماء: پانی کا چشمہ۔ لے قرآنِ کریم کی آیت ہے: ”وینزل علیکم من السماء ماءً لیتطہرکم بہ“ ویدھب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویشیت بہ الاقدام۔“

اللہ اور اُس کے رسول کے احسان سے معرکہ آرا ہوں۔ اگر ہم کامیاب ہوئے اور حاوی آگئے، وہی ہماری مراد ہے اور اگر کوئی دوسرا حال ہوا۔ اللہ کا رسول سوار ہو کر معمرہ رسول کے لئے روانہ ہو اور اہل اسلام سے آٹے۔ وہ اہل اسلام ہم سے سوا رسول اللہ کے حامی اور مددگار ہونے لگے۔

ہادئی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مددگار سعد کے لئے دعا گو ہوئے۔ اس طرح مددگاروں اور ہمدیوں کی سعی سے رسول اکرم کے لئے اک الگ آدم گاہ کھڑی کی گئی۔ مددگار رسول سعد اس آدم گاہ کے آگے مسلح ہو کر کھڑے رہے کہ اللہ کا رسول ہر دُکھ سے دُور رہے کہ وہاں آدم کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگے سر ٹکائے دعا گو رہے۔

اگلی سحر ہوئی۔ ہر دو گروہ لڑائی کے لئے آمادہ ہوئے۔ مکے کے کئی لوگ رادھرا دھر گھوڑے کہ عسکر اسلام کا عدد اور دُور سے احوال معلوم ہوں۔ اک گھوڑے سوار حال معلوم کر کے لوٹا اور کہا کہ اے سردار! گو مسلمانوں کے گروہ کا عدد کم ہے اور وہ سادہ عسکر اسلحہ سے محروم ہے۔ مگر اُس سادہ حال گروہ کا ہر آدمی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا دل کی گہرائی سے دلدادہ ہے۔ اُس گروہ کا ہر آدمی لڑائی کے دلوں سے معمور ہے۔ اُس گروہ کا حال عالم کے دُور سے لوگوں سے الگ ہے، اُس کا ہر آدمی مکے والوں کے کئی کئی لوگوں کو مار کر مرے گا۔ اس لئے اے سردار! لڑائی کے ارادے سے دُور رہو۔

۱۔ حضرت سعد کی یہ تقریر سیرت مصطفیٰ سے ماخوذ ہے، (صفحہ ۴۳) ۲۔ حضرت علی کہم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہ تھا جو بدر کی شب سو نہ رہا ہو، سوائے آپ کے کہ تمام رات نماز اور دعا گو رہے و زار ای میں گزار دی۔ (سیرت مصطفیٰ، بحوالہ کنز العمال) ۳۔ یہ شخص عمیر بن الوہب الحبلی تھا، جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت اور والہانہ عشق کے اظہار کے لئے ایک موثر تقریر کی۔ (راج السیرۃ ص ۱۳۳) ۴۔

کئی دوسرے سردار اُس کے ہم رائے ہوئے اور کہا کہ اے سردار! اس لڑائی سے الگ رہو کہ سراسر گھائے کا سودا ہے۔ اہل اسلام کا گروہ ہمارے ہی گروہ کا اک حصہ ہے۔ اس لڑائی سے ہماری کامگاری کا دار و مدار اسی امر سے ہے کہ ہمارے ہی گروہ کے لوگ، ہمارے اسلحہ سے مرکب رہا ہی ملکِ عدم ہوں۔ اس طرح کی کامگاری سے ہم کس طرح مسرور ہوں گے۔

رسولِ اکرمؐ کی دُعا

مگر محرومِ حکم ہر رائے کو ٹھکرا کر لڑائی کے لئے آمادہ ہوا اور حکم ہوا کہ سارا عسکر لڑائی کے لئے آمادہ رہے۔ اعدائے اسلام کا گروہ ہر طرح سے مسلح ہو کر اہل اسلام کے آگے رُودرُو ہوا۔ رسولِ اکرمؐ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس رہا کہ اہل اسلام کا گروہ کم عدد اور اسلحہ سے محروم ہے۔ اعدائے اسلام کا عدد ہر طرح سوا ہے اور اُس کو لڑائی کا ہر طرح کا اسلحہ حاصل ہے۔ اللہ مالکِ الملک سے رُودرُو ہو کر اس طرح دُعا کی :-

اے اللہ! اعدائے کلمۃ اسلام کے لئے اہل اسلام کا گروہ اکٹھا ہوا ہے اگر اہل اسلام اس لڑائی کو لڑ کر مارے گئے۔ اللہ واحد کی حمد دُعاء کا حوصلہ کس کو ہو گا۔ اے اللہ! ہمارے لئے وہ مدد و سال کر کہ اُس کا وعدہ اللہ کے رسولؐ سے ہوا اور اے اللہ! اس گروہ کو ہلاک کر۔ ﷺ

لحمہ یقریب عذبن وبعید فی قریش کے سامنے کی یہ لڑائی کسی طرح نہ ملنا اور صلح کے لئے تیار ہونا (راجح السیرۃ ص ۱۳۷) یہ آپؐ نے اس طرح دعا کی: اللہم انجزی ما وعدتہنی اللہم ان تمہلک ہذہ العقبۃ من اہل الاسلام الیوم فلا تعبد فی اللہ عن ابدالہ اے اللہ! جس مدد کا تو نے وعدہ کیا ہے وہ پورا فرما۔ اے اللہ! آج مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر زمین میں تیری پرستش نہ ہو گی ما سیرت مصطفیٰ ص ۲۳۹) :-

اس دُعاء کو کہہ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اک سوٹے آدمی کی طرح ہو گئے اور کئی لمحے اسی طرح رہے۔ دوسرے ہی لمحے اُسٹھے اور مُسکرا کر اہل اسلام کو اطلاع دی کہ گروہ اعداء کو ہار ہوگی اور وہ رُساوا ہو کر اور رُوموڑ کر سوٹے ملے رہا ہی ہوں گے۔

اہل اسلام کو اللہ کے رسول کی دی ہوئی اس اطلاع سے حوصلہ ہوا اور وہ لڑائی کے لئے آمادہ ہوئے۔ رسول اللہ کا حکم ہوا کہ عسکرِ اسلام حملے سے رُکا ہے۔ اعدائے اسلام ہی اول حملہ آور ہوں۔

اہل اسلام کی مدد کے لئے ملائکہ کی آمد

کلامِ الہی اس امر کا گواہ ہے کہ اللہ کے حکم سے ہزار ملائک ملائکہ کا گروہ لئے کر اہل اسلام کی مدد کو آئے۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے سارے ہمدموں کو معلوم ہوا کہ اللہ کے حکم سے ملائکہ سوار ہو کر آگئے اور اک گھاٹی کی اوٹ سے ملائک کا گروہ آگئے آکر گمراہوں سے لڑا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اک مددگار ساعدیؑ سے مروی ہے کہ اللہ کے حکم سے ملائکہ علمائے اوڑھے ہوئے وارد ہوئے۔ دوسرے کئی علماء سے

لے صحیح بخاری میں ہے کہ آپ چتر سے باہر تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت کی سیما جمع الجمع دیون الدُّبَّو (عقرب کافروں کی یہ جماعت شکست کھائے گی اور بشت پھیر کر بھاگے گی۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر)

۱۱ حضرت ابواسید ساعدی رضی اللہ عنہ جو بدر میں شریک تھے۔

مروی ہے کہ ملائک کلمے اڑھے ہوئے آئے۔ ملائک کی آمد اور اللہ والوں کی ملائک کے واسطے سے امداد کا سارا حال کلام الہی کا حقہ ہے۔ اللہ مالک الملک اس طرح ہم کلام ہوا۔

”دل سے دُہراؤ اُس لمحے کو کہ اللہ سے لکار کر دُعا گو ہوئے ہو لوگوں کی دُعا وصول ہوئی (اور اللہ کا وعدہ ہوا) کہ آٹھ سوا اور دو سو ملائک سے (اہل اسلام کی) امداد کروں گا۔ وہ (ملائک) اک دوسرے کے آگے سلسلہ وار رواں ہوں گے اور اللہ کی وہ امداد اس لئے ہوئی کہ اہل اسلام کو کاسگاری کی اطلاع ملے اور اہل اسلام کے دل محکم و مسرور ہوں اور اللہ کی مدد ہی اصل مدد ہے اور اللہ ہی حاوی ہے اور حکم والا ہے۔“

اس طرح اہل اسلام کی مدد اللہ کے ملائک کے واسطے سے کی گئی اور اللہ کا، اللہ کے رسول سے امداد کا وعدہ مکمل ہوا۔

معرکہ اول کی گہا گہی

اہل اسلام اور گمراہوں کا عسکر ہر دو اک دوسرے کے آگے آکر ڈٹ گئے۔ مگر

لہ غزوہ بدر ہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی: اِذْ تَسْتَغِيثُونَ دَبَّكُمَا فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنَّا مَعَكُمْ بِالْقَمَرِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَرَدَفِينَ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ الْاَلْبَشِرَ وَلِتَنْظُمُنْ بِهِ قُلُوبَكُمْ۔ وَمَا اَلْتَمَّ اللَّهُ عِنْدَ اللَّهِ اَنَّا اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (یاد کرو اُس وقت کو جب تم اللہ سے فریاد کر رہے تھے، پس اللہ نے تمہاری دُعا قبول کی کہ میں تمہاری ایک ہزار فرشتوں سے مدد کروں گا۔ جو یکے بعد دیگرے آئے والے ہوں گے اور اللہ نے نہیں بنایا اس امداد کو) مگر محض تمہاری بشارت اور خوشخبری کے لئے اور اس لئے کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اور کوئی مدد نہیں، مگر اللہ کی جانب سے بیشک اللہ غالب اور حکم والا ہے۔ ترجمہ از سیرتِ مطہری ص ۴۳)۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ اول حملہ اعداء ہی کے عسکر سے ہو۔ اس لئے اللہ والے لڑائی سے دُکے رہے۔ لڑائی کی رسم کی دُوسرے اول اول گمراہوں کے سردار الگ الگ عسکر سے آگے آئے اور آگے آکر لڑائی کے لئے لگا دی۔

عسکر اسلامی سے اول رسول اکرم کے مددگار ولید و احہ اور اُس کے دو اور ہمراہی آگے آئے اور سرداروں سے لڑائی کے لئے آمادہ ہوئے۔ مگر مکے کے سرداروں کا اصرار ہوا کہ ہم سے لڑائی کے لئے مکہ والے ہمدموں کو آگے لاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ مددگار سوئے عسکرِ اسلامی ٹوٹ آئے۔ رسول اکرم کے حکم سے علی کرمۃ اللہ اور رسول اللہ کے عم اسد اللہ اور رسول اللہ کے اک اور ہندم آگے آئے۔

عسکرِ اعداء سے مکے کا اک سردار، اُس کا ولید اتم اور اُس کا اک لڑکا لگا کر آگے آئے۔ سردار کا لڑکا ہندم رسول علی کرمۃ اللہ کے آگے آڈٹا۔ مگر علی کرمۃ اللہ کی دلاوری اور حوصلہ دہی کے آگے وہ گمراہ کہاں تک سکے۔ علی کرمۃ اللہ آگے آکر حملہ آور ہوئے اور اس طرح کا کاری وار ہوا کہ اُسی اک وار سے اُس سردار کا سر کٹ کر گرا اور اس طرح وہ اللہ کا عدو اللہ کی سلگائی ہوئی آگ کے حوالے ہوا۔

سردار کا اتم ولد، رسول اللہ کے عم مکرم اسد اللہ کے آگے آکر لڑائی کے لئے حملہ آور ہوا۔ مگر اسد اللہ اللہ احد کہہ کر آگے آئے اور اس طرح کاری وار ہوا کہ اک ہی وار سے اُس کی لوہے کی کلاہ کو کاٹا اور سر کو دو ٹکڑے کر کے گھلے کو کاٹا۔ اس طرح

لے و لے سب سے پہلے حضرت عون بن عبد اللہ بن رواحہ مبارزہ کے لئے آگے آئے مگر اہل مکہ سے کسی نے آواز دی کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمارے مقابلے کے لئے ہماری جوڑ کے آدمی بھیجو۔ اس کے بعد حضرت علی کرمۃ اللہ وجہہ حضرت حمزہؓ اور حضرت عبیدہ بن الحارثؓ مقابلے کے لئے نکلے۔

ادھر سے عقبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اُس کا بیٹا ولید بن عقبہؓ میدان میں آئے۔ (راج السیرہ سیرت مصطفیٰ ص ۴۲) ولید بن عقبہ حضرت علیؓ کے مقابل ہوئے :

وہ سردار کا دلدارم دارالام کو راہی ہوا۔ ادھر وہ سردار گرا، ادھر عسکرِ اسلامی سے اللہ احد کی صدا اٹھی اور ساری وادی اس صدا سے نمود ہو گئی۔

علی کرمہ اللہ اور عثم مکرم کے ہمراہی کے لئے اک سردار حملہ آور ہوا، وہ دلاوری سے اُس سردار سے لڑے۔ مگر اللہ سے وصال کے لئے اس ہمدردِ رسول کی دُعا مستوع ہوئی۔ وہ اک کاری گھاؤ کھا کر گرے۔ علی کرم اللہ اور عثم مکرم دوڑ کر اُس کی مدد کو آئے اور اُس سردار کو حملہ کر کے مار ڈالا۔ علی کرمہ اللہ اُس ہمدردِ رسول کو رسولِ اکرم کے آگے لائے۔ رسولِ اکرم اُس کے لئے دُعا گو ہوئے۔ اس طرح وہ رسول اللہ کا دلدارہ اللہ کے رسول کی دُعا، ہمراہ لے کر دارالسلام کی دائمی آرام گاہ کو راہی ہوا۔ (ہم ساروں کا اللہ مالک ہے اور ہر آدمی اُسی کے گھر لوٹے گا)۔

معرکہ عام

اس طرح گمراہوں کے کئی سردار مارے گئے۔ سرداروں کی ہلاکی سے گمراہوں کے عسکر کے لوگ کسمائے۔ مگر محرومِ حکم، عمرو آگے ہوا اور کہا کہ لوگو! کس لئے یہ جھلہ ہمارے ہو؟ گو وہ سردار مارے گئے، مگر حوصلہ کھو، ہم لامحالہ کامگار ہوں گے۔ اس طرح کہہ کر وہ کھڑا ہوا اور دُعا کر کے عسکر کے آگے آکر کہا کہ لوگو! آگے آؤ اور ڈٹ کر لڑائی کرو۔ اس طرح معرکہ عام کا سلسلہ ہوا۔

ادھر سے اللہ والے "الشر احد" کی صدا لگا کر آگے آئے اور ہر دو گروہ اک دوسرے

لے حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ عقبہ کے اک وار سے حضرت عبیدہ کے پاؤں کٹ گئے۔ حضرت علیؑ ان کو اٹھا کر رسولِ اکرم کے پاس لائے۔ حضرت عبیدہ نے پوچھا: یا رسول اللہ! میں شہید ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس جواب کو سن کر حضرت عبیدہ نے ذوق و شوق کے کچھ اشعار پڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جاں بحق ہو گئے۔ اَللّٰهُمَّ اِنَّا اَتَيْنَكَ دَاجِئِينَ کا مفہوم ہے۔

سے ملے۔ اہل اسلام کو اہل ہی سے رسول اللہ کا حکم رہا کہ رسول اللہ کے اُسرے کے لوگوں اور دادا کی آلِ اولاد سے کرم کا سلوک کرو۔ اس لئے کہ وہ سارے دلی طور سے اس لڑائی کی آمادگی سے دُور رہے اور اس عسکر کے ہمراہ اس لئے آگئے کہ مکے والوں کا دُور رہا کہ وہ سارے لوگ اُسرہ رسول کے عدد ہوں گے۔

رسول اللہ کے ہم اور مددگار اس طرح دل کھول کر دلاوری اور ولولہ کاری سے لڑے کہ اہل مکہ کے سارے دلوں نے دھرے رہ گئے۔ اک اک مُسلم کئی کئی گراہوں کے آگے آکر ڈٹا اور اللہ کے کرم سے مسلم ہی مادی ہوا۔

ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دل سے اہل اسلام کی کامنگاری کے لئے دُعا گو رہے اور آرام گاہ کے اُدھر آکر کھڑے ہوئے۔ سردارِ ملائکہ آئے اور رسول اللہ سے کہا کہ اک مٹھی مٹی لے کر سوئے عسکر اعداء اُڑادو۔ ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے اور اک مٹھی مٹی لے کر اور دم کر کے سوئے اعداء اُڑادیئے۔ اللہ کا حکم اس طرح ہوا کہ وہ مٹھی ہر ہر گمراہ کے آکر لگی اور گمراہوں کے اس طرح حواس گم ہوئے کہ اک دُوسرے سے لاعلم ہوئے اور ادھر ادھر دوڑے۔ اسی امر کے لئے اللہ کا کلام وارد ہوا کہ :-

ہاے رسول ! وہ مٹی کہ سوئے اعداء ڈالی گئی اللہ کی ڈالی ہوئی رہی۔“

عمرؓ "محروم حکم" اللہ اور اُس کے رسول کا عدد، گمراہوں کے اس عسکر کا کماندار اور سالار لوہے کی صدی اور کُلاہ اوڑھے ہوئے ادھر ادھر گھوما اور معرکے کے

لے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کے حکم سے ایک مشیت خاکِ کفار کی طرف پھینکی۔ اسی وقت وہ لوگ تتر بتر ہو گئے اور سرِ آسمانی پھیل گئی۔ (سیرتِ مصطفیٰ ص ۲۴۹)

مے قرآن کریم میں ارشاد ہے : دھارِ میت اذِ میت وذلک اللہ دینی اور نبی پیکر آپ نے جس وقت کہ آپ نے پھینکی۔ لیکن اللہ نے پھینکی۔

اس حال سے سرگراں ہوا۔

”محرومِ علم“ عمرو کی ہلاکی

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اک بہنم برادری ہوئے کہ دو کم عمر لڑکے اُس بہنم کے ادھر ادھر آکر کھڑے ہو گئے۔ اک لڑکا اُس بہنم کے آگے ہوا اور کہا کہ اے عم! ہم کو دکھاؤ کہ ”محرومِ حکم“ کہاں ہے؟ بہنم کا لڑکوں سے سوال ہوا کہ کس لئے محرومِ حکم کو معلوم کر رہے ہو؟ کہا کہ ہمارا اللہ سے عہد ہے کہ وہ اللہ کا عدو دکھائی دے۔ اُس کو اسی دم مار ڈالوں اور اگر اللہ کا حکم دوسری طرح ہو، اللہ کی راہ کے لئے مَر کر کا مگاد ہوں گا۔ ہم کو اطلاع ملی ہے کہ وہ مردود اللہ کے رسول کو گالی دے کر مسرور ہوا۔ ہر اللہ سے عہد ہے کہ اگر وہ دکھائی دے سائے کی طرح اُس کے ہمراہ نہ ہوں اور لڑوں اور اُس کو ماروں۔ وہ بہنم اس لڑکے کی اس دلاوری اور رسول اللہ کی دلدادگی سے کمال مسرور ہوئے اور محرومِ حکم کو دکھا کے کہا کہ وہ اللہ کا عدو وہاں ہے۔ وہ دو لڑکے معًا ٹائروں کی طرح اُڑ کر محرومِ حکم کے لئے وہاں گئے اور اُس کی ٹوہ لگائے رہے۔ ہر دو سے اک لڑکا آگے آکر حملہ آور ہوا اور وہ مردود اُس کم عمر لڑکے کا وار کھا کر گھائل ہوا اور گھوڑے سے گرنا۔ محرومِ حکم کا لڑکا عکرمہ گھوڑا دوڑا کر آگے ہوا اور اک دار کر کے ولد عمرو کو گھائل کر کے لوٹا۔ ولد عمرو اس گھاؤ کو لئے ساری لڑائی لڑا۔ دوسرا کم عمر لڑکا، گھائل محرومِ حکم کے آگے آکر حملہ آور ہوا اور اس کو ادھر مارا کر کے لوٹا۔

۱۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف۔ ۲۔ یہ دونوں لڑکے عفرہ کے بیٹے معوذ اور معاذ بن عمرو تھے۔ عفرہ کے سات بیٹے تھے اور ساتوں غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ (سیرت مصطفیٰ ص ۵۳)

گمراہوں کا عسکر سردار اور سالار سے محروم ہوا۔ جو صلے سرور ہو گئے۔ اللہ والوں کا ڈر دلوں کو طاری ہوا۔ عسکر کے سارے لوگ ادھر ادھر ہو گئے اور مال کار جو صلہ ہار کر اور سارا مال لٹا کر وہاں سے سوئے مکہ دوڑ گئے۔ اللہ کے کرم سے اہل اسلام کو کامگاری حاصل ہوئی۔ گمراہوں کے عسکر طرار کو زبانی اور ہلاکی گلے کا ہار ہوئی اور اللہ والوں کو اللہ کے رسول کی سہمی و مددگاری کا عمدہ صلہ ملا۔

گمراہوں کے کل سامٹھ اور دس لوگ مع سرداروں کے مارے گئے اور اہل اسلام سے کل دو کم سولہ آدمی روح و دل سے اللہ کی گواہی دے کر اللہ کے گھر کو سداۓ سامٹھ اور دس گمراہ اہل اسلام کے محصور ہوئے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ معلوم کرو کہ عمر و محروم حکمِ مردہ ہے کہ سوئے مکہ رسوا ہو کر لوٹا ہے۔ رسول اکرمؐ کے ہمد و ولد مسعودؓ اس کی ٹوہ لگائے ادھر ادھر گھومے، محروم حکم گرد اور ابو سے اٹا ہوا ملا اور معلوم ہوا کہ وہ گھاؤ کے آلم سے کلاہ رہا ہے۔ ولد مسعودؓ اس سے اس طرح ہم کلام ہوئے۔

”اے اللہ کے عدو، رسوائی محلے کا ہار ہوئی را اور اللہ کے حکم سے ہلاک ہوا تمہارے عدو اللہ سر اٹھا کر سائل ہوا کہ لڑائی کا مال کس طرح ہوا؟ کہا کہ اللہ کے حکم سے اللہ والوں کو غلو حاصل ہوا اور گمراہوں کا عسکر رسوا ہو کر لوٹا۔ ولد مسعودؓ آمادہ ہوئے کہ اس کا سر الگ کر کے ہمراہ لے کر رواں ہوں۔ مگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا عدو ہم کلام ہوا اور کہا کہ اے ولد مسعودؓ! سردار کا سر ہے، اس کو مع گلے کے کاٹ کر الگ کر دو کہ وہ سارے کٹے ہوئے سروں سے الگ دکھائی دے

۱؎ شہداء بدر کی تعداد چودہ تھی۔ (امح السیر) ۲؎ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔

۳؎ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے کہا ”اخترنا للہ یا عدو اللہ“ اے اللہ کے دشمن اللہ نے تجھے رسوا کیا۔

اور دور سے لوگوں کو معلوم ہو کہ وہ اک سرور کا سر ہے۔

اللہ اللہ! اُس مردود کی وہ اکڑ کہ اس کڑے لمحے سرور کی ہی ہوس اس حد کی دہی کہ کٹے ہوئے سر کو سرور کی کا سودا رہا۔ مال کا دلد مسعود اس کا سر کاٹ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آئے اور کہا کہ:

”وہ اللہ کے عدو محروم حکم کا سر ہے۔“

ہادئی اکرم کو اس اطلاع سے کمال سرور ہوا اور کہا۔

”محمد ہے اُس اللہ کی کہ اسلام اور اہل اسلام کو اُس کے کرم سے علو حاصل ہوا۔“

اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عدو اور حاسد کہ ساری عمر رسول اکرم کی الم دہی کے لئے سعی رہا۔ دُسا ہو کر ہلاک ہوا اور اللہ کی سُن گائی ہوئی آگ اُس کا گھر ہوئی۔

رسول اکرم کا اہل اسلام کو حکم ہوا کہ سارے گمراہوں کے مردوں کو اکٹھا کھود کر مٹی ڈال دو۔ اسی طرح حکم ہوا کہ اک لحد کھودو اور اس معرکہ اسلام کے اول گواہوں کو مٹی دو۔

گمراہوں کا وہ مال کہ اہل اسلام کو اس لڑائی سے ملا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اکٹھا ہوا۔ اس مال کے لئے اہل اسلام کی دائے الگ الگ ہوئی۔ مگر اللہ کا حکم وارد ہوا کہ:

۱۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے جو عمر بنی کے حوالے سے ہے اور میرتِ مصطفیٰ ص ۵۶ سے لی گئی ہے۔ ۲۔ بعض روایات میں ہے کہ کفار کی لاشوں کو بدر کے کنوئیں میں ڈال دیا گیا۔ (حوالہ بالا)

”مالِ کامنگاری کے لئے لوگوں کا سوال ہو رہا ہے۔ کہہ دو کہ مالِ (کامنگاری) اللہ اور اُس کے رسول کا ہے۔“

ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم معرکہ گاہ سے سوئے معمورہ رسولؐ رواں ہوئے رسول اکرمؐ کا حکم ہوا کہ دو آدمی دوڑ کر ”سوئے معمورہ رسولؐ“ رواں ہوں کہ وہاں کے لوگوں کو اہل اسلام کی کامنگاری کی اطلاع ملے۔ اس امر کے لئے ولید و اوجہ اک اور مدو گار کے ہمراہ رواں ہوئے بعد اُسامہ راوی ہوئے کہ ہم کو اہل اسلام کی اس معرکہ سے کامنگاری کی اطلاع ماہِ صوم کی اٹھارہ کو ملی۔ اُسی لمحہ ہم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی اور ہدمِ داماد کی اہل کو مٹی دے کر اُٹے معلوم رہے کہ رسول اللہؐ کے ہدمِ داماد اور اسلام کے حاکمِ صوم رسول اللہؐ کے حکم سے رسول اللہؐ کی لڑکی کی دلہاری کے لئے معمورہ رسولؐ ہی رہے۔ اہل اسلام کو رسول اللہؐ کا حکم ہوا کہ ہدمِ داماد سے معرکہ اول کے کامنگار لوگوں کا سا سلوک ہو۔ اسی لئے معرکہ اول کے ”مالِ کامنگاری“ سے اُس کو دوسرے لوگوں کے مساوی حصہ ملا اور اللہ کی درگاہ سے وہ سارے احوال و اکرام ملے کہ اس معرکہ کے دوسرے لوگوں کو ملے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محدود لوگوں کو ہمراہ لے کر دوسرے اہل اسلام آگے سوئے معمورہ رسولؐ رواں ہو گئے اور عسکرِ اسلامی کے دوسرے لوگوں کو حکم ہوا

”مالِ کامنگاری: مالِ غنیمت۔ مالِ غنیمت کی تقسیم کے سلسلے میں اصحابِ بدر کا اختلاف ہو گیا۔ ہر گروہ کا کہنا تھا کہ ہم مالِ غنیمت کے حقدار ہیں: اس پر یہ آیت نازل ہوئی: یَسْمُوْنَ بِذِی الْقُلُوبِ الْغَافِلِ اللہ والہمبولہ رآب سے مالِ غنیمت کی بابت پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ مالِ غنیمت اللہ کا ہے اور اُس کے بولنے کا ہے) علیہ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ ہم حضرت رقیہؓ کو دفن کر کے لوٹے تو ہمیں فتح کی اطلاع ملی۔ (راجح السیر) علیہ حضرت عثمان غنیؓ رضی اللہ عنہ کی شدید بیماری کی وجہ سے مدینہ منورہ ہی رہ گئے تھے۔ مگر آنحضرتؐ نے اُن کو اصحابِ بدر ہی میں شمار فرمایا اور مالِ غنیمت میں اُن کا حصہ لگایا۔ (راجح السیر) :-

کہ وہ معرکہ اَوّل کے محصوروں کو ہمراہ لے کر رہا ہی ہوں۔

محصوروں سے رسول اللہ کا سلوک

اگلی سحر کو عسکرِ اسلامی، معرکہ اَوّل کے محصوروں کو لے کر معمورہٴ رسول کو ٹا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہوئی کہ سارے لوگ اکٹھے ہوں اور محصوروں کا معاملہ طے ہو۔ رسول اللہ کے حکم سے سارے لوگ اکٹھے ہوئے۔ حکم ہوا کہ لوگو محصوروں کے معاملے کے لئے رائے دو۔ مگر رسول اکرم کی رائے ہوئی کہ ”محصوروں سے عمدہ سلوک کرو“

عمر مکتوم کھڑے ہوئے اور رائے دی کہ اے رسول اللہ! سارے محصوروں کو ہمارے ڈالو، عمر مکتوم ساری عمر اللہ اور اس کے رسول کے اعداء کے لئے دھار دارِ حِسام کی طرح ہو کر رہے۔ مگر رسول اکرم کا دہرا کر کلام ہوا کہ:

”لوگو! اللہ کے حکم سے محصوروں کے امور کے مالک ہوئے ہو اس لئے سلوک سے کام لو“

عمر مکتوم دہرا کر کھڑے ہوئے اور وہی رائے دی۔
ہمد مکتوم کھڑے ہوئے اور کہا کہ:

”اے رسول اللہ! ہماری رائے ہے کہ محصوروں سے ”مالِ رہائی“ لے کر سارے لوگوں کو رہا کر دو۔ اللہ سے اس ہے کہ وہ اسلام لاکر گمراہوں کے آگے ہمارے مددگار ہوں۔“

لے حِسام: تنوار۔ ۱۱۵ آنحضرتؐ نے شروع میں فرمایا تھا کہ اللہ نے تم کو ان پر قدرت دی ہے اور کل یہ تمہارے بھائی تھے۔ منشا یہی تھا کہ ان سے حسن سلوک کرو۔

۱۱۶ مالِ رہائی: زبردیہ۔ ۱۱۷ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے اس لئے تھی کہ شاید یہ لوگ کسی وقت اسلام لے آئیں۔ :-

ہادی اکتہم ہمد مکرّم کی رائے سے مسرور ہوئے اور حکم ہوا کہ محصوروں سے مال
دہائی لے کر سارے لوگوں کو رہا کر دو۔

معلوم رہے کہ اُس ملک کا اور سارے ممالک کا عام معاملہ محصوروں سے اس
طرح کا رہا کہ سارے محصور اکٹھے کر کے مار ڈالے گئے۔ مگر رسول اللہ کے حکم سے محصوروں
سے اہل اسلام کا عمدہ سلوک ہوا اور نیکے والے اموال لے کر آئے اور محصوروں کو رہا
کر اکر لے گئے۔ مگر محصوروں کے کئی لوگ اس لئے محصور رہے کہ وہ مال و املاک
سے محروم رہے۔ اس طرح کے محصوروں کو حکم ہوا کہ وہ اہل اسلام کو لکھائی سکھا کر
رہا ہوں۔

وہ سارا عرصہ کہ محصور ”معمودہ رسول“ رہے۔ ہر محصور اک اک ہمد و مدد گار کے
حوالے ہوا اور ہمدوں و مددگاروں کا اس طرح کا عمدہ سلوک ہوا کہ ہمد کے حصے کا
طعام محصور کو ملا اور ہمد محروم طعام ہی رہا۔

مال رہائی کی وضوئی کی رائے

الحاصل محصوروں کے لئے ہمد مکرّم کی رائے طے ہوئی کہ محصوروں کو مال رہائی
لے کر رہا کر دو اور محصوروں سے اسی رائے کا عمل ہوا۔ اس رائے کا اصل مدعا
وہ احساس رہا کہ اگر محصور رہا ہو گئے، اُس ہے کہ وہ اسلام لا کر اہل اسلام کے حامی
ہوں گے۔ اس طرح اسلام کے کام کو سہارا لگے گا۔ مگر اس عمل سے کلام الہی وارد ہوا اور
اس سے اللہ کا مدعا دوسرا ہی معلوم ہوا۔ کلام الہی کا اصل اس طرح ہے :
”کسی بچول کے لئے وہ امر گوارا کہاں کہ لوگ اس کے لئے محصور ہوں رگوارا
ہے کہ، سارے محصوروں کو مار ڈالے۔ مگر لوگ اس عالم مادی کے
مال و املاک کے لئے آمادہ ہو گئے اور اللہ اُس عالم سرمدی کا ارادہ

کہ رہا ہے اور اللہ عادی اور حکم والا ہے۔ اُس مال سے کہ وصول ہوا
اللہ کے دُکھ والہ کے حصّہ دار ہوئے۔ مگر اللہ کا لکھا ہوا امر اُڑے
اُکھ رہا۔“

دراصل اس دھمکی والے کلام کے روئے کلام کے مورد وہ لوگ ہوئے کہ اس
عالم مادی کے مصالح کے لئے مالِ رہائی کی وصولی کے لئے عامل ہوئے۔ علماء کی
رائے ہے کہ معدود لوگ اس طرح کے رہے ہوں گے کہ حصولِ مال کا ارادہ کر کے
اُس رائے کے عامل ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عمرِ مکرم کی رائے مدعا ئے الٰہی
سے ملی ہوئی رہی۔

رسولِ اکرمؐ کے غمِ گرامی کہ مکہ مکرمہ ہی رہے اور کسی دُور سے اسلام سے دُور
رہے، وہ اور رسول اللہ کے داماد والدِ عاص محصور ہو کر معورۃ رسول لائے گئے۔
والدِ عاص کے اصرار اور حکم سے رسولِ اکرمؐ کی لڑکی مکہ مکرمہ ہی رہ گئی۔ اُس کو معلوم
ہوا کہ والدِ عاص محصور ہو گئے اور مالِ رہائی ادا کر کے رہا ہوں گے۔ کسی آدمی
کے ہمراہ گلے کا ہار سال کر کے کہا کہ والدِ عاص کا مالِ رہائی اس ہار سے ادا

۱۔ قرآنِ کریم کی آیتِ کریمہ یہ ہے: مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يَتَّخِذَ
فِي الْمَادِنَةِ فَرَجًا مِّنْ عَرَضِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔
(سورۃ الانفال) غیر منقوٰط اردو میں اس کا صرف مفہوم دیا گیا ہے۔ آیتِ کریمہ کا اصل ترجمہ یہ ہے:
”کسی نبی کے لئے یہ لائق نہیں کہ اُس کے پاس قیدی آئیں، یہاں تک کہ اُن کو قتل کرے اور زمین میں
اُن کا خون بہائے۔ تم دنیا کا مال و متاع چاہتے ہو اور اللہ آخرت کی مصلحت چاہتا ہے اور اللہ غالب
اور حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ مقدر نہ ہو چکا ہوتا تو اُس چیز کے بارے میں جو تم نے لی ہے، ضرور
تم کو بڑا عذاب پہنچتا۔ (ترجمہ از سیرتِ مصطفیٰ ص ۱۷۱)۔ ۲۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔

۳۔ حضرت زینبؓ کے شوہر ابوالعاص جو بعد میں اسلام لائے۔ (راج السیر) ❖

کر دو۔ والدِ عاص اس ہار کو لے کر رسول اللہ کے آگے آئے۔ رسول اکرمؐ اس ہار سے ملول ہو گئے۔ اس لئے کہ وہ ہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عروسِ مکرمہ مرحومہ کی ملک رہا۔ لوگوں سے کہا کہ اس ہار کو نکلے ہی لوٹنا دو کہ وہ ہار عروسِ مرحومہ کا ہے۔ اہل اسلام اس ہار کو اسی طرح لوٹنا کر مسرور ہوئے اور والدِ عاص رہا ہو کہ مکہ مکرمہ لوٹے۔ نکلے آکر والدِ عاص کے حکم سے رسول اکرمؐ کی لڑکی معمرہ رسول اکرمؐ والد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی اور والدِ عاص کئی سال ادھر اسلام لاکر ہمدم رسول ہوئے۔

معرکہ اول کے محصوروں سے اہل اسلام کا عمدہ سلوک دلوں کو موہ کر رہا کئی محصور رسول اکرمؐ کے سلوک سے اسلام لے آئے۔

اس سال کے دوسرے احوال

معركة الكدر | ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معرکہ اول سے کامگار لوٹے۔ ماہِ صوم کے اگلے ماہ معلوم ہوا کہ دو گروہ لڑائی کے ارادے سے اکٹھے ہوئے۔ رسول اکرمؐ دو سواہل اسلام کو لے کر سوئے "الکدر" رواں ہوئے۔ مگر گمراہوں کو معلوم ہوا کہ اہل اسلام کا عسکر آ رہا ہے۔ وہ سارے گروہ ڈر کے مارے ادھر ادھر ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الکدر آئے۔ وہاں آکر معلوم ہوا کہ لوگ ڈر کر گھروں کو رواں ہو گئے، اس لئے رسول اکرمؐ اہل اسلام کو لے کر سوئے معمرہ رسول لوٹ آئے۔

۱۔ مسلمانوں کے سلوک سے متاثر ہو کر کئی قیدی اسلام لائے۔ (صبح السیر اور تاریخ اسلام جلد اول) ۲۔ الکدر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک پانی کے چشمے کا نام ہے جہاں ایک بٹی آباد ہے۔

اک عِدوئے رسول کی ہلاکی | اسی ماہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
اک حاسد اور عِدو کی ہلاکی کا معاملہ ہوا۔

اک معتز اسرائیلی کہ سارے لوگوں سے سوا رسول اللہ کا عِدو نہ ہا۔ ہادئی اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کے لئے کلام مکروہ کا عادی نہ ہا اور لوگوں کو رسول اللہ کے لئے اُکسا
کے مسرور ہوا۔ اس کی مکروہ کلامی حد سے سوا ہو گئی۔ رسول اکرم کا کلام ہوا کہ
”کوئی ہے کہ ہمارے لئے اس مردود کا معاملہ حل کرے۔“

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اک مددگار سالم گھڑے ہوئے اور
کہا کہ اے اللہ کے رسول! اللہ سے مراد عِدہ ہے کہ اس مردود کو ہلاک
کروں گا۔ سالم معمورہ رسول سے سچ ہو کر رواں ہوئے۔ اس مردود کے گھرائے
اور وارہ کر کے اُس کو ہلاک کر ڈالا۔



۱۰ ابنی علفک یہودی (از سیرت مصطفیٰ ص ۵۲)

۱۱ حضرت سالم بن عمیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

اسرائیلی گروہ سے معرکہ اسلام

اُس کے مسطور ہوا کہ اعدائے اسلام کا اک گروہ معمورہ رسول کے کئی محلوں کا مالک رہا۔ اس گروہ کا دعویٰ رہا کہ وہ اللہ کے رسول موسیٰ کا گروہ ہے۔ مگر وہ دراصل اللہ کے سارے رسولوں کا عداوہ گروہ رہا۔

اسی سال کا دسواں ماہ آدھا ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گروہ کے محلے آئے اور سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا۔

”اے اسرائیلی گروہ! اللہ سے ڈرو، اہل مکہ کے گمراہوں کے لئے اللہ کے گھر سے دعویٰ وارد ہوئی، ڈرو کہ اسی طرح کا معاملہ اس گروہ سے ہو، اس لئے اسلام لے آؤ۔ سارے لوگوں کو کھلی علم ہے کہ اللہ کا رسول ہوں۔ کلام الہی کے حامل ہو اور اس امر کی گواہی وہاں لکھی ہوئی ہے اور اس رسول کے لئے اس گروہ کا اللہ سے عہد ہے۔“

مگر اس گروہ کے لوگ کھلم کھلا عداوت ہوئے اور کہا کہ ہمارا حال مکے والوں سے الگ ہے۔ رسول اکرم وہاں سے لوٹ آئے۔

اُس کے مسطور ہوا ہے کہ ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے احوال و اعلام سے اس گروہ کو معلوم رہا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی وہ رسول موعود ہے کہ اُس کے لئے رسولوں کو اطلاع دی گئی۔ مگر گروہی احساس اس گروہ کے اڑے اُکرا اُس کو راہ ہدیٰ سے محروم کر کے رہا۔

محرکہ اول سے اہل اسلام کی کامکاری سے وہ گروہ رسول اکرم کا اور سوا
 حاسد اور عداوت نہوا۔ ادھر مکاروں کے گروہ کا سردار مسلسل ساعی رہا کہ سارے گروہوں
 کو رسول اکرم کے معاہدے سے روگرداں کر کے اُگسائے۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم کی سعی رہی کہ سارے گروہ صلح و سلوک کے عادی ہوں۔ اس امر کے لئے
 رسول اکرم ہر بہر محنت آئے اور ہر بہر گروہ کے لوگوں کو کہا کہ معاہدہ اول کی دوسرے
 سارے لوگ مل کر رہو۔ وہی آرام اور صلح کی راہ ہے۔ مگر اُس گروہ کے لوگ ہوس و
 حسد کی راہ لگے رہے اور معاہدہ اول سے عملاً روگرداں ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم کو اس اطلاع سے دکھ ہوا اور اسی لئے اس گروہ کے اُگے آکر مسطورہ
 کلام کہا۔

ادھر اسی ماہ اک اور اُس طرح کا ہوا کہ اک مددگار مسلمہ کسی کام سے اس گروہ
 کے محلے آئی۔ اس گروہ کے لوگ اُس کے گرد ہوئے اور اس کو طرح طرح سے دُسا
 کر کے مسرور ہوئے۔ ادھر اُسی لمحہ اک مددگار رسول آ گئے اور اس مسلمہ کی رسوائی کا
 حال معلوم کر کے اُس کے حامی ہو گئے۔ گروہ کے لوگ اکٹھے ہوئے اور حملہ کر کے
 اُس مددگار رسول کو مار ڈالا۔ اور گرد کے دوسرے مسلموں کو اطلاع ملی، وہ سارے
 وہاں آکر اکٹھے ہو گئے۔ گروہ کے لوگ مسلح ہو کر آ گئے اور لڑائی کا سلسلہ ہوا۔
 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی۔ ہادی اکرم، ہمدیوں اور
 مددگاروں کو لے کر وہاں ہوئے۔ عزمِ مکرّم عسکرِ اسلام کے علمدار ہوئے۔ وہاں
 آکر معلوم ہوا کہ وہ گروہ لڑائی کے لئے مسلح ہوا ہے۔ اہل اسلام کو لڑائی کا حکم

۱۔ اس واقعہ کی تفصیل تاریخ اسلام جلد اول سے لی گئی ہے ص ۱۶۶۔

۲۔ معمولی جھڑپ اور لڑائی کی روایت تاریخ اسلام سے لی گئی ہے۔ لیکن سیرت مطلقہ میں مرن
 اتنا ہے کہ بنو قینقاع گھروں میں محصور ہو گئے۔ (نمودی) ❖

ہوا۔ معمولی لڑائی لڑ، کے اہل اسلام حاوی ہوئے اور اُس گروہ کے لوگ گھروں اور محلوں کے کواڑ لگا کر محصور ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ اللہ والوں کا گروہ اس محلے کا محاصرہ کر کے وہاں رہے۔ اہل اسلام کا وہ محاصرہ آدھے ماہ رہا۔ مال کا گروہ کے لوگ اس محاصرے سے کمال مرگراں ہوئے اور دل کو ڈر لگا کہ وہ سارے لوگ ہلاک ہوں گے۔ اس لئے رائے ہوئی کہ اسلحہ ڈال دو۔ اس طرح اللہ کے حکم سے اُس گروہ کی ساری اکثر دُشوائی ہو کر نکل گئی اور وہ سارے لوگ اہل اسلام کے آگے آکر محصور ہوئے۔ اس گروہ کے کل محصوروں کا عدد سو کم آٹھ سو رہا۔

گروہ کے لوگوں کو احساس ہوا کہ عام معمول کی رو سے اس گروہ کے لئے حکم ہو گا کہ سارے لوگوں کو مار ڈالو۔ مگر ولید سلول، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آکر محصوروں کے لئے رحم و کرم کا سائل ہوا۔

اک مددگار رسول کو حکم ہوا کہ وہ محصوروں کے محلے کا حکم ہو۔ اس مددگار رسول کا حکم ہوا کہ وہ سارا گروہ معمورہ رسول سے رواں ہو کر کسی اور محلے کے لئے راہی ہو۔ اس طرح وہ سارا گروہ معمورہ رسول سے دُشوا ہو کر راہی ہوا اور اہل اسلام اس گروہ اعداء کے مکروہ ارادوں اور غلوں سے رہا ہوئے۔

۱۰ حضرت عبادہ بن صامت قبیلہ خزرج کے آدمی تھے اور قبیلہ خزرج ان یہودیوں کا حلیف تھا، اس لئے عبداللہ بن ابی منافق اور حضرت عبادہ بن صامت نے اُن کی سفارش کی۔ آپؐ نے ان لوگوں کا فیصلہ انہی لوگوں کے سپرد کر دیا۔ حضرت عبادہ بن صامت کا حکم ہوا کہ بنو قریظہ مدینہ منورہ سے جلا وطن ہو کر کہیں اور چلے جائیں۔

راج السیر، تاریخ اسلام، سیرت مصطفیٰ (ص ۵۲۲) :-

اہل مکہ کی ایک اور کارروائی

اُدھر اہل مکہ کے لئے اہل اسلام کی کامگاری کی اطلاع اک دھماکہ ہو کر آئی۔ اس اطلاع سے گھر گھر کرام اُٹھا اور مکے کا سارا ماحول سوگوار ہوا۔ رُسوائی کے احساس سے اہل مکہ کے دل سلگ اُٹھے اور ہر آدمی سرگرم ہوا کہ اہل اسلام سے اس رُسوائی کا صلہ لے۔

مکے کا وہ سردار کارواں کے مکے والوں کا کارواں لے کر مکے لوٹا۔ اوروں سے مبرا اُس کو اس رُسوائی کا ملال ہوا اور وہ عہد کر کے اُٹھا کہ بہر حال اہل اسلام سے لڑے گا اور اہل اسلام کے لئے کوئی صدمہ لائے گا۔ اس عہد کے کمال سے ادھر اس کے لئے حرام ہو گا کہ وہ سر کو دھوئے بیٹھ

معرکہ اَدل سے دو ماہ اُدھر وہ سردار دوسو آدمی لے کر لڑائی کے ارادے سے معمورۂ رسول کے لئے رہا ہی ہوا اور لوگوں کو اس مہم سے لاعلم رکھا۔ معمورۂ رسول آکر وہ سلام کے ہاں ٹھہرا اور اگلی سحر کو دوسو آدمی ہمراہ لے کر معمورۂ رسول کے بیرے اک محفلے کا محاصرہ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مددگاروں کو مار ڈالا اور وہاں کے لوگوں کے اموال کو آگ لگا دی۔

یہ غزوہ بدر میں قریش کی تباہ حالی کو دیکھ کر ابوسفیان نے قسم کھائی کہ جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہ کرے گا، سر کو پانی نہ لگائے گا۔ اسی قسم کو پورا کرنے کے لئے وہ مدینہ منورہ روانہ ہوا اور غزوہ سویقیہ پیش آیا۔

یہ سلام بن ششم۔ (اصح السیر ص ۱۴۳)

تھے ان دونوں میں سے ایک سعید بن عمرو انصاری تھے اور ایک اُن کے ساتھی۔ :-

اور اس طرح ٹوٹ مار کر کے وہاں سے راہی ہوا۔

ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اُس کی اطلاع ہوئی۔ وہ محدود لوگوں کو ہمراہ لے کر اُس سردار سے لڑائی کے ارادہ سے راہی ہوئے۔ وہ سردار راہ کے اک محل آکر رُکا، وہاں اُسے معلوم ہوا کہ ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل اسلام کو ہمراہ لے کر معرکہ آرائی کے لئے معمورہ رسول سے راہی ہوئے۔ سردار مکہ کا دل دھڑک اُٹھا۔ اُسی لمحہ لوگوں کو حکم ہوا کہ لوگو! دوڑو۔ اہل اسلام کی اک مہم ہمارے لئے ادھر آ رہی ہے۔ لوگوں کے حواس گم ہو گئے۔ وہ سارے وہاں سے سوار ہو کر دوڑے کہ کسی طرح اہل اسلام کے حملوں سے دور ہوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکرر آکر رُکے۔ وہاں معلوم ہوا کہ مگر یہوں کا گروہ سوئے مکہ مکرر لوٹا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل اسلام کو لے کر معمورہ رسول لوٹ آئے۔

معرکہ اول کا سارا سال اور دوسرے سال کے کئی ماہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے معرکہ آرائی اور مہموں کا سلسلہ رہا۔ ولید سلول مکہ کی گروہ کا سردار دل سے اہل اسلام کا عدو رہا۔ مگر صوری طور سے اہل اسلام کے آگے مسلموں ہی کی طرح رہا۔

وہ ہر لمحہ ساعی رہا کہ اہل اسلام کا غلو کسی طرح سے کم ہو۔ اس لئے ارد گرد کے گروہوں سے ملا اور اہل اسلام سے وہاں کے لوگوں کو لڑائی کے لئے اکس کر لوٹا۔

اس طرح ارد گرد کے امصار کے لوگ گاہے گاہے مراٹھا کر لڑائی کے لئے آمادہ ہوئے۔ مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا کہ ادھر کوئی گروہ لڑائی کے لئے آمادہ ہوا اور ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

اہل اسلام کو ہمراہ لے کر معرکہ آرائی کے لئے اُس مہر کو راہی ہوئے۔ اس عمل سے عام طور سے اسی طرح ہوا کہ اس طرح کے گروہوں کے دل ڈر گئے اور وہ اہل اسلام کی ہر مہم کی اطلاع سے ادھر ادھر ہو گئے اور اس طرح کم ہی ہوا کہ کسی گروہ کو لڑائی کا حوصلہ ہو اور اگر اکاؤنٹ لڑائی ہوئی، اُس لڑائی کا مال سداہل اسلام کی کامگاری ہی ہوا۔^{۱۰}



۱۰ غزوہ بدر کے اور اُحد کے درمیانی عرصے میں کم از کم پانچ چھوٹے چھوٹے غزوے پیش آئے۔ بنو قینقاع، غزوہ سولین اور غزوہ قرقرہ الکر کا مختصر حال ہم نے لکھا۔ اسی طرح اس سال کئی سرسے پیش آئے۔ سرینہ عبداللہ بن جحش، سرینہ عمیر بن اور سرینہ سالم۔

(سیرت خاتم الانبیاء صفحہ ۱۰)

معرکہ اُحد

اہل مکہ کے دلوں کی وہ آگ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا ئے ”اللہ احد“ سے سُلگی۔ معرکہ اول کی رسوائی سے وہ آگ دھک اُٹھی اور گھر گھر کمر اُٹھا، مکہ مکرمہ کی گلی گلی سوگوار ہو گئی۔ مکے والوں کے کئی سردار مارے گئے۔ لے دے کر وہی اک سردار رہا کہ کارواں لے کر مکہ مکرمہ لوٹا اور عہد کے اکمال کے لئے دو مددگاروں کو مار کر سونے مکہ لوٹا۔

معرکہ اول ہی کے ماہ سے اُس کا امداد رہا کہ وہ اہل اسلام سے اک اور لڑائی لڑ کر معرکہ اول کی رسوائی کا صلہ حاصل کرے گا۔ اس کے لئے وہ سارا سال سرگرمی اور دلولے سے لڑائی کے لئے مال اور اسلحہ کے حصول کے لئے ساعی رہا۔ مکے کے سرکردہ لوگوں کو اکٹھا کر کے رائے دی کہ وہ سارا مال کہ کارواں سے حاصل ہوا ہے، اس مہم کے لئے اکٹھا ہو اور سارے حصہ دار آمادہ ہوں کہ وہ حصہ مال دے کر اُس سے لڑائی کے لئے اسلحہ مول لے کر معمرہ رسول حملہ آور ہوں۔ سارے مال والے اس رائے کے حامی ہو گئے۔ طرح طرح کا اسلحہ اس مال کی مدد سے اکٹھا ہوا۔ وہ سردار بدگرد کے گروہوں سے آکر ملا اور سارا مدعا کہا اور اہل مکہ کی اس مہم کی امداد کا وعدہ کئی گروہوں سے لے کر لوٹا۔ اس کے علاوہ کئی گروہوں سے معاہدہ ہوا کہ وہ اس معرکہ کے لئے اہل مکہ کے حامی ہوں گے۔ وہ سارے معاہدہ گروہ لڑائی کے لئے آمادہ اور مستعد ہو کر مکہ مکرمہ آ گئے۔ سرداروں کی رائے ہوئی کہ مکے کے سارے موالی ہمراہ ہوں۔ اس طرح اہل

مکہ کا اک ٹڈی دل اہل اسلام سے لڑائی کے لئے آمادہ ہوا۔
 اُدھر معمورہ رسول کے اسرائیلی گروہ سے معاملے طے ہوئے۔ سردار کارواں
 اس عسکرِ طرار کا علمدار ہوا اور ماہِ صوم سے اگلے ماہ وہ اس عسکر کو لے کر
 سوئے معمورہ رسول راہی ہوا۔ اس عسکر کے علمدار کی گھروالی اُس کے ہمراہ ہوئی۔
 اور ولدِ مطعم کے ایک مملوک سے اُس کا معاملہ طے ہوا کہ اگر وہ مملوک رسول اللہ
 کے عمِ اسد اللہ کو مار ڈالے۔ ہر طرح کے اموال کا مالک ہوگا۔ اس لئے کہ اُس کا
 والدِ معرکہ اولیٰ کے سال عمِ اسد اللہ ہی کے وار سے راہی ملکِ عدم ہوا۔

عمِ گرامی کا مہر

رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عمِ گرامی کہ مکہ مکرمہ ہی رہے اور
 معرکہ مکہ کے سال اسلام لائے۔ ساعی ہوئے تھے کسی طرح رسولِ اکرم کو اس عسکر
 کی آمد کا حال معلوم ہو۔ اک آدمی سے معاملہ طے ہوا کہ وہ عمِ گرامی کا اک
 مراسلہ لے کر معمورہ رسول کے لئے راہی ہو اور وہاں اک رسولِ اکرم کو اس
 کی اطلاع دے۔ وہ آدمی ہوا کی طرح سواہ ہو کر مکہ مکرمہ دوڑا اور وہاں اک
 رسولِ اکرم کو اُس کی اطلاع دی۔

۱۔ مفسرین کا خیال ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیت اسوٰیجے میں نازل ہوئی: اِنَّ الدِّينَ
 كَفْرًا وَيَنْفَقُونَ اَمْوَالَهُمْ لِيُمَتَّعُوا بِهَا سُبُلَ اللّٰهِ ۝ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے
 مال کو اس لئے خرچ کیا کہ تھے کہ اللہ کے راستے سے روکیں، اِنَّ السَّيْرَ وَمِثْرَ مِصْطَفٰی ۝
 ۲۔ ہند بنتِ عتبہ: ابوسفیان کی بیوی

۳۔ حضرت جبیر بن مطعم کے غلام وحشی کو مال کا لالچ دے کر آمادہ کیا کہ وہ حضرت حمزہؓ
 کو مار ڈالے۔ ۴۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ ۵۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔

دو مددگاروں کو حکم ہوا کہ سوئے اعداء دوڑ کر رہیں ہوں کہ معلوم ہو کہ عسکر اعداء راہ کے کس مرحلے ہے۔ وہ ہر دو دوڑ کر گئے اور اکرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ گمراہوں کا عسکر طرہ معمولہ رسول سے کئی مرحلے اُدھر آ رہا ہے۔ اک اور مددگار سوئے اعداء گئے کہ گمراہوں کے عسکر کا اصل عدد اور اسلحہ کا حال معلوم ہو۔ وہ مکمل حال سے آگاہ ہو کر لوٹے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔

اس اطلاع سے آگاہ ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دلدادہ اور مددگار سعد اول اور سعد دوم مسیح ہو کر حرم رسول آ گئے اور رسول اکرم ص کے گھر کے در کے آگے مسیح کھڑے رہے کہ عسکر اعداء کا ہر آدمی ہادی اکرم ص سے دور رہے۔

رسول اللہ اور مسلمانوں کی رائے

اکلی سحر طلوع ہوئی۔ ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ ہندوؤں اور مددگاروں کے اہل الرائے لوگ اکٹھے ہوں۔ حکیم رسول بلا اور سادے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ سادے لوگوں سے سوال ہوا کہ اس معرکے کے لئے لوگوں کی رائے کس طرح ہے۔ معمولہ رسول کے وہ ولولہ کا اور کم عمر لوگ کہ معرکہ اول کے سال ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی سے محروم رہے، کھڑے ہوئے اور رائے دی کہ رسول اکرم ص اہل اسلام کو لے کر سوئے اعداء راہ رہیں ہوں۔ اور معمولہ رسول سے دور ہو کر عسکر اعداء سے لڑائی ہو۔ مگر رسول اکرم ص کی رائے

۱۔ یہ دونوں مسلم جاسوس حضرت انس اور حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہما تھے۔ (سیرت مصطفیٰ جامع البیہ)
۲۔ حضرت جابر بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ۳۔ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما۔ (حوالہ بالا) ❦

ہوئی کہ عسکرِ اسلامی معمورہ رسول رک کر ہی عسکرِ اعداء کی آمد کے لئے آمادہ رہے اور وہاں رہ کر ہی معرکہ آرائی ہو۔ ولید سلول مکتاروں کے گروہ کا سردار رسول اکرم کا ہم رائے ہوا۔ مگر وہ کم عمر لوگ نہیں ہوئے کہ عسکرِ اسلامی معمورہ رسول سے راہی ہو اور آگے کسی مرحلے پر عسکرِ اعداء سے معرکہ آراء ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دہم ہمدیوں اور مددگاروں سے ہم کلام ہوئے اور کہا کہ:

» ہم کو سونے ہوئے اک حال اس طرح مطالعہ ہوا ہے کہ لوہے کی صدی اوڑھے ہوئے ہوں اور اک گائے ہے کہ کٹ رہی ہے۔
اس حال کی مراد اس طرح ہے کہ ”معمورہ رسول“ لوہے کی صدی ہے اور گائے کی کٹائی سے مراد ہے عسکرِ اسلام سے کئی لوگ اللہ کی راہ کے لئے روح و دل ہار کر اللہ کے گھر کو راہی ہوں گے۔

کم عمر حوصلہ آوروں کا وہ اصرار اس ارادے سے ہوا کہ وہ لوگ اُس اکرام سے مالا مال ہوں کہ معرکہ اول کی لڑائی سے اہل اسلام کو حاصل ہوا۔ کئی اور لوگ کم عمروں کی رائے کے حامی ہو گئے۔ اس رائے کو حاصل کر کے ہادی اکرم وہاں سے اٹھ کر گھر آ گئے۔

ادھر لوگوں کو احساس ہوا کہ رسول اکرم کو اس اصرار سے دکھ ہوگا۔ مددگار رسول سعد کھڑے ہوئے اور کہا کہ

» اے لوگو! اللہ کے رسول سے اس طرح کا اصرار اک مکروہ امر ہے، ہم کو معلوم ہے کہ اللہ کا رسول موردِ رحمتی ہے اور اللہ کے رسول کو وحی

لے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میں زرہ میں ہوں اور ایک گائے ذبح کی جا رہی ہے اور ساتھ ہی تعبیر بھی دی کہ زرہ مدینہ منورہ ہے اور اس جہاد میں کچھ مسلمان شہید ہوں گے۔ (سیرت مصطفیٰ ج ۱ ص ۷۷) ﷺ حضرت سعد بن معاذ رضی

بچے واسطے سے اصل رائے معلوم ہوگی۔ اس لئے سارے لوگوں سے
 اہم اللہ کے رسول کی رائے ہے۔“
 اس کلام سے دوسرے لوگوں کو احساس ہوا ہمارا وہ امر الہادی اکرم کو گراں
 معلوم ہوا ہوگا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے مسلح ہو کر گھر کے آگے آئے۔ سارے ہمد
 اور مددگار آگے آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول! رسول اللہ کے آگے ہماری
 رائے کا امر اکابر مکروہ ہے۔ اللہ کے رسول کی رائے ہی ہم سبوں سے مکرم
 ہے۔ اس لئے ہم سارے مل کر اللہ کے رسول کی رائے کے عامل ہوں گے۔
 کہا کہ اللہ کے رسول کے لئے مکروہ ہے کہ وہ لڑائی کے ارادے سے اسلحہ
 لگا کے اسلحہ سے الگ ہو۔ اس لئے اللہ کی مدد کے سہارے بیٹھے اعداء راہی
 ہوں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے عامل ہوئے، اللہ کے حکم سے
 کامگاہ ہو گئے۔

معمورہ رسول کے ہر دو گروہ کے مددگار اور رسول اکرم کے ہمد
 سلامی علم الگ گروہ مل کر معرکے کے لئے آمادہ ہوئے۔ اس لئے رسول اللہ
 کے حکم سے ہر گروہ کے لئے الگ الگ علم ہوا۔ گروہ اوس کا علم اک مددگار
 رسول کو ملا اور اک علم معمورہ رسول کے دوسرے گروہ کے اک مددگار کو ملا اور
 رسول اللہ کے ہمدوں کا علم علی کثرۃ اللہ کو عطا ہوا۔ مگر دوسرے کئی علماء سے
 مروی ہے کہ ہمدوں کے علمدار رسول اکرم کے وہ ہمد ہوئے کہ وداغ مکہ سے
 اُدھر ہی معمورہ رسول کے لوگوں کے معتمد ہو کر معمورہ رسول آئے۔ اس طرح اللہ
 نے قبیلہ اوس اور خزرج کے اوس کا علم حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ (صحیح البیہق)
 حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ عنہ

والوں کا اک عسکر مسلح ہو کر معرکہ آزادی کے لئے آمادہ ہوا۔

ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکتادوں کے گروہ کے کئی سو آدمی لڑائی کے لئے آمادہ ہوئے۔ معمورہ رسول سے راہی ہو کر کوہ اُحد اور معمورہ رسول کے وسط اک محل آکر رُکے۔ وہاں اکرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ کم عمر لڑکے سوئے معمورہ رسول راہی ہوں۔ رسول اکرمؐ کے حکم سے سولہ اور اک لڑکے عسکرِ اسلامی سے الگ کئے گئے۔ اس لئے کہ لڑکوں کی عمر سولہ سے دو سال کم رہی۔

مکتادوں کی اک اور کارروائی

مکتادوں کا گروہ کہ اہل اسلام کے آگے آکر سدا اسلام کا دعوے دار رہا اور اہل اسلام سے الگ ہو کر دل سے رسول اللہ اور اسلام کا عدو رہا۔ اس گروہ کے کئی سولہ لوگ اس لئے عسکرِ اسلامی کے ہمراہ ہوئے کہ اگر وہ معرکے سے الگ رہے، لوگوں کو اس گروہ کی مکاری کا علم ہوگا۔ مگر دل سے وہ گمراہوں کے عسکر کے حامی رہے۔ اس گروہ کا سردار ولید سلول کوہ اُحد سے ادھر اک مرحلے آکر گروہ کے سارے لوگوں کو لے کر الگ ہوا اور کہا کہ ہم اس معرکے سے اس لئے الگ ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لڑکوں کی رائے کے عامل ہوئے اور ہمدانی رائے رد کی گئی۔ دراصل اس گروہ کا مقصد اس امر سے اس طرح رہا کہ اگر ہم عسکرِ اسلامی سے الگ ہو کر معمورہ رسول لوٹ گئے۔ دوسرے اہل اسلام اسی طرح عسکرِ اسلامی سے ٹوٹ کر الگ ہوں گے۔ اس طرح مکتادوں کا گروہ عسکرِ اسلامی

لے مقامِ یحنین میں سترہ صحابی ایسے تھے جن کی عمر تیرہ یا چودہ برس تھی۔ ان دو لڑکوں سمرہ اور زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے علاوہ سب آنحضرتؐ کے حکم سے مدینہ منورہ لوٹا دیئے گئے۔

سے سوئے معرکہ رسول لڑتا۔ اس امر سے اہل اسلام کو دکھ ہوا اور عسکرِ اسلامی سے کئی سولہ گوں کی کمی ہر آدمی کو محسوس ہوئی۔ اہل اسلام کا عدد مکتاروں کو کم کر کے سو کم آٹھ سو رہا۔

مگر اللہ والوں کے اس گروہ کا سہارا اللہ اور اس کا رسول ہی رہا اور وہ اُسی حوصلے اور ولولے سے معرکہ آرائی کے لئے آمادہ رہے۔ کوہِ اُحد سے اُدھر اک محلِ رسول اللہ کے حکم سے عسکرِ اسلامی کی آرام گاہ ہوا۔ مکتاروں کی اس کارروائی کے مکمل حال کے لئے کلامِ الہی وارد ہوا۔

اگلی سحر طلوع ہوئی اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ عسکرِ اسلامی سوئے اُحد رہا ہی ہو۔ کوہِ اُحد کے آگے اگر معلوم ہوا کہ گمراہوں کا عسکر کوہِ اُحد کے اُدھر وارد ہو کر آرام کر رہا ہے۔

رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ عسکرِ اسلامی کوہِ اُحد کے آگے دھوکا کر کے آرام کرے اور اگلی سحر کی لڑائی کے لئے آمادہ رہے۔ رسولِ اکرم کے دلدادہ اللہ کے رسول کی آرام گاہ کے آگے مسلح ہو کر کھڑے رہے کہ اللہ کا رسول اعدائے اسلام کی ہر کارروائی سے دور ہو کر آرام کرے۔

اگلی سحر طلوع ہوئی رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ عسکرِ اسلامی لڑائی کے لئے آمادہ رہے۔ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معرکہ گاہ کا مطالعہ کر کے لوٹے۔ کوہِ اُحد سے ہٹی ہوئی اک گھاٹی کے لئے رسولِ اکرم کی رائے ہوئی کہ وہاں عسکرِ اسلامی کا اک رسالہ مسلح ہو کر ٹھہرا رہے۔ اس لئے کہ اس گھاٹی سے ڈر رہے کہ گمراہوں کا کوئی رسالہ آگے آکر حملہ آور ہو اور اہل اسلام کے لئے کوئی مسئلہ کھڑا ہو۔

اس لئے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عسکرِ اسلامی سے کوئی

اُدھے سولوں اس طرح کے الگ کئے گئے کہ ”سہام کاری“ کے ماہر رہے اور وہ سارے لوگ مامور ہوئے کہ وہ اس گھاٹی کے آگے ہر حال مسلح رہ کر کھڑے ہوں۔ اک مددگار رسول کو اس گروہ کی سرداری ملی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس گروہ کے لئے کمال اصرار ہوا کہ لڑائی کا کوئی مرحلہ اور کوئی حال ہو، وہ گروہ اُسی گھاٹی کے آگے کھڑا رہے۔

رسول اللہ کے ولیدؓ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس گروہ سے کلام ہوا کہ:

”لوگو! ہر حال اس گھاٹی کے آگے کھڑے رہو اور ہماری مدد کرو۔ اگر اہل اسلام ہلاک ہوں، اسی گھاٹی کے آگے رہو اور اگر معلوم ہو کہ عسکرِ اسلامی کو کامگاری ہوئی اور وہ گمراہوں کا مال اکٹھا کر رہا ہے اسی گھاٹی کے آگے کھڑے رہو۔“

اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مامور ہو کر عسکرِ اسلامی کا وہ حصہ مسلح ہو کر اُس گھاٹی کے آگے کھڑا ہوا۔

حُصَمِ رُسُولٍ

عسکرِ اسلامی ہر طرح لڑائی کے لئے آمادہ ہو کر کھڑا ہوا اور رسول اکرم کے حکم کی اس لگائی کہ ادھر لڑائی کا حکم ہو اور ادھر اللہ اور اُس کے رسول کے

لئے سہام عربی میں تیر کو کہتے ہیں، سہام کاری سے مراد تیر اندازی ہے۔ آنحضرت کے حکم سے پچاس تیر انداز گھاتی پر متعین کئے گئے تاکہ مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ نہ ہو۔ ۱۵ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔

۱۵ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم کو قتل ہوتے ہوئے دیکھو تو ہماری طرف نہ آنا، اگر مالِ غنیمت حاصل کرتے ہوئے دیکھ لو تو اس میں شریک نہ ہونا۔ (سیرت مصطفیٰ ص ۵۴) ۱۵

دلدادہ رُوح و دل لے کر اللہ کی راہ معرکہ آرائی کر کے اللہ کے آگے کامگار ہوں۔ ہر دل کو اُس لگی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے لڑ کر سرکٹائے اور لہو لہو ہو کر اللہ کے گھر کو سدھارے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اک حسام لے کر عسکرِ اسلامی کے آگے آئے اور اس طرح ہم کلام ہوئے۔

”کوئی ہے کہ اس حسام کو لے کر اس کا حقہ ادا کرے۔“

(لکھنا واہ وسلم)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلدادہ ہمدیوں اور مددگاروں کے دل دھڑک اُٹھے اور ہر کوئی ساعی ہوا کہ وہ اس حسام رسول کا حامل ہو۔ مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رُکے رہے۔

رسول اللہ کے اک مددگار کھڑے ہوئے اور کہا کہ :

”اے رسول اللہ ! اس حسام رسول کا حقہ کس طرح ہے ؟“

کہا کہ :

”اس کا حقہ ہے کہ اس سے اللہ اور اُس کے رسول کے اعداء کو مارے

اور اس کو ہر امرِ مکروہ سے دُور رکھے۔ اس امر سے دُور

رہے کہ اس سے کوئی مُسلم ہلاک ہو اور کسی عدو کے آگے سے

۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”مَنْ يَأْخُذْ هَذِهِ السَّيْفَ بِحَقِّهِ كُنْ هُوَ اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لے۔ (سیرت مصطفیٰ ص ۵۴۵)

۲۔ حضرت ابو جابر رضی اللہ عنہ جو بہت بہادر تھے اور لڑائی کے وقت اُن پر ناز و انداز اور سُرکری سی کیفیت طاری ہوتی تھی۔

اُس کو لے کر رُودگرداں ہو۔

وہ مددگار سرورِ دل سے آگے آئے اور کہا:

”اے اللہ کے رسول! اس حسام کا حقہ ادا کروں گا۔“

اس طرح وہ حسام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اُس مددگار کو ملی۔
اُس مددگار رسول کو اس عطائے رسول سے کمال سرور ہوا اور معرکہ اُحد کا
سارا عرصہ اس اللہ والے کو اک سکر کا ساحل طاری ہوا اور حسام رسول کو لے کر
وہ اعدائے اسلام کے آگے دلاوری سے اُڑ کر آگے آئے اور سارا عرصہ اس طرح
معرکہ اُراء رہے کہ گمراہوں کے دل اُس کی لڑائی اور اُس کے حلوں کی دھاک سے
ڈرے رہے۔



۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ اس سے خدا کے دشمنوں کو
مارے۔ یہاں تک کہ خم ہو جائے۔ اور کسی مسلمان کو قتل نہ کرے اور اس کو لے کر کسی کفار
کے مقابلے سے فرار نہ ہو۔ (سیرت مصطفیٰ ص ۴۵۵)

معرکہ عام سے اول کے احوال

ہر دو عسکر اک دوسرے کے آگے آکر لڑائی کے لئے آمادہ ہوئے۔ اُدھر اعدائے اسلام کا اک عسکر طرزِ ادھر طرح کے اسلحہ سے مسلح اور ادھر اللہ والوں کا وہ محد و عسکر کہ ہر طرح اعدائے اسلام سے کم عدد اور کم مسلح مگر اہل اسلام کے دل اللہ اور اُس کے رسول کی ہمراہی اور معرکہ اسلام کے اس اکرام سے مسرور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعاؤں کے سہارے اعدائے اسلام کے آگے آکر ڈٹ گئے۔

والدِ عامر کی اک مکروہ سعی

والدِ عامر کہ اسلام کی آمد سے اُدھر گمروہ اوس کا سردار رہا اور معبودہ رسول کے لوگوں کے لئے مکرم ہو کر رہا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معبودہ رسول "آمد سے اُس کی سرداری اور اکرام کا معاملہ سرد ہو گیا۔ وہ وہاں سے رہا یہی ہو کر اہل مکہ سے آ ملا اور اہل مکہ کے ہمراہ ہو کر طرح طرح سے سعی ہوا کہ اسلام کی راہ رو کے۔ اُس کے دل کو اُس ہوئی کہ گمروہ اوس کے لوگ اُس کی لشکار اور صد اکو مسموغ کر کے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے الگ ہو کر اُس کے ہمراہ اور اُس کے حامی ہوں گے۔ اسی اُس کو لئے ہوئے سارے

۱۔ ابو عامر راہب یا فاسق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ مکے والوں سے کہا کہ قبیلہ اوس کے لوگ مجھ کو دیکھ کر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ساتھ چھوڑ کر میرے ساتھ ہو جائیں گے۔ (حوالہ بالا) ❖

لوگوں سے اول والدِ عامر ہی عسکرِ اعداء سے آگے آکر کھڑا ہوا اور کہا کہ
 ”اے گروہِ اوس! والدِ عامر ہوں“ مگر گروہِ اوس کے لوگ آگے آئے
 اور کہا کہ :

”اے اللہ کے عداو! سدا کا نگاری سے محروم رہے“
 اُس کی ہر لٹکار اور ہر صداصل نے صحرائی ہو کر گم ہو گئی اور اللہ والوں کی
 لٹکار سے اُس کے حوصلے سرد ہو گئے اور وہ طول ہو کر سوئے عسکرِ اعداء لوٹا۔

سرداروں کی الگ الگ لڑائی

عسکرِ اعداء کا اک عہددار طلحہ آگے آکھڑا ہوا اور صدایِ اسلام والو!
 آؤ! اور ہم سے بڑکدوار اسلام کی راہ لو اور ہم کو دارالآلام کی راہ دکھاؤ۔
 رسول اکرمؐ کے ہمدِ علی کرّمہ اللہ اُس کے آگے آٹٹے اور دوڑ کر اُس سردار
 کے لئے حملہ آور ہوئے۔ اللہ کی مدد سے اس طرح کا کاری وار ہوا کہ اُس
 سردار اور اللہ کے عداو کے سر کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ رسولِ اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم مسرور ہوئے اور ”اللہ احد“ کہا۔ ادھر عسکرِ اسلام سے
 ”اللہ احد“ کی صدا اُٹھی۔

ادھر اللہ کے اعداء کا وہ عہددار دو ٹکڑے ہو کر گیا۔ ادھر اُس کا ولدِ اُمّ
 عَلم لے کر آگے ہوا اور اکڑ کر لٹکارا۔ اُس سے لڑائی کے لئے عسکرِ اسلام سے
 رسول اللہ کے عم اسد اللہ آگے آئے اور ہوا کی طرح دوڑ کر حملہ آور ہوئے۔

ابو عامر راہب نے کہا کہ یا معشرِ الادب! انا ابو عامر، ”اے قبیلہ اوس میں ابو عامر ہوں قبیلہ اوس
 کا جواب آیا لا انعم اللہ بک عیننا یا خاسق“ اے اللہ کے مجرم خدا بھی تیری آنکھیں ٹھنڈی نہ کرے۔
 طلحہ بن ابی طلحہؓ آنحضرتؐ نے فرمایا ”اللہ اکبر“ مسلمانوں نے یمن کہا اللہ اکبر کا زور دار نعرہ
 لگایا۔ (سیرتِ مصطفیٰ ص ۵۵) ❦

اُس کا علم اُسی لمحے گہرا اور معمولی لڑائی ہوئی اور وہ ”عم اسد اللہ“ کے اک کاری وار سے گھائل ہو کر گہرا اور دارالالام کو راہی ہوا۔

اُس کا اک اور وَلَدُ اُمِّ عَلَم لے کر آگے اڈٹا۔ اُس کے لئے رسول اکرمؐ کے ہمد سعد آگے آئے اور اک ”سہام“ اس طرح مارا کہ اُس کا گلا کٹ کر رہا اور وہ اسی گھاؤ کے صدمے سے بڑھ کر گر گیا۔ اسی طرح اک اور سردار والدِ طلحہ کا لڑکا آگے ڈٹا اور رسول اللہؐ کے ہمد عامم کے وار سے ہلاک ہوا۔

الحاصل اسی طرح گمراہوں کے عسکر سے دس اور اک عکمدار اور سردار آگے آئے اور اللہ کے کرم اور رسول اللہؐ کی دعا اور اہل اسلام کے حوصلوں سے ہر کوئی وہاں ہلاک ہو کر رہا۔

معرکہ عام

اللہ کے حکم سے اللہ اور اُس کے رسول کے اعداء اسی طرح علم لے لے کر آگے آئے اور رسول اللہ کے ہمدوں اور مددگاروں کے وار سے ہلاک ہوئے۔ گمراہوں کا عسکر عام لڑائی کے لئے آمادہ ہوا اور حملہ عام کر کے معرکہ آرا ہوا۔ ہر دو گروہ اک دوسرے کے آگے ڈٹ کر حملہ آور ہوئے، معرکہ گرم ہوا۔ سارے ہی اہل اسلام اللہ اور اُس کے رسول کے لئے دل کھول کر لڑے مگر علیؑ کرم اللہ، عم اسد اللہ اور عمرؓ مکرم اس طرح دلاوری اور حوصلہ دہی سے لڑے کہ عسکر اعداء کے دل دھڑکی اُٹھے اور اس معرکہ سے حوصلگی دلاوری

۱۔ ابو سعد بن ابی طلحہ: اس کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے تیر مار کر قتل کیا۔

۲۔ حضرت عامم بن ثابت رضی اللہ عنہ

۳۔ ابن ہشام کے مطابق اس مبارزہ میں بائیس سردار مارے گئے

(سیرت معطفی ص ۵۴۸)

اور دلولہ کاری کے اس طرح کے احوال آگئے آئے کہ اہل عالم کو معلوم ہوا کہ اہل اسلام کو اللہ اور اُس کے رسول کا حکم اس عالم مادی کے سارے اموال و املاک سے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہر آدمی اس آس کو دل سے لگا کر حملہ آور ہوا کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑ کر اللہ کے آگے کامیاب ہو گا۔

عِصْمِ اسد اللہ کی دلاوری اور وصال

رسول اکرم کے عِصْمِ ہِم غم ”اسد اللہ“ سارے لوگوں سے سوا دوڑ دوڑ کر حملہ آور ہوئے اور اک ایک دار سے کئی کئی لوگوں کو گھائل کر کے لوٹے۔ وہ عسکرِ اعداء کے مسلح لوگوں سے گھس گھس کر لڑے۔ ہر وہ آدمی کہ ”اسد اللہ“ کے آگے ہوا کٹ کر گیا۔ اُس کی دلاوری اور حملہ آوری کے طوفان سے گمراہوں کے دل جھل گئے۔

آگے مسطور ہوا کہ گمراہوں کے سردار کی گھر والی کا ولدِ مطعم کے ملوک سے معاملہ طے ہوا کہ اگر وہ ”اسد اللہ“ کو مار ڈالے گا، اموال کا مالک ہو گا۔ اسی طرح اُس ملوک کے مالک و ولدِ مطعم کا اُس سے وعدہ ہوا کہ اگر وہ عِصْمِ اسد اللہ کو مار ڈالے، سدا کے لئے رہا ہو گا۔ وہ ملوک عِصْمِ ”اسد اللہ“ کی ٹوہ لگاٹے رہا اور اک کھوہ کے آگے مسلح ہو کر کھڑا ہوا کہ عِصْمِ اسد اللہ اُدھر آئے اور وہ حملہ کرے۔ اللہ اور اُس کے رسول کے وہ دلدادہ گمراہوں سے لڑائی لڑ کر اُدھر آئے۔ اُس ملوک کو دل کی مراد ملی، وہ ٹپک کر آگے ہوا اور اک کاری

۱۔ ابوسفیان کی بیوی ہند بن عتبہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے باپ کو غزوہ بدر میں قتل کیا تھا۔
۲۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ جو غزوہ احد میں صرف اس لئے شریک ہوئے کہ حضرت حمزہ کو مار کر آزار پہنچائیں۔ بعد میں وہ اسلام لائے اور اپنے اس عمل کی مکافات اس طرح کی کہ میلہ کذاب کو آنسوؤں نے اس کی تیرہ سے ہلاک کیا جس سے حضرت حمزہ پر دار کیا تھا۔ (سیرتِ مصطفیٰ ص ۵۵۲)

دار کر کے دوڑا۔ عِیم اسد اللہ گھائل ہو کر لڑکھرائے اور گرے اور اُسی لمحہ عِیم اسد اللہ کے دل کی مُراد ملی کہ وہ اللہ اور اُس کے رسول کے لئے لہو لہو ہو کر دار السلام کا رہا ہی ہو۔ وہ مرد اسلام اس طرح دلادری سے لڑ کر اللہ کے گھر کو سدھارا اللہ ہم سادوں کا مالک ہے اور ہم سارے اُسی کے گھر کو راہی ہوں گے، عِیم مردار کی گھر والی اس اطلاع سے کمال سرور ہوئی اور مکہ مکرمہ لوٹ کر وہ مملوک رہا ہوا اور مال کا مالک ہوا۔

لڑائی کا سلسلہ اُسی طرح سرگرمی سے رواں رہا۔ گمراہوں کے سارے عہدار اول ہی الگ الگ لڑ کر مارے گئے۔ ادھر اہل اسلام کے مسلسل حملوں سے گمراہوں کے لوگ مردہ ہو ہو کر گرے۔ گمراہوں کو معرکے کے اس حال سے کمال دکھ ہوا اور مال کا وہ حوصلے ہار گئے اور ساعی ہوئے کسی طرح معرکہ گاہ سے الگ ہو کر اہل اسلام کے حملوں سے دور ہوں اور اس طرح اہل اسلام کے لئے کامگاری کا در کھلا۔ مگر اللہ کی درگاہ سے اہل اسلام کے لئے دوسرا ہی حکم ہوا اور اہل اسلام کی وہ کامگاری ادھوری رہ گئی۔

گھاٹی والوں کی حکم عدولی

آگے مسطور ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اہل اسلام کے ”مہام کاروں“ کا اک گروہ کوہِ اُحد کی اک گھاٹی کے لئے مامور ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصرار ہوا کہ وہ ہر حال اُسی گھاٹی کے آگے کھڑے رہیں اور معرکے کا کوئی حال ہو، وہ اس حکم رسول کا عامل ہو۔

لے کفارِ قریش مسلمانوں کے پنے بہ پنے حملوں سے تنگ آ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پہاڑ کی پناہ لی۔ ادھر مسلمان مالِ غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔

اس گروہ کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ اہل اسلام کو اس معرکے سے کامگاری مائل ہوئی اور گمراہوں کا عسکر رُسوا ہو کر اور سمٹ کر معرکہ گاہ سے الگ ہوا اور معلوم ہوا کہ ”مالِ کامگاری“ اکٹھا ہو رہا ہے۔ اس لئے اس گروہ کے لوگوں کی رائے ہوئی کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم کہ ہم اُس سے مامور ہوئے مکمل ہوا۔ اہل اسلام کامگاد ہو گئے، اس لئے لاعامل ہو گا کہ ہم وہاں رک کر اُس اکرام سے محروم ہوں کہ دوسرے اہل اسلام کو حاصل ہوا۔ مگر اس گروہ کے سردار اور دس دوسرے لوگ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے لوگو! رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصرار یہاں کہ ہم ہر حال اس گھاٹی کو روک کر کھڑے ہوں، اس لئے رُکے رہو اور اللہ اور اُس کے رسول کے حکم کے عامل رہو۔ مگر سردار اور گروہ کے دس لوگوں کے علاوہ سارے لوگ گھاٹی سے رواں ہو کر، عسکرِ اسلامی کے ہمراہ ہوئے اور ”مالِ کامگاری“ کو اکٹھا کر کے سرور ہوئے۔ وہ سردار دس لوگوں کے ہمراہ اُسی گھاٹی کے آگے رُکا رہا۔

ادھر اہل مکہ کا اک سردار کہ لڑائی اور اُس کے اطوار کا ماہر رہا۔ اس امر سے آگاہ رہا کہ وہ گھاٹی ہر طرح سے اہم ہے۔ اُس کو معلوم ہوا کہ وہاں سے اہل اسلام کا مسلح رسالہ ہیٹ کر الگ ہوا۔ وہ سو لوگوں کو ہمراہ لے کر گھوم کر اُس گھاٹی کے آگے آکر حملہ آور ہوا۔ رسولِ اکرم کے وہ مددگار کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے رُکے رہے، دل کھول کر لڑے۔ اک گمراہ کے وار سے اُس سردار گمراہ کو اک گھاؤ لگا اور وہ گھائل ہو کر گرا اور اللہ کے گھر کو سداوار اور اسی طرح گمراہوں سے لڑ کر دس کے دس مسلم مارے گئے۔ گمراہوں کے اس حملے سے

۱۔ مالِ کامگاری: مالِ غنیمت ۲۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ دوسرے رفقاء کے شہید ہوئے۔ (۱) اللہ و انا للہ و انا الیہ راجعون

معرکے کا سارا حال دگر ہوا اور عسکر اعداء اُس گھاٹی کا مالک ہو کر وہاں سے حملہ آور ہوا۔ ادھر گمراہوں کے عسکر کو اس حال کی اطلاع ملی، وہ حوصلہ کر کے اکٹھے ہوئے اور اہل اسلام کے عسکر کے لئے حملہ آور ہوئے۔

ادھر گمراہوں کا دوسرا علمدار عکرمہ رسالے کو لے کر حملہ آور ہوا۔ اہل اسلام کو اک دھکا سالگا اور وہ ہر دوراہ سے اعدائے اسلام سے گھر گئے اور سارا عسکر اسلامی کئی حقے ہو کر ادھر ادھر ہوا۔

علمدار اسلام کا وصال

رسول اکرمؐ کے وہ ہمدم کہ اس معرکے کے علمدار ہوئے، رسول اکرمؐ کے ہمراہ رہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ دس آدمی رہ گئے۔ گمراہوں کے لوگ مستح ہو کر ادھر آئے کہ وہ رسول اللہ کو حملہ آور ہوں، مگر علمدار اسلام گمراہوں کے آڑے آ کر حملہ آور ہوئے اور رسول اللہ کے آگے کمال حوصلے سے لڑے۔ مگر گمراہوں کا حملہ ہوا اور وہ گمراہوں سے لڑ کر گھائل ہوئے اور مالِ کار رسول اکرمؐ ہی کے آگے اللہ کے گھر کو سدھارے۔ (ہم سارے اللہ کے ہوئے اور ہمارا ہر آدمی اللہ کے گھر کو لوٹے گا) وہ ہمدم رسول، رسول اکرمؐ کے ہم دور رہے۔ اس لئے کسی گمراہ کو دھوکہ لگا کہ محمدؐ گھائل ہو کر گرے۔ وہ سرورِ مسرور ہوا، کُسا کے اک سرے آ کر صدا لگائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ گمراہوں کے دل اس صدا سے مسرور ہوئے۔

۱۔ عکرمہ بن ابوجہل ۲۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جھنڈا لئے ہوئے تھے اور آنحضرتؐ کے قریب تھے۔ ۳۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اڑ گئی۔
(سیرت مصطفیٰ، ابن سعد، اصح السیر)

مگر اہل اسلام کے دل اس صدا سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور سارے لوگ اک دم ٹھٹھ کر رہ گئے۔ مگر اسی لمحہ ولید مالک کی صدا آئی کہ :

”لوگو! اللہ کی حمد کرو کہ اللہ کا رسول سالم ہے اور ہمارے ہمراہ ہے۔“

یادنی اکرم صلی اللہ علی رسولہ وسلم اُٹھے اور صدا لگائی کہ :

”اللہ والو! ادھر آؤ، اللہ کا رسول ادھر ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علی رسولہ وسلم کی صدائے مسعود اہل اسلام کے دلوں کے لئے سرور کی اک لہر لے کر آئی اور عسکر اسلام کے تلاوروں کو حوصلے اور دلوائے دے کر ٹوٹی۔ لوگوں کے حوصلے اکٹھے ہوئے اور وہ مار دھاڑ کر کے سامعی ہوئے کسی طرح رسول اللہ کے ہمراہ ہوں۔

رسول اللہ کو گھاؤ کا صدمہ

گمراہوں کے اس دہرے حملے سے اہل اسلام ادھر ادھر ہو گئے اور ہر طرح گمراہوں سے گھر گئے۔ مگر رسول اکرم صلی اللہ علی رسولہ وسلم کمال حوصلے اور دلادری سے اعداء کے آگے ڈٹے رہے۔ رسول اللہ کے ہمدموں اور مددگاروں سے مروی ہے کہ گو رسول اکرم کے آگے گمراہوں کے مسلسل حملے ہوئے۔ مگر اللہ کا رسول اک کوہ کی طرح آگے ڈٹا رہا اور اعدائے اسلام سے معرکہ آراء رہا۔ اس سارے عرصے رسول اکرم کے ہمراہ گاہ دس آدمی رہے اور گاہ اس سے کم اور گاہ اس سے سوا۔ اسی لئے لوگوں کا مدد علماء سے کئی طرح مروی ہے مگر معاملہ اسی طرح کا ہے کہ

۱۔ سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پہچانا۔ اور مسلمانوں کو آواز دی۔ (راج السیر و تاریخ اسلام) ۲۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ اے عباد اللہ! اللہ رسول اللہ “ (میری طرف آؤ اللہ کے بندو! میں اللہ کا رسول ہوں)۔

گاہ دس سے سوا لوگ ہو گئے گاہ کم یتھ
 گمراہوں کا اک مسلح گروہ ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حملہ آور ہوا۔ رسول
 اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوا کہ
 ”کوئی ہے کہ اس گروہ کو اللہ کے رسول سے دُور رکھے اور دارالسلام
 آکر ہمارا ہمراہی ہو؟“

اُس لمحہ رسول اللہ کے ہمراہ اک کم آٹھ آدمی رہے۔ اس وعدہ کا نگاری کو
 مسموع کر کے اک اک کر کے آگے آئے اور سارے کے سارے اللہ کے رسول کے
 لئے نذر گھائل ہو ہو کر گرے اور دارالسلام کو سدھارے اور اس طرح سرکشا کر
 دارالسلام کی سرمدی آرام گاہ مول لے لی۔ ہمد سعد کا ولد اُمّ رسول اللہ کی ٹوہ
 لگائے رہا۔ اک مرمر کا ٹکڑا اٹھا کر اللہ کے رسول کو مارا۔ اُس کے صدمے سے
 رسول اکرمؐ کی ڈاڑھ ٹوٹ کر گری اور دُورے مسعود گھائل ہوا۔ رسول اللہ کے
 ہمد سعد سے مروی ہے کہ وہ سارے لوگوں سے سوا اس امر کی اُس لگائے
 رہے کہ رسول اللہؐ کا وہ عدو اور سعد کا ولد اُمّ اُس کے آگے آئے اور وہ اُس
 کو ہلاک کر کے سرور ہوں۔

رسول اکرمؐ کے لئے گمراہوں کا حملہ

گمراہوں کو معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھائل ہو گئے وہ مل کر

۱۔ صحیح بخاری میں آپؐ کے محافظین کی تعداد بارہ آدمی ہے۔ دلائل بہت سی اور نسائی میں یہ تعداد بیس رہے
 جبکہ صحیح مسلم میں سات بیان کی گئی ہے اور ابن سعد میں چودہ صحابہ کے نام دیئے گئے ہیں۔ اس لئے کہ لوگ
 کچھ دیر کے لئے کسی جگہ اُٹھتے اور پھر آنحضرتؐ سے آئے اور تعداد مختلف اوقات میں مختلف رہی (سیرت مطہریؒ ص ۱۷۷)
 ۲۔ آپؐ نے فرمایا کون ہے جو ان کو مجھ سے ہٹائے اور جنت میں میرا رفیق بنے (حوالہ بالا) ۳۔ حضرت سعد بن وقاصؓ
 کے بھائی عتبہ بن ابی وقاصؓ نے پتھر پھینکا جس سے دوزخ مہرک شہید ہوا۔ (حوالہ بالا) ۴۔

حملہ آور ہوئے اور گمراہوں کا ایک اور آدمی آگے آکر حملہ آور ہوا اور دوسرا مہم کا ٹکڑا اٹھا کر دوئے مسعود کو مارا۔ اُس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہم کا اگلا حصہ گھائل ہوا اور مہم مسعود سے لہو رواں ہوا۔ رسول اللہ ص کے اک ہم مالک آگے آئے اور دوئے مسعود سے دو لگا کر لہو کو دُر کر کے مسرور ہوئے۔ رسول اکرم کا اُس ہم کے لئے کلام ہوا۔

”دارالآلام کی آگ اُس سے سدا دُور رہے گی“

اُسی لمحہ اک اور گمراہ اسلحہ لے کر حملہ آور ہوا اور اللہ کے رسول کو اُس کے دار سے اک گھاؤ اس طرح لگا کہ لوہے کی کلاہ کے دو کڑے دوئے مسعود کو گھس گئے اور دوئے مسعود کی ہڈی سے آگے اور رسول اکرم اس طرح کئی حملوں سے گھائل ہو کر لہو لہو ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حملے سے لڑ کھڑائے اور اک گڑھا کہ والدِ عامر کی رائے سے اُس کی کھائی اہل اسلام کے لئے ہوئی، وہاں گر گئے۔ علی کرم اللہ اور ہمدم طلحہ آگے آئے اور اللہ کے رسول کو سہارا دے کر کھڑے ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور طلحہ کے لئے دُعا گو ہوئے۔ دراصل ہمدم رسول طلحہ سارا عرصہ رسول اکرم کے ارد گرد اس طرح اعداء کے آگے ڈٹے رہے کہ گمراہوں کے سارے وار اُسی کو لگے۔ علمائے کرام سے اور دُوسرے ہمدموں اور مددگاروں سے مروی ہے کہ معرکہ اُحد سے طلحہ کو ساٹھ کم سو

سہ مالک بن سنان حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد نے منہ سے چوس کر چہرہ مبارک کا خون صاف کیا۔ (سیرت مصطفیٰ ص ۵۷) سہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَنْ تَمَسَّكَ النَّارُ (تجھ کو جہنم کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی)۔ (سیرت مصطفیٰ ص ۵۹)

سہ عبداللہ بن قتیہ جو قریش کا ایک پہلوان تھا اُس کے حملے سے خود کے دو حلقے رخصا بہ مبارک میں گھس گئے۔ (اصح السیر وحوالہ بالا) ❦

گھاؤ لگے۔ مگر رسول اللہ کے وہ دلدادہ اعدائے اسلام کے آگے ڈٹے رہے۔
اہل اسلام کسی طرح سمٹ سمٹا کر اکٹھے ہوئے اور ساعی ہوئے کہ کسی طرح
رسول اکرم کے ہمراہ ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلدادہ اللہ کے
رسول کے گرد اک دائرہ کر کے کھڑے ہو گئے اور ہر سوا عدا کے حلوں کو کمر
سے روکا۔ رسول اللہ کے وہ ہمد کہ حسام رسول کے حامل ہوئے اسی طرح
سوئے رسول رو کر کے کھڑے رہے اور کمر کو ڈھال کر کے سارے حلوں
کو رسول اللہ سے دور رکھا۔ کمر لہو لہو ہو گئی۔ مگر واہ رے دلدارئی رسول
کہ اسی طرح ڈٹے رہے۔

مالِ کار اللہ والوں کا گردہ مار دھاڑ کر کے اکٹھا ہوا اور رسول اکرم
کے گرد اگر معرکہ آراء ہوا۔

گمراہوں کو احساس ہوا کہ عسکرِ اسلامی اکٹھا ہو کر معرکہ آرائی کے لئے آمادہ
ہے اور اللہ والوں کا ہر آدمی معرکہ آرائی کے ولولے سے معمور ہے، وہ
حوصلہ ہاد گئے اور معرکہ گاہ سے سمٹ کر الگ ہوئے۔ رسول اکرم کے
دلدادہ، ہمد و مددگار اللہ کے رسول کو لے کر اُحد کی اک کھوہ آگئے کہ وہاں
اللہ کا رسول آرام کرے۔

گمراہوں کا سردار اُدھر آکر کھڑا ہوا اور صد لگائی کہ
”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سالم ہے؟“
رسول اللہ کا حکم ہوا کہ ردِ کلام سے رُکے رہو۔

۱۔ حضرت ابو جہانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ۲۔ ابوسفیان نے آواز لگائی: اُفّی القوم
”محمدؐ“ دیکھتے لوگوں میں محمد زندہ ہیں، آپؐ نے فرمایا کوئی جواب نہ دے۔
(سیرت مصطفیٰ ص ۵۶۹)

اسی طرح ذہرا کہ صدالگائی، مگر رسول اکرم کے سارے ہمد و مددگارِ ردِ کلام سے رُکے رہے۔

وہ سردار آگے ہوا اور صدالگائی کہ ”ہمدِ مکرمِ سالم ہے؟ اس کلمے کو ذہرا کہ اُسی طرح صدالگائی، مگر ردِ کلام سے محروم رہا۔ صدالگائی کہ عمرِ سالم ہے؟ مگر حکیم رسول سے سارے ہمدِ ردِ کلام سے رُکے رہے۔ وہ سردار کمالِ مسرور ہوا اور کہا۔

”سارے ہلاک ہو گئے۔“

عمرِ مکرم کو اس کی سہارا کہاں کہ وہ اللہ کے رسول کے لئے اس طرح کا کلامِ سموع کہ کے ردِ کلام سے رُکا رہے۔
صدالگائی کہ

”واللہ! محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سالم ہے کہ اُس کے واسطے سے اللہ سردار کو دکھ اور الم دے گا۔“

الحاصل سردار سے اسی طرح کا مکالمہ ہوا اور مال کا سردار آگے ہوا اور کہا کہ :

”اگلے سال معرکہ اول کے گاؤں دوسری لڑائی کا وعدہ ہے۔“

عمرِ مکرم کو رسول اکرم کا حکم ہوا کہ اس سے کہہ دو کہ وعدہ رہا، ہم اگلے سال معرکہ اول کے گاؤں آکر معرکہ آراء ہوں گے۔“

لے ابو سفیان کو جب کوئی جواب نہ ملا تو اُس نے کہا : ”اما هو علم غفقد قتلوا ریشک مہ سادہ لوگ قتل ہو گئے“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اُس کی تاب نہ لاسکے فرمایا کذبت واللہ یا عدو اللہ البقی اللہ علیہ ما یجنہ (اللہ کے دشمن خدا کی قسم! تو نے جھوٹ بولا، تیرے رنج و غم کا سلمان اللہ نے باقی رکھا ہے، اس موقع پر اور بھی کئی سوال و جواب ہوئے جن کو طوالت کے خوف سے چھوڑا جا رہا ہے) سیرتِ مصطفیٰ (ص ۷۵، ابن سعد جلد اول) :

سہواری عسکر اگلے سال لڑائی کی دھمکی دے کر وہاں سے لوٹا۔ علی کرمۃ اللہ کو حکم ہوا کہ معلوم کر دے کہ گمراہوں کا عسکر کدھر کے لئے رہا ہی ہوا ہے۔ اگر وہ معمورہ رسول کے لئے رواں ہو رہا ہے، ہم اس کو روک کر حملہ آور ہوں گے۔ علی کرمۃ اللہ گئے اور معلوم کر کے آئے کہ اعدائے اسلام کا سارا عسکر سوئے مکہ مکرمہ رہا ہی ہوا ہے۔ اس لڑائی سے رسول اکرمؐ کے کل ساٹھ اور دس مددگار اللہ کی راہ کے لئے سر کٹ کر دارالسلام کو راہی ہوئے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیم اسد اللہ کے لئے ادھر ادھر گھومے، مال کار وہ وادی کے وسط، اس طرح مُردہ ملے کہ ٹکڑے ٹکڑے کئے گئے۔ اس حال کو مطالعہ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو اُٹھے اور اللہ سے عیم اسد اللہ کے لئے رجم کی دعا کی اور کہا کہ

”وہ دارالسلام کے سارے گواہوں کے سردار ہوئے“

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اُسی محل لحد کھود کر عیم اسد اللہ کو مٹی دی گئی۔ اسی طرح دوسرے لوگوں کی لحد کھودی گئی اور رسول اللہ کے حکم سے سارے لوگوں کو مٹی دی گئی۔

اُدھر معمورہ رسول کے لوگوں کو اطلاع ہوئی کہ ہادی کامل گمراہوں کے حملے سے گھائل ہوئے۔ لوگ حواس گم کر کے گھروں سے رہا ہی ہوئے اور کوہ احد اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد نہ ہوئے۔

۱۔ سیرت مصطفیٰ میں شہداء کی تعداد ستر دی گئی ہے جبکہ اصحاب السیر میں ۷۲ ہے۔ شہداء میں اکثر انصار تھے۔ (سیرت مصطفیٰ ص ۵۱۰ ابن سعد ج ۱ اقل) ۲۔ بطن وادی میں۔ ۳۔ آنحضرتؐ نے فرمایا ”سید الشہداء عند اللہ یوم النقیامۃ حمزہ“ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن شہیدوں کے سر وار حمزہ ہوں گے۔ (سیرت مصطفیٰ ص ۵۰۵) ۴۔

رسول اللہ کی اک ولیدہ کا حال

رسول اکرم کے ہدم سعد سے مروی ہے کہ کوہ احد سے رسول اکرم ہندسوں اور مدو گادوں کو لے کر لوٹے۔ راہ کے اک محل اک اللہ والی مدو گاد مسلمہ کہ اُس کا مرد اُس کا والد اور اُس کا ولید اُم کوہ احد کی وادی رسول اللہ کے ہمراہ آئے اور اللہ کی راہ لڑ کر مارے گئے۔ اس مسلمہ کو معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھائل ہو گئے۔ وہ معمورۂ رسول سے دوڑ کر آئی اور اس محل آکر لوگوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہم سے کہو لوگ آگے آئے اور اطلاع دی کہ اُس کے والد، اُس کا مرد اور اُس کا ولید اُم سارے گھائل ہو کر مارے گئے۔ کہا کہ اول اللہ کے رسول کا حال ہم سے کہو۔ لوگوں سے اطلاع ملی کہ رسول اکرم اللہ کے کرم سے سالم رہے، مگر اُس مسلمہ کا اصرار ہوا کہ ”ہم کو دکھلاؤ کہ اللہ کا رسول کہاں ہے؟“

لوگوں کی مدد سے وہ آگے آئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اُس کو دکھائے گئے۔ اُس لمحہ کہا۔

”اس سرور کے آگے ہر دکھ اور الم کم ہے۔“

لے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ

(سیرت مصطفیٰ بحوالہ ابن ہشام)

یہ اُس انصاری عورت نے کہا ”کل حبیبۃ بعدک جلی“ دہر محبت آپ کے بعد ہے حقیقت ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عسکرِ اسلامی سوئے معورہ رسول
 ٹوٹا۔ اسرائیلی گروہ اور متکاروں کے گروہ کے لوگ معاہدہ اول کی رُو سے مامور رہے
 کہ وہ اہل اسلام کے ہمراہ اور حامی ہو کر اسلام کے اعتلاء سے معرکہ آزاد ہوں، مگر
 اسرائیلی گروہ کے لوگ گھروں سے لگے رہے اور عملاً اس معاہدے کے عمل سے
 دُور رہے اور متکاروں کے گروہ کے لوگ کوہِ اُحد کے اُدھر ہی ٹال مٹول کر کے
 اس معرکے سے الگ ہو گئے۔ اس طرح اہل اسلام کو کھل کر احساس ہوا کہ ہر دو
 گروہ معاہدہ اول سے عملاً دُور گراں ہو گئے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہِ اُحد کے معرکے سے اہل اسلام کو لے کر
 معورہ رسول لوٹ آئے۔ مگر اُدھر گمراہوں کا گروہ کہ سُوئے مکہ راہی ہوا۔ اُس کا
 ارادہ ہوا کہ وہ معورہ رسول لوٹ کر حملہ آور ہو۔ اس ارادے کی اطلاع رسول اکرم
 کو ملی اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ عسکرِ اسلام گمراہوں سے معرکے
 کے لئے آمادہ ہو۔

معرکہ حمرائہ لاسہ

اگلی سحر ہوئی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ عسکرِ اسلام گمراہوں
 سے لڑائی کے لئے آمادہ ہو کر رسول اللہ کے ہمراہ راہی ہو۔ مگر رسول اکرم کا حکم
 ہوا کہ اس معرکے کے لئے وہی لوگ ہمراہ ہوں کہ معرکہ اُحد کے لئے ہمراہ رہے۔
 گو معرکہ اُحد سے اہل اسلام گھائل اور گراں حال رہے۔ مگر اللہ اور اُس کے
 رسول کا حکم اللہ والوں کے دل کا سرود ہوا اور وہ ہر حال آمادہ رہے کہ کوئی
 حال ہو، کسی طرح کا کڑا حکم آئے، وہ اللہ اور اُس کے رسول کے حکم کے عامل

ہوں گے۔ اس لئے سارے لوگ سرورِ دل سے اس معرکے کے لئے آمادہ ہو گئے۔
 مگر انہوں کا وہ گروہ کہ وہ احد سے سوئے مکہ مکرمہ لوٹا۔ راہ کے اک محلِ روضاء آکر
 رُکا۔ وہاں آکر سردارِ عسکر کو احساس ہوا کہ ہم معرکہِ احد کی کامنگاری سے محروم رہے۔ اگر
 مکے والوں کا ہم سے سوال ہوگا کہ کس طرح کی کامنگاری لے کر آئے ہو، اہلِ اسلام
 کے اموال اور محصور سے محروم لوٹے ہو۔ ہمارا معاملہ اہلِ مکہ کے آگے ہلکا ہوگا۔
 سردارِ عسکر ڈر کر اہلِ مکہ کا اُس سے کڑا سلوک ہوگا۔ اس لئے کہ اہلِ مکہ کے سارے
 علماء و گھائل ہو کر مارے گئے۔ اہلِ مکہ کا سوال ہوگا کہ سارے علماء و روں کو ہلاک
 کر کے آئے ہو اور دعویٰ دار ہو کہ کامنگار لوٹے ہو۔ اس لئے اُس کا ارادہ
 ہوا کہ وہ معمورۂ رسولِ لوط کر حملہ آور ہو۔ اسی ارادے سے وہ راہ کے اک
 مرحلے سے عسکر کو لے کر لوٹا اور روضاء آکر رُکا۔

ادھر اللہ کا رسول اللہ والوں کے عسکر کو لے کر اللہ کے سہارے معمورۂ رسول
 سے راہی ہوا اور حمراء الاسد کے ٹھہرا۔ ادھر مکے کا اک آدمی اسی راہ سے سوئے
 مکہ راہی ہوا اور عسکرِ اسلامی کے احوال سے آگاہ ہو کر روضاء کی راہ سے روان
 ہوا۔ وہ آدمی روضاء آکر گمراہوں کے سردار سے ملا اور اُس کو اطلاع دی کہ رسولِ اکرم
 کے ہمراہ عسکرِ اسلامی گمراہوں سے معرکہِ اُردائی کے ارادے سے روان ہو کر حمراء الاسد
 آکر رُکا ہوا ہے اور کسی لمحہ گمراہوں کے عسکر کے لئے حملہ آور ہوگا۔

گمراہوں کے دلوں کو اللہ والوں کا ڈر اس طرح طاری ہوا کہ وہ حواسِ گم
 کر کے وہاں سے سوئے مکہ دوڑے اور اللہ والوں سے معرکہِ اُردائی کے ارادے
 سے محروم ہو گئے۔

رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ گمراہوں کا عسکر حوصلہ ہار کے
 روضاء سے سوئے مکہ راہی ہوا۔ اللہ کا رسول عسکرِ اسلام کو لے کر سوئے معمورۂ

رسول کو ملنا اور اس طرح معرکہ اُحد کا معاملہ مکمل ہوا۔ معرکہ اُحد کے سارے احوال اور معاملوں سے علمائے اسلام کو طرح طرح کے اسرار و حکم حاصل ہوئے اور رسول اکرم کے دلدادوں کی دُعا سے وصال اللہ کے ہاں مسجوع ہوئی اور اللہ والوں کے دل کی وہ آس مکمل ہوئی کہ وہ اللہ اور اُس کے رسول کے لئے لڑ کر اللہ کے گھر کو رہا ہی ہوں۔

سالِ سوم کے دوسرے احوال

وداعِ مکہ کے سال سوم معرکہ اُحد اور دوسرے مسطورہ احوال کے علاوہ اور کئی احوال ہوئے۔ اسی سال عمرِ مکرم کی لڑائی سے رسول اکرم کی عروسی کا معاملہ ہوا اور وہ مسلمانوں کی ماں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عروس ہو کر، رسول اللہ کے گھر آئی۔ اس طرح عمرِ مکرم کو اک اور اکرام ملا کہ وہ رسول اکرم کے شہسوار ہوئے۔

اس کے علاوہ اسی سال ماہِ صوم کو علی کرمہ اللہ کے ہاں وہ لڑکا مولود ہوا کہ اُس کے کئی سال اُدھر اہل اسلام کا امام ہوا۔ اسی سال ماہِ صوم سے اگلے ماہ ”ماہِ سکر“ اہل اسلام کے لئے حرام ہوا۔ اس طرح وداعِ مکہ کا سال سوم مکمل ہوا۔

۱۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ۳؎ کے ماہ شعبان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ (دیرت مصطفیٰ بحوالہ طبری ص ۶۳) ۲۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اسی سال ماہ رمضان المبارک میں پیدا ہوئے۔ (حوالہ بالا بحوالہ طبری) ۳۔ ”ماہِ سکر“ شراب، شراب کی حرمت ۳؎ میں ہوئی۔

والدِ سلمہ کی مہم

معرکہ حراء الاسد سے ٹوٹ کر سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ڈھائی ماہ
معمورہ رسول ٹھہرے رہے اور ہمدیوں اور مددگاروں کو اسلامی احکام و اعمال
کا درس ملا۔ معمورہ رسول کے امور کی اصلاح ہوئی۔
ماہ محرم الحرام کی آمد ہوئی۔ ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ
طلحہ اور سلمہ آمادہ ہوئے کہ وہ ادلاء اسد کو اکسا کر معمورہ رسول کے لئے
حملہ آور ہوں۔

والدِ سلمہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ وہ لوگوں کو ہمراہ
لے کر اس گروہ کے لئے راہی ہو اور طلحہ و سلمہ کے معاملے کو طے کر کے
لوٹے۔ والدِ سلمہ اس مہم کے عہدہ پر ہوئے اور اہل اسلام کے رسالے کو لے کر
معمورہ رسول سے رواں ہوئے۔ رسول اکرم کے سرکردہ ہمدیوں اور مددگار اس
مہم کے ہمراہ رہے اور والدِ سلمہ کے حکم کے عائل ہوئے۔ والدِ سلمہ ساعی ہوئے
کہ گروہ اعداء اس رسالے کی آمد سے لاعلم رہے۔ اس لئے عام راہوں سے
ہٹ کر دوسری راہ سے رواں رہے اور سارے مراحل طے کر کے وہاں آئے۔
مگر طلحہ اور سلمہ کو عسکرِ اسلامی کی آمد کی اطلاع کسی طرح ہو گئی۔ اہل اسلام کے حملے

لے حضرت ابوسلمہ بن عبدالاسد رضی اللہ عنہ۔ طلحہ بن خویلد اور سلمہ بن خویلد۔ طبقات
ابن سعد میں نام طلحہ دیا گیا ہے۔ ارجح السیر اور تاریخ اسلام میں بھی طلحہ ہے مگر سیرت مصطفیٰ میں
اس کو طلحہ لکھا ہے یہ وہی طلحہ ہیں۔ جو بعد میں اسلام لائے۔ پھر مرتد ہو کر نبوت کا دعویٰ
کیا اور پھر تائب ہوئے۔ طلحہ بنی اسد۔

کا ڈر دلوں کو طاری ہوا۔ وہ اس طرح حواسِ گم کر کے وہاں سے دوڑے کہ مدہا مال و املاک وہاں رہ گئے۔ اہل اسلام کو وہاں آکر معلوم ہوا کہ گروہِ اعداء حوصلہ ہار کر راہ سے الگ ہوا۔ اعداء کے سارے اموال و املاک اہل اسلام کو ملے۔ اس طرح اس مہم کو سر کر کے والدِ سلمہ وہاں سے اہل اسلام کے بسالے کو لے کر سونے معمورہ کوٹ آئے اور وہاں آکر رسولِ اکرم کو سارے احوال کی اطلاع دی۔

اک عدو اللہ کی ہلاکی

اسی ماہ اک اور مہم رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ارسال ہوئی۔ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ رسول اللہ کا ایک عدد لوگوں کو اکٹھا کر کے اہل اسلام سے معرکہ آرائی کے لئے آمادہ ہوا ہے۔

اک مددگار رسول کو محکم ہوا کہ سونے اعداء رواں ہوا اور اس عدد کے حوصلوں کو سر در کے لوٹے۔ وہ مددگار رسول اُٹھے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول اگر اُس سردار کا کوئی حال معلوم ہو اُس سے آگاہ کرو۔ کہا کہ اُس گروہ کا سردار اس طرح کا آدمی ہے کہ اگر اُس سے ملو گے لامحالہ اُس سے دل کو ڈر لگے گا۔ کہا اے رسول اللہ! وہ ہماری ہی طرح کا آدمی ہے، اُس سے کس طرح ڈروں گا۔ کہا۔ ہاں! اُس سے مل کر دل کو ڈر طاری ہوگا۔

وہ مددگار رسول رسول اللہ کی دُعا لے کر معمورہ رسول سے راہی ہوئے اور اُس گروہ کے مہر آکر ٹھہرے۔ اُس مہر آکر معلوم ہوا کہ وہاں اک آدمی ہے کہ

۱۴ یہ مہم سر یہ عبداللہ بن انیس کے نام سے مشہور ہے۔ ۱۵ خالد بن سفیان ہنّی۔ اس کے بوسے میں آپ نے حضرت عبداللہ بن انیس سے فرمایا کہ تم اس کو دیکھو گے تو ڈر جاؤ گے اور تمہیں شیطان یاد آجائے گا۔

سادے مسر کے لوگ اُس کے گرد ہونے اور اِدھر اُدھر کے گرد ہوں کے لئے وہ آدمی مکرم رہا۔ مددگار رسول آگے آکر لوگوں سے ملے اور اُس آدمی کے احوال معلوم ہوئے۔ مددگار رسول اُس سردار کے آگے آئے۔ اک دم مددگار رسول کا دل اُس آدمی کے ڈر سے اس طرح معمور ہوا کہ اس کا رواں رواں ہول اُٹھا۔ مگر مددگار رسول حوصلہ کر کے اُس کے ہمراہ ہوئے اور اُس سے کلام کا سلسلہ ہوا۔ وہ آدمی مددگار رسول کے کلام سے مطمئن ہوا کہا کہ۔

”کہاں سے آئے ہو؟“

کہا۔ ”معلوم ہوا ہے کہ اہل اسلام سے معرکہ آرائی کے لئے آمادہ ہوئے ہو۔ سو اسی لئے اس مسر آکر ٹھہرا ہوں۔ اسی طرح وہ سردار مددگار رسول سے ساری راہ ہم کلام رہا۔ راہ کے اک اک محل اور اک اک موڑ سے اس کے لوگ اُس سے الگ ہو کر گھروں کو لوٹے۔ وہ ہر دو رواں رہے اور اُس سردار کے گھر کے آگے آکھڑے ہوئے۔ وہ محل لوگوں کی رسائی سے الگ رہا۔ مددگار رسول معاً حملہ آور ہوئے اور اُس سردار کا سر کاٹ کر ہمراہ لے کر وہاں سے دوڑے۔ لوگوں کو سارا حال معلوم ہوا، وہ مددگار رسول کے لئے دوڑے۔ مگر وہ مددگار رسول کساروں کی آڑ لئے ہوئے، سوئے معمورہ رسول رہا ہی رہے اور اس طرح ساری راہ کے کڑے مراحل طے کر کے معمورہ رسول آگئے۔ حرم رسول آکر رسول اللہ سے ملے۔ اُس کی آمد سے مسر ہو کر رسول اکرم دعا گو ہوئے کہ

”روئے مددگار کامراں ہو۔“

مددگار رسول آگے آئے اور کہا۔

لے حضرت عبداللہ بن ابی کبیاں ہے کہ جب میں اُس کے شہر بطنِ عرب پہنچا تو اس کو دیکھ کر مجھ پر ایسا ڈھاری ہوا کہ میں پسینے پسینے ہو گیا۔

سارے سر کے لوگ اُس کے گرد ہوئے۔ ”دوڑے بھول کامراں ہو۔“
اور اس عدد اللہ کا سر لے کر رسول اللہ کے آگے آئے اور سادہ حال کہا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مددگار کی اس کارکردگی سے مسرور ہوئے۔
عصائے رسول کی عطا۔ رسول اکرمؐ عصائے مسعود لے کر آگے آئے اور اُس
مددگار کو وہ عصائے رسول عطا ہوا اور کہا۔

”دارالسلام اگر اس عصائے رسول کے سہارے وہاں کی راہروی کر دے
گے اور وہاں اس طرح کے لوگ کم ہوں گے کہ عصاء کو لے کر
راہرو ہونے لگے۔“

وہ مددگار اس عصائے رسول کو لے کر کمال مسرور ہوئے اور کہا کہ۔
”اے اللہ کے رسول وہ عصاء اللہ کے آگے مرا گواہ ہو گا۔“

وہ مددگار رسولؐ اُس عصاء کو لے کر گھر آئے اور ساری عمر اُس عصاء کو دل
سے لگا کر رکھا اور گھر والوں کو حکم ہوا کہ اگر مرادصال ہو، اس عصائے رسول کو
مرے ہمراہ درگودہ کر کے مٹی دو۔ اُس مددگار کے گھر والے اس حکم کے عامل
ہوئے۔ اللہ ہم سارے لوگوں کو اللہ اور اُس کے رسول کے احکام کا اسی طرح عمل کرے
اور ہم رسول اللہ کے دلدادوں کے ہمراہ لحد سے اٹھ کر دارالسلام کے لئے راہی ہوں۔

گمراہوں کا اک اور دھوکا

اگلے ماہ مکہ مکرمہ کے گمراہوں کے سکھائے ہوئے اولادِ اسد کے حامی اک گروہ
ملہ حضرت عبداللہ بن ابی سہلؓ نے کہا کہ جب آنحضرتؐ نے مجھے دیکھا تو فرمایا تیرا چہ نلاح پائے ہیں نے بھی جواب میں کیا یا رسول اللہ
آپ کا چہرہ بھی نلاح پائے۔ (ابن سعد ترجمہ اردو ص ۳۹۴) اگلے آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں یہ بھی فی الجحۃ فاف
المتخصمین فی الجحۃ قلیل ”اس عصاء کو بکرا کر جنت میں چلا، جنت میں عصاء کو لے کر چلنے والا کوئی کم ہو گا۔
دیرینہ مصلحتی، اگلے واقعہ درجہ ماہ صفر ۳۲ھ میں پیش آیا اگلے بنو اسد کے بلادر قبیلہ عضل و قارہ کے آدمی آئے۔ بہ

کے کئی لوگ معمورہ رسول آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر کہا کہ ہمارا سارا گروہ حصول اسلام کے لئے آمادہ ہے۔ اس لئے رسول اللہ کے حکم سے اسلام کے معتمد ہمارے ہمراہ رواں ہوں اور وہاں آکر ہمارے گروہ کو اسلامی احکام اور کلام الہی سکھا کر اللہ کے آگے کامگاہ ہوں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے دس آدمی گمراہوں کے ہمراہ راہی ہوئے۔ رسول اکرم کے مددگار عاصم کو اس گروہ کی سرداری ملی۔ معمورہ رسول سے وہ لوگ رواں ہوئے اور کوسوں دور راہ کے اک مرحلے آکر رُکے۔ وہاں گمراہوں کے آدمی رسول اکرم سے کئے ہوئے عہد سے دو گمراہ ہوئے اور اٹھ کر حامی گروہ کے لوگوں کو مدد کے لئے صدا دی۔ حامی گروہ کے دوسو آدمی اللہ والوں کی ہلاکی کے ارادے سے آگے آئے۔ اہل اسلام کو احساس ہوا کہ ہم سارے لوگوں سے دھوکا ہوا ہے۔ مددگار رسول عاصم کے حکم سے سارے لوگ اک کوہسار کی آڑ لے کر کھڑے ہوئے۔ اور اللہ کے سہارے لڑائی کے لئے آمادہ ہوئے۔ گروہ اعداء کے لوگ آئے اور کہا کہ ہمارا عہد ہے کہ اگر ہمارے ہمراہ آؤ گے، ہلاکی سے دور رہو گے۔ مگر مددگار رسول کی صدا آئی کہ ہم اللہ کے عہد سے دور ہی رہے۔ مددگار عاصم اللہ سے دُعا گو ہوئے۔

”اے اللہ! رسول اللہ کو ہمارے حال سے آگاہ کر دے“

اللہ کا حکم ہوا، مددگار رسول عاصم کی دُعا سے اللہ کے رسول کو وحی کے واسطے سے سارے حال کی اطلاع دی گئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہوں اور

۱۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے دُعا کی ”اَللّٰهُمَّ اَخْبِرْ عَنَّا دَسُوْلًا“ (اے اللہ اپنے رسول کو ہمارے حال کی خبر کر دے)

(سیرت مصطفیٰ بحوالہ بخاری ۶۰۳ ج ۱)

مددگاروں کو رسول اللہ سے اسی لمحہ اس حال کی اطلاع ملی۔ اس طرح مددگار رسول اللہ اُس کے اک کم اٹھ ہمراہی گمراہوں سے دل کھول کر لڑے اور اللہ اور اُس کے رسول کے اٹھوں دلدادہ اللہ کے گھر کو سدھارے۔

وہ سہ مسلم کہ وہاں رہ گئے، گمراہوں کے عہد کا سہارا لے کر گمراہوں کے ہمراہ ہوئے اور محصور کئے گئے۔ سوئے مکہ مکرمہ رہی ہوئے۔ راہ کے اک مرحلے آکر اک محصور عالم کسی طرح رہا ہو گئے۔ آمادہ ہوئے کہ وہاں سے رہی ہوں مگر گمراہوں کے اک محلے سے اُسی محل گھائل ہو کر گرے اور اللہ کے گھر کو سدھار گئے۔

رسول اکرم کے دو دلدادہ محصور کر کے مکہ مکرمہ لائے گئے۔ گمراہوں کے لوگ مکہ مکرمہ کے مالداروں سے ملے اور ہر دو کو وہاں کے مالداروں کو مول دے کر لوٹے۔ اس طرح ہر دو مسلم مکہ والوں کے محصور ہو گئے۔

ہر دو مددگاروں سے اک عالم کو اُس کا مالک محدود
ہر دو اللہ والوں کا حوصلہ | حرم سے آگے لاکر آمادہ ہوا کہ اُس کو والد کے صلے ہلاک کرے۔ اہل مکہ کو معلوم ہوا۔ وہ حدود حرم سے آگے اس محل آکر اکٹھے ہو گئے۔ اہل مکہ کا سردار لوگوں کے ہمراہ وہاں آکر کھڑا ہوا اور کہا۔ اے رسول کے دلدادہ! ہم سے معاملہ کر لو کہ اگر دل کو گوارہ ہو۔ وہ معاملہ کر کے اس الم اور دُکھ سے رہائی حاصل کر کے گھر لوٹو اور گھر والوں سے مل کر مسرور رہو۔ مگر اس کے

لے ابو داؤد طیالسی کی روایت ہے کہ جی کے ذریعے اس کی اطلاع آنحضرت کو ہوئی اور آپ نے صحابہ کو اس کی اطلاع دی (سیرت مصطفیٰ بحوالہ بخاری ص ۶۳ ج ۱)۔ تلے حضرت عبداللہ بن طارق، زید بن دثنہ اور جنیب بن عدی رضی اللہ عنہم مشرکین کی پناہ کے وعدہ پر بھروسہ کر کے ٹیلے سے نیچے اتر آئے۔ تلے حضرت عبداللہ بن طارق کسی طرح رہا ہو گئے مگر ایک مشرک نے ایک پتھر کی سیل پھینک کر ماری اور وہ شہید ہو گئے۔ دامن سعد ص ۳۹۲، تلے حضرت زید بن دثنہ اور حضرت جنیب بن عدی۔ ۵ صفوان بن امیہ نے حضرت زید کو اپنے باپ کے قتل کے عوض قتل کرنے کے لئے خرید لیا۔ حضرت جنیب بن حارث بن عامر کے بیٹوں نے اپنے باپ کے خون کے بدلے قتل کرنے کے لئے خریدا۔ (سیرت مصطفیٰ ص ۶۰ ج ۱)۔

صلیٰ ہم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو حاصل کر کے اُس کو مادہ مسرور ہوں۔
 دلدادہ رسول اس احساس سے ہی کراہ اُٹھے اور کہا کہ ”اے اللہ کے عدو واللہ!
 ہمارے لئے مکروہ ہے کہ ہم گھروٹ کر گھر والوں کے ہمراہ ہوں اور اس کے صلی اللہ
 کے رسول کو اک سوئی لگے۔

وہ سرورِ مکہ اس کلام کو مسموغ کر کے کہ اُٹھا کہ ”واللہ! محمد کے ہمدون اور
 مددگاروں کی طرح کوئی کس کا مددگار ہو گا؟

مالِ کارکتے والوں کا حکم ہوا کہ اس کو مادہ ڈالو اور تکتے والوں کے حکم سے
 اک مملوک کھڑا ہوا اور اک واکر کے اُس مددگار رسول کو مادہ ڈالا۔

ہلاک ہوئے وہ لوگ کہ اللہ اور اُس کے رسول کے عدو ہوئے اور کامگار ہو
 گئے وہ اللہ والے کہ اللہ کی راہ کی ہلاکی گواہ کی، مگر رسول اکرم کے حکم مددگار رہے۔
 اللہ کا سلام ہو اس مددگار رسول کو کہ روح و دل ہاد کر اور اللہ اور اُس کے رسول
 کے لئے سرکنا کر دارالسلام کو راہی ہوا۔ مگر اس امر سے دور رہا کہ رسول اکرم کو کوئی
 معمولی دُکھ دے۔ (اللہ ہمارا مالک ہے اور ہر اک اُسی کے گھر لوٹے گا)۔

دوسرے دلدادہ رسول کا معاملہ

دوسرے دلدادہ رسول کا معاملہ اس طرح ہوا کہ وہ محصور ہو کر اک گمراہ کے

لے جب حضرت زید کوشید کرنے کے لئے حدودِ حرم سے باہر نغم لائے تو ابوسفیان نے حضرت زید سے پوچھا۔
 کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم کو آزاد کر دیا جائے اور تم اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش رہو اور تمہاری جگہ ہم محمد
 کی گردن مار دیں حضرت زید نے فرمایا واللہ ہمیں تو یہ بھی پسند نہیں کہ ہم آزاد ہو کر اپنے اہل میں ہوں اور آنحضرت کو
 وہاں رہتے ہوئے کاٹا بھی لگے اس پر ابوسفیان نے اعتراف کیا کہ میں نے کسی کو ایسا مخلص اور محبت نہیں
 پایا جیسا صاحبِ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو محبوب رکھتے ہیں۔ اللہ حضرت غیبیٰ کو حادث کے بیٹوں نے
 خرید لیا تھا۔ ان پر اطمینان و سرور کی عجیب کیفیت طاری رہتی تھی۔ (ابن سعد و صحیح بخاری)

گھر اک عرصہ رہے اور اس طرح سرور رہے کہ ہر دکھ اور الم اُس اللہ والے سے دور رہا۔ ہر دم اللہ واحد کی حمد و دعا سے دل کو سرور دکھا۔ مآل کار اک عرصہ اُدھر اُس دلدادہ رسول کے لئے اس گمراہ کی رائے ہوئی کہ وہ اس کو حدودِ حرم سے آگے لاکر سولی دے دے۔ لوگوں کو اس اندازے کی اطلاع دی۔ لوگ اکٹھے ہوئے اور اُس اللہ والے کو ہمراہ لے کر حدودِ حرم سے اُدھر آ گئے۔ دلدادہ رسول کو احساس ہوا کہ اُس کا لمحہ وصال آ لگا ہے اور ہر طرح کا ڈر اس سے الگ رہا اور اُس کا دُورے ٹکرم مسکراہٹ سے مرتفع رہا۔ اللہ والوں کا دل اللہ کا گھر ہے۔ وہاں اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر کہاں؟ اللہ سے وصال کا احساس اک سرمدی سرور لے کر طاری ہوا اور لوگوں سے کہا کہ لوگو! اگر گوارا کرو اس لمحہ وصال اللہ کے آگے رکوع کر کے اور سر کو ٹکا کر اس کی حمد و دعا کر لو۔ لوگوں کی آمادگی حاصل کر کے ”عمادِ اسلام“ کے لئے کھڑے ہوئے اور اللہ کے آگے سر ٹکا کر دعا گورہے۔

روح و دل کو اللہ کی حمد و دعا سے سرور کر کے اُٹھے اور کہا کہ لوگو! دل کا اصرار رہا کہ اللہ کی اس حمد و دعا کو طویل دوں۔ مگر اک احساس اُڑے ہوا کہ کہو گے دلدادہ رسول اس لمحہ وصال سے ڈر رہا ہے۔ اس لئے لوگو اٹھو اور اس دلدادہ رسول کو سولی دو۔ اس طرح کہہ کر اللہ سے دعا کی کہ:

”اے اللہ! گمراہوں کو اک اک کر کے مار ڈال۔“

مآل کار اہل مکہ کے حکم سے اُس اللہ والے کو سولی دے دی گئی۔

(ہم ساروں کا اللہ مالک ہے اور ہر آدمی اُسی کے گھر لوٹے گا)

۱۔ حضرت خبیب بن عدیؓ کو جب سولی دینے گئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے اتنی صلت دو کہ میں دو رکعت نماز پڑھ لوں چنانچہ آپ نے دو رکعت نماز پڑھا فرمائی اور سلام پھیر کر مشرکین سے کہا کہ میں نے نماز کو اس لئے طویل نہیں کیا کہ تم مجھ کو موت سے ڈر کر ایسا کر رہا ہو۔ (ابن سعد و سیرت مصطفیٰ ص ۶۰) ۲۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ میں دعا کی:

اللّٰهُمَّ احْصِ عَدَدَ اَوْقَاتِهِمْ يَدِدْ اِخْلَاقَهُمْ اَعْدَا دَاۤءِ اللّٰهِ اِنْ كَوَيْلُكَ كَرَّكَ مَا قَالِ اور کسی کو نہ چھوڑ (حوالہ بالا)۔

ولدِ عمر و الساعی کی مہم

اسی ماہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اک اور مہم ارسال کی گئی۔ اس مہم کا حال اس طرح ہے کہ اک صحرائی شہر سے اک گمراہ عامر ولد مالک حرمِ رسول اکرم رسول اکرم سے ملا۔ رسول اکرم اُس سے ملے اور امرِ اسلام اُس کے آگے دکھا اور کہا کہ اسلام اللہ واحد کی راہ ہے۔ اس لئے کلمہ اسلام کہہ کر اسلام لے آؤ۔ مگر عامر نہ کاربیا اور کہا کہ اسلام کے معنیوں کو ہمارے ہمراہ کہہ دو کہ وہ گمراہ ہمارے میسر آکر احکامِ اسلامی کا علم لوگوں کو دے اور لوگ اسلام لاکر اُس کے حامی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوا کہ ہم کو اس مصرعے کے لوگوں سے ڈر ہے کہ اہل اسلام سے دھوکہ کر کے اہل اسلام کے عدا ہوں گے۔ عامر ولد مالک کا رسول اللہ سے وعدہ ہوا کہ اگر اہل اسلام سے کوئی دھوکہ ہوا وہ اہل اسلام کے ہر حال حامی و مددگار ہوں گے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ اسلام کے معنیوں کا اک سالہ عامر کے ہمراہ راہی ہو۔ ولدِ عمر الساعی کو اس گمراہ کی سروداری کا حکم ہوا۔ اس طرح رسول اکرم کی رائے سے ساٹھ اور دس ماہر علماء اسلام عامر کے ہمراہ معمورہ رسول سے لاہی ہوئے۔

وہ لوگ معمورہ رسول سے راہی ہو کر راہ کے مراحل طے کر کے اولادِ عامر کے اک میسر آکر کے آئے۔ ادھر ہادوثی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ مددگار

اہلِ نجد میں سے عامر بن مالک ابو براء آیا۔ یہ واقعہ فقہ میر معونہ کے نام سے مشہور

ہے۔ (مخدولی) ❦

تقریباً رسول اللہ کا ایک مراسلہ لے کر اولادِ عامر کے سردار کو لاکھ دے۔ وہ مددگارِ معمورہ رسول سے راہی ہوئے اور اس گروہ سے اولادِ عامر کے اسی مہمراہ کے ملے۔ رسول اللہ کا مراسلہ لے کر وہ مددگارِ رسول اُس سردار کے آگے آئے، مگر وہ مردِ دمرِ اسلحہ لے کر اُٹھا اور اُسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور اک آدمی کو حکم ہوا کہ وہ اس مددگار کو مار ڈالے۔ اس طرح اُس سردار کے حکم سے مددگارِ رسول حرام وہاں مار ڈالے گئے۔ وہ سردار اُٹھا اور اولادِ عامر کے لوگوں سے کہا کہ اسلام کے سارے معلموں کو مار ڈالو۔ مگر عامر ولد مالک اُڑے ہوا اور کہا کہ رسول اللہ سے مرا عہد ہے کہ اسلام کے معلموں کا حامی ہوں گا۔ اولادِ عامر اس دُور سے اہلِ اسلام کی راہ سے الگ رہے۔ مگر وہ مردِ دمرِ دوسرے گروہوں کی امداد سے اہلِ اسلام کے لئے حملہ آور ہوا اور اللہ والوں کے اس گروہ کو حملہ کر کے مار ڈالا۔

عامر ولد مالک کو اس امر سے کمال دکھ ہوا کہ وہ رسول اکرم سے وعدہ کر کے مامور ہوا کہ وہ ہر طرح اہلِ اسلام کا حامی ہوگا۔ علماء سے مروی ہے کہ وہ اسی دُکھ کے احساس سے اُسی ماہِ راہی ملکِ عدم ہوا۔ اسلام کے وہ سارے معلم اس طرح دھوکے سے مارے گئے۔ مگر وہ آدمی اللہ کے حکم سے سالم رہے۔ ولدِ محمد اور عمروؓ عمرو کی رائے ہوئی کہ سونے معمورہ رسول راہی ہوں کہ رسول اللہ کو اس حال کی اطلاع ملے۔ مگر دوسرے مددگار کی رائے ہوئی کہ رسول اللہ کو اس حال کی اطلاع کسی طرح پہنچے گی۔ ہم اللہ کے اعداء سے بے خبر کہ آراء ہوں اور دوسروں کی طرح اللہ کی راہ کے لئے

۱۔ حضرت حرام بن عثمان رضی اللہ عنہ بنو عامر کے سردار عامر بن طفیل کے نام آنحضرتؐ کا مراسلہ لے کر تشریف لے گئے۔ عامر بن طفیل، عامر بن مالک کا بیٹا تھا۔ عامر بن مالک کو صحابہ کرام کی شہادت کا اتنا دکھ ہوا کہ وہ اسی غم میں اسی مہینہ مر گیا۔ (ابن سعد)

۲۔ حضرت منذر بن محمد اور حضرت عمرو بن امیہ

لڑکر دارالسلام کے حامل ہوں۔ ہر دو حملہ آور ہوتے۔ اک دلدادہ رسول اسی محل لڑکر اللہ کے گھر کو سدھارا اور دوسرا محصور ہوا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سارے حال کی اطلاع ملی اور رسول اللہ کو کمال دُکھ اور ملال ہوا۔ علماء سے مروی ہے کہ رسول اللہ سارے ماہ گمراہوں کے اُس گروہ کی رسوائی اور ہلاکی کے لئے دُعا گو رہے اور اہل اسلام کے ہمراہ عمارِ اسلام کے لئے کھڑے ہو کر گمراہوں کی ہلاکی کی دُعا کی اور رسول اکرم کو اک عرصہ اس حال کا صدمہ رہا۔

عمر کو محصور کر کے عام گھرنوٹا اور مددگارِ رسول عمرو کے مٹے سر کاٹ کر اُس کو رہائی دی اور کہا کہ اے عمرو اس لئے رہا ہوا ہے کہ مری والدہ کا عہد اللہ سے رہا کہ وہ اک مملوک کو رہا کرے گی۔ عمرو وہاں سے رہا ہو کر سوئے معمورہ رسول لوط آئے اور وہاں اکرم رسول کو اس کی اطلاع دی۔

علمائے اسلام سے مروی ہے کہ ہمد مکرّم کے رہا کردہ مملوک عامر اسی مہم کے ہمراہ رہے اور اعدائے اسلام سے لڑکر مارے گئے۔ اس اللہ والے سے اللہ کا معاملہ دوسروں سے الگ ہوا۔ وہ مردہ مٹوئے سماء اُٹھائے گئے اور گمراہوں کا سردار عامر اس حال کا گواہ ہوا۔ وہ راوی ہے کہ وہ لمحہ کہ عامر گھائل ہو کر گرے اور دارالسلام

۱۔ حضرت منذر بن محمد نے فرمایا کہ شہادت کے اس موقع کو کبوں کبوں میں ہر گز نہیں ٹھیکرہوتے (سیرت مصطفیٰ ج ۱ ص ۱۶۱)
۲۔ حضرت عمرو بن اُمیہ عمری عامل بن طفیل کے قیدی ہوئے۔ اُس نے ان کے سر کے بال کاٹ کر رہا کر دیا تو کبوتر اُس کی بال نے نذر ملی تھی لہذا غلام کو آزاد کرے گی۔ (حوالہ بالا) ۳۔ تمام علما متفق ہیں کہ آنحضرت نے یہ معجزہ کے اس المناک واقعہ کے بعد فجر کی نماز میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر حفاظت کے قاتلوں پر بددعا اور لعنت کی۔ صحیح روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کبھی آپ نے اس قسم کی دُعا نہ کی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ اس کے بعد بھی اس قسم کا قوت آپ نے کبھی نہ کیا۔ ایک ملکہ دُعا نے قوت پڑھتے رہے اور پھر ترک کر دی۔ (اصح الیورینہ مصطفیٰ ص ۱۶۱)
۴۔ حضرت عامر بن نفیرہ رضی اللہ عنہ۔ یہ وہی صحابی ہیں جو غارِ ثور کے دورِ قیام میں بکریاں وہاں لاتے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دودھ دیتے تھے۔ اپنے وقت کے اولیاء میں سے تھے۔ :-

کو سدھا رہے۔ وہ مردہ سوئے سماء اٹھائے گئے۔

وہ گمراہ کہ عامر کے لئے حملہ آور ہوا، راوی ہے کہ ادھر اُس کو گھاؤ لگا اور ادھر اُس کی صدا آئی کہ ”واللہ کامگار ہوا ہوں“ حملہ آور اس کلام کی مراد سے لاعلم رہا کہ وہ کس طرح کی کامگاری ہے کہ وہ گھائل ہو کر گر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کامگار ہوا ہوں۔ اک عالم سے وہ سارا حال کہا۔ کہا کہ عامر کی مراد کامگاری سے دارالسلام کا حصول ہے۔ حملہ آور اس حال کو سموع کر کے اُسی دم کلمہ اسلام کہہ کر مسلم ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سامع اور دوس دلدادہ کلام الہی کے ماہر رہے اور اس طرح گمراہوں کے دھوکے سے وہ سارے سارے دارالسلام کو داہی ہوئے۔ اس سے اہل اسلام کو اک دھکا لگا۔ مگر اللہ کے ارادوں کے اسرار اور حکم کا علم اللہ ہی کو ہے۔



۱۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں نے اس شخص (عامر بن فہیرہ) کو قتل ہونے کے بعد خود دیکھا کہ اُس کی لاش آسمان کی طرف اٹھائی گئی اور زمین و آسمان کے درمیان متعلق رہی اور چھ روز تک وہی گئی۔ (میرت مصطفیٰ ص ۶۳) ۲۔ حضرت عامر بن فہیرہ کے قاتل جبار بن سلمیٰ کا بیان ہے کہ جیسے ہی میں نے اُن کے نیزہ مارا اور نیزہ ان کے پیٹ میں گھسا۔ اُن کی زبان سے نکلا ”خزنت واللہ“ خدا کی قسم میں کامیاب ہوا۔ اُن کو تعجب ہوا۔ حضرت مناک بن صفیان رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اُن کی مراد یہ ہے کہ جنت کو پا لیا۔ میں یس کر مسلمان ہو گیا۔ (ابن سعد و میرت مصطفیٰ حوالہ بالا) ۳۔

دوسرے اسرائیلی گروہ سے معرکہ

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مددگار کہ گمراہوں کے گروہ کے سردار عامر سے رہا ہو کر سوئے معمورہ رسول راہی ہوئے۔ وہ راہ کے اک مرحلے اکمڑ کے، وہاں سے اولاد عامر کے دو آدمی ہمراہ ہو لئے۔ اس مددگار رسول کا امانہ ہوا کہ وہ ہر دو کو مار ڈالے کہ اس گروہ کے سردار کے دھوکے سے سارے اہل اسلام دارالسلام کو راہی ہوئے۔ راہ کے اک محل اکمڑ وہ ہر دو کے لئے حملہ آور ہوئے اور ہر دو کو مار ڈالا۔ مگر معاملہ اس طرح ہوا کہ ہر دو آدمی رسول اللہ کے معاہدہ رہے اور رسول اکرم کا ہر دو لوگوں سے عہد رہا۔ مددگار رسول عمر و اس معاہدے کے معاملے سے لاعلم رہے۔ معمورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و سلم سے سارا حال کہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد عامر کے ہر دو لوگوں کا حال معلوم ہو کر دکھ ہوا اور کہا کہ ہم کو اللہ کا حکم ہے کہ ہر دو لوگوں کا مال دم ادا ہو۔ اس لئے کہ ہر دو سے ہمارا معاہدہ رہا۔ اسی حکم کی دوسے ہر دو لوگوں کا مال دم ادا ہو۔ ایسا ہی ہوا۔

دوسرا اسرائیلی گروہ اولاد عامر کا حامی و معاہدہ رہا۔ اس لئے معاہدہ اول کی دوسے اسرائیلی گروہ مامور ہوا کہ مال دم کا اک حصہ وہ ادا کرے۔ دوسرے اسرائیلی گروہ کی طرح وہ گروہ دل سے رسول اللہ اور اہل اسلام کا عدو رہا اور سداسی

لے غزوہ بنو نضیر۔ بنو عامر بنی عامر کے حلیت تھے اس لئے میثاق مدینہ کی دوسے ٹخن بھا اور دیت کا کچھ حصہ ان کے ذمے آتا تھا۔ اسی حصے کی بابت بابت چیت کرنے کے لئے آپ وہاں تشریف لے گئے تھے۔

رہا کہ اسلام کی راہ نہ کے۔

مالِ کار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ”مالِ دم“ کے اُس حصّہ کے لئے ہمدیوں اور مددگاروں کے ہمراہ اُس گروہ کے محلّے آئے اور وہاں کے لوگوں سے ”مالِ دم“ کی ادائیگی کے لئے کہا۔ وہ لوگ صوری طور سے آمادہ ہوئے کہ وہ اس ”مالِ دم“ کے حصّے کو ادا کر کے مسرور ہوں گے۔ مگر دل سے مکاری کے لئے آمادہ ہوئے۔

رسول اللہ سے الگ ہو کر اٹھتے ہوئے اور طے ہوا کہ رسول اللہ کو دھوکے سے کسی طرح مار کر اس معاملے سے الگ ہوں۔ رسول اکرم اک محل کے سائے وہاں نہ کے رہے کہ وہ لوگوں سے ”مالِ دم“ کا حصّہ لے کر معمورۃ رسول کے لئے جاسی ہوں۔ اُدھر طے ہوا کہ کوئی آدمی اُس محل کے کوٹھے آئے اور وہاں سے اک مرمر کی سیل اس طرح گرا دے کہ وہ رسول اللہ کے سر کو آگے۔ اک اسرائیلی عالم سلام اُٹھا اور کہا کہ لوگو! اس کام سے الگ رہو، وہ اللہ کا رسول ہے۔ اس کو وحی سے اس ارادے کا علم ہو کر رہے گا۔ مگر وہ لوگ اُسی طرح اڑے رہے اور اُسی رائے کو طے کر کے اُٹھے۔

اُدھر ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے واسطے سے گروہ کے اس مکروہ ارادے کا علم ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اس طرح اُٹھے کہ معلوم ہو کہ کسی کام سے اُٹھے اور وہاں سے معمورۃ رسول آگئے اور رسول اللہ کے سارے ہمراہی اُسی محلّے رہ گئے۔

سید بنو نضیر نے بظاہر تو آمادگی ظاہر کی کہ وہ خوشی سے دیت ادا کریں گے مگر خفیہ طور پر طے کیا کہ رسول اللہ جس محل کی دیوار کے سائے میں بیٹھے ہیں اُس محل کے اوپر سے کوئی آدمی بڑا پتھر اڑھا دے تاکہ نصیب دشمنان آپت دب کر مر جائیں۔ سید یہودی عالم سلام بن شکم نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں انہیں ضرور معلوم ہو جائے گا۔ (سیرت مصطفیٰ ص ۱۱۷) ۛ

سارے ہمد و مددگار اس امر سے لاعلم رہے اور اک عرصہ وہاں رُکے رہے، مگر اک عرصہ ٹھہر کر معمورہ رسول لوٹ آئے۔ گروہ کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کا رسول سارے حال سے مطلع ہوا ہے۔ اصرار ہوا کہ مال دم کا معاملہ کر لو۔ مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوا کہ ہم کو اس گروہ کے وعدے کا حال معلوم ہے۔

معمورہ رسول لوٹ کر ہمدیوں اور مددگاروں کو اُس گروہ کے اس مکروہ ارادے کی اطلاع دی اور محمد ولد مسلمہ کو حکم ہوا کہ وہ اُس گروہ کے محلے کے لئے راہی ہو اور کہہ دے کہ رسول اللہ کا حکم ہے کہ وہ سارا گروہ آدھے ماہ کے عرصہ کے ادھر سارے اموال و املاک لے کر معمورہ رسول سے راہی ہو اور اگر وہ اس حکم کے عمل سے عادی رہے اور اس لمحہ موعود کے آگے کوئی آدمی وہاں رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اُس گروہ کا ہر آدمی ہلاک ہوگا۔

محمد ولد مسلمہ حکم رسول لے کر وہاں گئے۔ سارے گروہ کے لوگ ڈرے اور آمادہ ہوئے کہ کسی دوسرے بھر کے لئے راہی ہوں۔ مگر مکاروں کے گروہ کے سردار و لیدر رسول سے امداد کا وعدہ ملا کہ وہ سارا گروہ لے کر اُس گروہ کا حامی ہوگا اور اُس کی مدد کرے گا اور دوسرے گروہوں کو آمادہ کرے گا کہ وہ ہمراہ ہو کر اہل اسلام سے معرکہ آراء ہوں۔

لے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نضیر کو مہلت دی کہ وہ دس دن کے اندر اندر مدینہ منورہ خالی کر کے جلاوطن ہو جائیں۔ بعض روایات میں ہے کہ پندرہ دن کی مہلت دی گئی۔ عبد اللہ بن ابی سلول نے اُن لوگوں کو اکسا یا کہ وہ جلاوطنی سے انکار کریں اور ہم بنو قریظہ کو تمہاری مدد کے لئے آئیں گے۔ (اصح السیر)

اس وعدے سے اُس گروہ کا حوصلہ بڑھا ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم سے کوئی سلوک کر لو۔ امیر محال۔ ہے کہ ہم معمولہ رسول سے الگ ہوں۔

ہادثنیٰ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ سرگردہ مددگار اور ہمد اکٹھے ہوں۔ سارے لوگوں سے کہا کہ وہ گردہ لڑائی کے لئے آمادہ ہے اور معاہدے سے روگرداں ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ اہل اسلام لڑائی کے لئے آمادہ ہوں۔

اسرائیلی گروہ کا محاصرہ

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کئی سولوگ اس مہم کے لئے اکٹھے ہو گئے۔ اک مددگار کو حکم ہوا کہ وہ معمولہ رسول کے امور کے والی ہوں اور عسکر اسلامی کا علم علی کریم اللہ کو دے کر حکم ہوا کہ اُس گروہ کے محلے کے لئے رہا ہوں۔

اُدھر اسرائیلی گروہ کو معلوم ہوا کہ عسکر اسلام حملہ آور ہو رہا ہے۔ وہ ڈر کر گھروں اور محلوں کے کواڑ لگا کر محصور ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عسکر اسلامی سارے محلے کا محاصرہ کر کے وہاں رکھا رہا۔

کئی علماء سے مروی ہے کہ اس محاصرے کا سلسلہ کوئی آدھے ماہ رہا اور مکتادوں کا گروہ اہل اسلام کے ڈر سے اُس گروہ کی امداد سے الگ رہا۔ اسرائیلی گروہ کے سرگردہ لوگوں کی اُس ٹوٹ گئی کہ کوئی گروہ اس کی امداد کے لئے آئے گا۔ دوسرے اس محاصرے سے وہ کمال گراں حال ہوئے۔ اس لئے گروہ کے لوگوں کی رائے بھٹی کہ رسول اللہ کے حوالے ہو کر معمولہ رسول سے

راہی ہوں اور کسی دوسرے میرا کر وار دہوں۔

مخلفوں کے درگھلے اور گروہ کے سرکردہ لوگ آگے آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دُعا گو ہوئے کہ اس گروہ سے رحم کا سلوک ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ اسلحہ کے سوا وہ اموال کہ اک سواہی لا دسکے ہمراہ لے کر معمورۃ رسول سے راہی ہوئے۔

وہ لوگ ساعی ہوئے کہ سارے گھروں کو سماسا کر کے راہی ہوں۔ اس طرح وہ سارا گروہ دوسو کم آٹھ سو سواہی کے ہمراہ معمورۃ رسول سے راہی ہو کر دوسو کوس دور اُس بڑھ کر ٹھہرا کہ وہاں اس گروہ کے کئی سو لوگ اقل ہی آکر وارد ہوئے۔ اس طرح اہل اسلام کو اس گروہ کے مکروہ ادادوں سے رہائی ملی۔ محمد ولد مسلمہ اس محلے کے والی ہوئے۔ اس گروہ کا سارا اسلحہ اہل اسلام کو ملا۔

اس معرکے سے حاصل کردہ سارے اموال اللہ کے حکم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لئے ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مددگاروں سے ہمکلام ہوئے اور کہا کہ اے مددگاروں کے گروہ! اگر سارے لوگوں کی رائے ہو، اس معرکے سے حاصل کردہ اموال معمول کی طرح سارے ہمدیوں اور مددگاروں کو حصہ مساوی سے ادا کر دوں اور اگر رائے ہو

لے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نضیر کو مہلت دی کہ اسلحہ کے علاوہ ہموال اُونٹ لا د سکیں وہ ساتھ لے لو۔ (طبقات ابن سعد ص ۱۷۱) سہ بنو نضیر مدینہ منورہ سے جلا وطن ہو کر ”خیبر“ میں آکر مقیم ہوئے۔ غزوہ خیبر ان ہی لوگوں سے ہوا۔ (سیرت مصطفیٰ) سہ غزوہ بنو نضیر کے مال غنیمت تمام کے تمام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لئے خاص رہے۔ اس میں خمس وغیرہ نہیں نکالا گیا (ابن سعد ص ۱۷۱) ❦

سارے ہمدیوں کو دے دوں کہ وہ آسودہ حال ہوں اور مددگاروں کے گھروں سے الگ ہوں۔

سارے مددگار کھلے دل سے آمادہ ہوئے اور کہا۔

» اے رسول اللہ! وہ سارے اموال ہمدیوں کو دے دو اور وہ معمول کی طرح ہمارے ہمراہ رہ کر ہمارے اموال کے الگ حقدار ہوں «

مددگاروں کے اس عمدہ سلوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرور ہوئے اور دعا دی کہ۔

» اے اللہ! مددگاروں کو اور مددگاروں کی اولاد کو رحیم الہی کا حاصل کر «



لے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا دی : اللّٰهُمَّ اَرْحَمْ الْاَنْصَارِ
وَابْنَاءَ الْاَنْصَارِ (اے اللہ! انصار اور انصار کی اولاد پر رحم فرما۔)
(سیرت مصطفیٰ ص ۶۱۶ ج ۱) •

رسول اللہ کا اک اور معرکہ

اسرائیلی گروہ کے معاملے کو طے کر کے رسول اکرم اک ماہ سے سوا معمورہ رسول ہی ٹھہرے رہے۔ اسرائیلی گروہ کا معرکہ اس سال کے ماہ سوم کو ہوا۔ اگلے ماہ اطلاع ملی کہ اک صحرائی مصر کے کئی گروہ اکٹھے ہو کر لڑائی کے لئے آمادہ ہوئے۔ رسول اکرم کا ارادہ ہوا کہ وہ اہل اسلام کو ہمراہ لے کر گروہوں سے معرکہ آرائی کے لئے اسی ہوں۔ اس لئے رسول اللہ کے داماد اور اسلام کے حاکم سوم کو حکم ہوا کہ وہ معمورہ رسول کے والی ہوں اور کوئی اٹھ سوا اہل اسلام کو ہمراہ لے کر اس مصر کے لئے راہی ہوں۔ راہ کے مراحل طے کر کے اس مصر آئے۔ مگر اعداء کو اول ہی عسکر اسلامی کی آمد کی اطلاع مل گئی اور وہ حوصلہ ہار کر ادھر ادھر ہو گئے۔

امام مسلم راوی ہوئے کہ رسول اکرم اک سائے دار محل آکر آرام کے لئے سو گئے۔ وہاں اک گمراہ کسی طرح اکھڑا ہوا اور حسام لے کر کھڑا ہوا اور کہا کہ کہو! ہمارے اس حملے سے کس طرح رہا ہو گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ ہم کو اس حملے سے رہا کرے گا۔ اس کلام رسول سے اُس کو ڈر طاری ہوا اور اُس کی حسام ڈر سے گر گئی۔ رسول اللہ آگے آئے اور وہ حسام اٹھالی اور کہا کہ

لے غزوہ ذات الرقاع۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ اس کو ذات الرقاع اس لئے کہتے ہیں کہ لوگوں کے اس غزوے میں چلتے چلتے پاؤں پھٹ گئے تھے اور مسلمانوں نے پاؤں کو کپڑے لپیٹ لئے تھے۔ (سیرت مصطفیٰ ص ۶۱۸ ج ۱) لے معلوم ہوا کہ نجد کے قبیلے بنی محارب اور بنی ثعلبہ مقابلہ کے لئے لشکر جمع کر رہے ہیں (حوالہ بالا) لے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لے بعض روایات میں تعداد چار سو اور بعض میں سات سو بھی ہے۔ :-

”کہو کوئی ہے کہ ہمارے اس حملے سے دُور رکھے؟“
 وہ گمراہ کمال ڈرا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمدہ سلوک ملا اور
 وہاں سے رہا ہو کہ گھر کو دوڑا۔
 علماء کی رائے ہے کہ وہ گھرا کر مسلم ہوا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دلدادہ مامور ہوئے کہ درہ کوہ کے
 اگے مسلح ہو کر کھڑے ہوں کہ ادھر سے گمراہوں کے حملے کا ڈر دُور ہو۔ عمارؓ اور
 عمارؓ اس کام کے لئے درہ کوہ آکر کھڑے ہوئے اور طے ہوا کہ ادھا عرصہ اک
 آدمی سوتے اور دُوسرا کھوالی کرے۔ اسی طرح اول آدمی سو کر اُٹھے اور
 رکھوالی کرے اور دُوسرا سوتے۔

عمارؓ اول سو گئے اور عمارؓ رکھوالی کے لئے کھڑے ہو گئے اور دل سے
 کہا کہ ”عمارؓ اسلام“ ادا کر کے اللہ سے حمد و دعا کروں۔ عمارؓ اسلام کے لئے
 کھڑے ہو گئے۔

ادھر اعدائے اسلام کے کئی سپاہی کار آئے۔ عمارؓ کو اک سپاہی مارا مگر وہ
 مجروح و دُعا رہے۔ دُوسرا سپاہی آکر لگا، مگر وہ اسی طرح مجروح و
 دُعا رہے۔

مالِ کار عمارؓ اسلام کو مکمل کر کے ہمراہی عمارؓ کو صدادی کہ اُٹھو گھائل
 ہوا ہوں، اس سپاہی کو الگ کرو۔

عمارؓ اُٹھے، عمارؓ لہو لہو ہو گئے۔ مگر عمارؓ کو کہاں گوارا کہ وہ اللہ کی

حمد و دعاء سے دُور ہو کر ”سہام“ کے گھاؤ اور اُس کے الم کے لئے
محو ہوں۔

اگلی سحر ہوئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل اسلام کو لے کر
سُونے معمورہ رسول راہی ہوئے۔



۱۰ حضرت عماد مبنی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی نیت باندھ لی۔ مشرکین میں سے کسی نے
تیر چلایا جو نشانہ پر لگا، مگر وہ نماز میں مشغول رہے۔ کافر نے دوسرا تیر مارا۔ پھر بھی نماز جاری
رہی۔ جب تیسرا تیر لگا تو اندیشہ ہوا کہ کہیں دشمن حملہ نہ کر دے اور ہمارے وہاں پہرہ دینے کا
مقصد ہی فوت ہو جائے۔ اس لئے نماز مختصر کر کے ساتھی کو جگایا۔ دیکھا کہ خون جاری ہے
پوچھا کہ پہلے ہی تیر پر کیوں نہ جگادیا؟ فرمایا کہ میں قرآن کریم کی ایک سورت پڑھ رہا تھا۔
مجھے اچھا نہ لگا کہ اس کو قطع کر کے نماز پوری کر لوں۔ خدا کی قسم! اگر رسول اللہ کے حکم کا خیال نہ
ہوتا تو نماز مکمل ہونے سے پہلے میری جان ختم ہو جاتی۔ (سیرت مصطفیٰ ص ۶۱۹ بحوالہ طبری) :-

معرکہ موعہ

معرکہ اُحد کے احوال کے ہمراہ مسطور ہوا کہ گمراہوں کا سردار اہل اسلام کو دھمکی دے کر سوئے مکہ راہی ہوا کہ وہ اگلے سال اُسی محل آکر معرکہ آراء ہوگا کہ وہاں معرکہ اول ہوا۔ اُس سے رسول اکرم صلی اللہ علیٰ رسولہ وسلم کا وعدہ ہوا کہ وہ اگلے سال عسکر اسلامی کوئے کرب و ہاں کے لئے راہی ہوں گے۔

معرکہ اُحد کو اک سال مکمل ہوا۔ اُدھر مکے والوں کا سردار آمادہ ہوا کہ لڑائی کے اُس وعدے کا معاملہ کسی طرح لڑائی سے الگ رہ کر ہی طے ہو۔ حالی گروہوں کو لکھا کہ معرکہ اول کو اک سال مکمل ہوا۔ اس لئے سارے مل کر مکہ مکرمہ آؤ کہ معرکہ آرائی کے لئے راہی ہوں۔ کئی گروہ مسلح ہو کر لڑائی کے ارادے سے مکہ مکرمہ آ گئے۔ مکے والوں کا سردار اک دوسرے گروہ کے سردار ولید مسعودؓ سے ملا۔ اور کہا کہ محمد (صلی اللہ علیٰ رسولہ وسلم) سے معرکہ اُحد کے سال ہمارا وعدہ ہوا کہ ہم وہاں آکر معرکہ آراء ہوں گے۔ مگر اس سال گراں سالی ہے۔ اس لئے ہمارا ارادہ ہے کہ اس سال لڑائی کا معاملہ سر سے الگ ہو۔ اگر اہل اسلام کو معلوم ہوا کہ ہماری آمادگی لڑائی کے لئے کم ہے وہ مسرور ہوں گے کہ ہم لڑائی سے ڈر گئے۔ اس لئے اک کام کرو کہ معمودہ رسول کے لئے راہی ہو اور وہاں رہ کر لوگوں

۱۔ غزوہ اُحد سے لوٹتے وقت ابوسفیان نے دہلی دی تھی کہ اگلے سال بدر میں لڑائی ہوگی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا۔ اس لئے اس غزوہ کو غزوہ بدر الموعود یا بدر ثانی کہتے ہیں۔ ۲۔ نعیم بن مسعود الأشجعی - ۳۔ مکہ مکرمہ میں وہ خشک سالی کا زمانہ تھا۔

کو ہمارے اسلحہ اور ہمارے عدد کا حال ہر آدمی سے اس طرح کہو کہ سارے لوگوں کے دلوں کو ہمارا ڈر طاری ہو اور وہ ڈر کر معرکہ آرائی کے ارادے سے الگ ہوں۔ سرورِ مکتہ کا وعدہ ہوا کہ وہ اس کے صلے اُس کو اموال دے کہ مسرور کرے گا۔ وہ سرور اس کام کے لئے معمورہ رسول کے لئے راہی ہوا اور وہاں آکر لوگوں سے طرح طرح کے احوال کہہ کر رائے دی کہ اس سال مکے والوں سے معرکہ آرائی کے ارادے سے دور رہو۔ اس سے لوگوں کو معمولی ہراس ہوا۔ مگر معاً ہی اللہ کی امداد کے احساس سے دل معمور ہوا اور کہا کہ :-

”اللہ ہمارے امور کا مالک ہے اور وہی سارے مددگاروں سے سوا ہمارا مددگار ہے“

ہمد گرامی عمر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آئے اور اطلاع دی کہ لوگ مکے والوں کے احوال معلوم کر کے اس طرح ہراساں ہو گئے۔ رسول اکرم اُٹھے اور کہا کہ :-

”کوئی حال ہو، اللہ کا رسول اس معرکہ کے لئے لامحالہ راہی ہو گا۔“

اس آمادگی رسول کو معلوم کر کے اللہ والوں کے حوصلے سوا ہو گئے اور وہ ہر طرح آمادہ ہوئے کہ رسول اللہ کے ہمراہ ہوں۔ اس طرح سو کم سولہ سو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوئے۔ ولدِ رواحہ رسول اللہ کے حکم سے

ابو نعیم بن مسعود الاشجعی مدینہ منورہ آکر رہا اور وہاں رہ کر لوگوں میں مکے والوں کی طاقت و شوکت کا خوب چرچا کیا۔ مگر مسلمانوں کے دل اور پکے ہو گئے اور اللہ پر اُن کا ایمان اور بٹھ گیا اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ کر اس غزوے کے لئے تیار ہو گئے۔ قرآن کریم کی اس بارے میں آیات نازل ہوئیں جن میں صحابہ کرام کی مدد اور جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کے لئے وعید آئی ہے۔

معمورہ رسول کے والی ہوئے اور عسکرِ اسلامی رسول اللہ کے ہمراہ معمورہ رسول سے
 رہا ہی ہوا۔ علی کرمہ اللہ کو اس عسکرِ اسلامی کا علم ملا۔

ادھر گمراہوں کے سردار کو معلوم ہوا کہ عسکرِ اسلامی ہر طرح لڑائی کے لئے آمادہ
 ہے، وہ دوسو اور اٹھارہ سو لوگ ہمراہ لے کر مکہ سے رواں ہوا۔ مگر اُس کا دل
 لڑائی کی آمادگی سے عاری رہا۔

ماہ کے اک مرحلے اکڑ کا اور کہا کہ گراں سالی سے ہمارا حال اول ہی گراں
 ہے اور اس لڑائی سے حال اور دگر ہو گا۔ اس لئے ہماری رائے ہے کہ لڑائی
 سے الگ رہو اور اسی مرحلے سے گھروں کو لوٹ لو۔ عسکر کے دوسرے لوگ اُس
 کے ہم رائے ہوئے اور اُسی مرحلے سے سوئے مکہ کمرہ لوٹ گئے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل اسلام کو لے کر معرکہ اول کے محل اُٹے
 اور اک عرصہ وہاں رُکے رہے۔ مگر احساس ہوا کہ مکے والے حوصلہ ہاد گئے۔ اس لئے
 عسکرِ اسلامی کو ہمراہ لے کر معمورہ رسول آ گئے۔

اس طرح اللہ کے رسول کا وعدہ مکمل ہوا کہ ہم اگلے سال معرکہ اُرائی کے لئے
 رہا ہی ہوں گے اور مکے والے اس وعدے سے روگرداں ہو گئے۔

معرکہ دوم

اس معرکہ کا اسم دومہ اس لئے ہوا کہ مہرِ محض کے ادھر دومہ اسم کا اک
 حصار ہے۔ وہاں گمراہوں کے کئی گروہ لڑائی کے امداد سے اکٹھے ہوئے۔
 ہادشی اکرم کو اس کی اطلاع ملی۔ رسول اکرم دس سو دلدادہ لوگوں کو ہمراہ لے کر سوئے

لے اس غزوے کو دومۃ الجندل کہتے ہیں، شہرِ محض کے قریب دومۃ الجندل ایک قلعہ کا نام ہے (طبقات ابن سعد)۔

تخص راہی ہوئے، مگر گمراہوں کو اطلاع ہو گئی کہ عسکر اسلامی معمورہ رسول سے راہی ہو کر دُومرہ آ رہا ہے۔ وہ عسکر اسلامی کی آمد سے اُدھر ہی گاؤں گوٹوں سے راہی ہو کر دُومرے امصار کو راہی ہوئے۔ ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم عسکر اسلامی کے ہمراہ دُومرہ آ کر ٹھہرے۔ مگر ہر گروہ لڑائی کے حوصلے سے محروم رہا۔ رسول اکرم اک عرصہ وہاں اُکے رہے اور اندگرد کے گاؤں گوٹوں کو اہل اسلام کے کئی رسالے ارسال ہوئے۔ مگر اللہ کے رسول کا ڈر دلوں کو طاہری ہوا۔ اک اُدی گمراہوں کا محصور ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام الہی مسموع کر کے مسلم ہوا۔ اس سے اطلاع ملی کہ سارے گروہ لڑائی کے لئے آمادہ ہوئے۔ مگر گروہوں کو اطلاع ملی کہ معمورہ رسول سے اسلامی عسکر معرکہ لڑائی کے ارادے سے رواں ہوا وہ سارے گروہ اس طرح ڈر گئے کہ سارے لوگ گاؤں گوٹوں سے راہی ہو کر وڈکر ممالک و امصار کو راہی ہو گئے۔

اس طرح رسول اکرم معرکہ دُومرہ سے معمورہ رسول لوٹ کر آئے اور دُومرہ اور اُس کے اندگرد کے سارے گروہوں کے حوصلے اک عرصہ کے لئے سرد ہو گئے۔



۱۔ وہاں اک مردار گرفتار ہو کر آیا۔ اس سے یہ تفصیل معلوم ہوئی (طبقات ابن سعد ص ۱۶۷)

۲۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ۲۰ ربیع الثانی ۶ھ کو غزوہ

دومۃ الجندل سے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ (حوالہ بالا) :-

گمراہوں سے اک اور معرکہ

اسی سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اک اور معرکے کے لئے روانہ ہوئے۔ ماہ صوم سے اک ماہ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ اک گروہ کا سردار اک عسکر کو ہمراہ کر کے آمادہ ہوا کہ وہ معمورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حملہ آور ہو۔ اک دلدادہ رسول سلمی کو حکم ہوا کہ وہ اُس گروہ کا حال معلوم کر کے دوڑ کر معمورہ رسول لوٹے۔ دلدادہ رسول سلمی اس ہجر کے لئے راہی ہوئے اور وہاں اک سارے احوال سے آگاہ ہو کر معمورہ رسول لوٹے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ گروہ لڑائی کے لئے آمادہ ہو رہا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساعی ہوئے کہ اہل اسلام کا عسکر دوڑ کر اس گروہ کے لئے حملہ آور ہو۔ عسکر اسلامی کے دو علم ہوئے۔ اک ہمدیوں کا علم اور دوسرا مددگاروں کا۔ ہمدیوں کے علمدار ہمدی مکرّم ہوئے اور مددگاروں کا علم مددگار رسول سعد کو ملا۔ عسکر اسلامی کے وسطی حصے کی سرداری ہمدی رسول عمر کو ملی، اس طرح ہر طرح آمادہ ہو کر عسکر اسلامی معمورہ رسول سے راہی ہوا۔ ہمدی مکرّم کی لڑکی اور رسول اللہ کی عروس مطہرہ رسول اللہ کے ہمراہ ہوئی۔

راہ کے اک مرحلے پر گمراہوں کا اک آدمی ملا کہ عسکر اسلام کے احوال کے حصول

لے غزوہ مصطلق۔ اسی کو غزوہ مریج بھی کہتے ہیں مصطلق بنی خزاعہ کے ایک شخص کا لقب تھا۔ ربطات ابن سعد سیرت مصطفیٰ ص ۲۶۷۔ اس واقعہ کے بعد سیرت مصطفیٰ کے جتنے حوالے درج ہیں وہ سب جلد دوم کے لئے گئے ہیں۔ (محمد ولی)

لے مصطلق کا سردار حارث بن ابی ہزار لے حضرت بریدہ ابن الحصیب الاسلمی۔

لے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کے لئے وہاں سے راہی ہوا۔ اہل اسلام اس کو محصور کر کے رسول اکرمؐ کے آگے لائے اور رسول اکرمؐ کے حکم سے اُس کو مار ڈالا۔

ادھر گمراہوں کو معلوم ہوا کہ ہمارا آدمی اہل اسلام کا محصور ہو کر راہی ملک عدم ہوا اور معلوم ہوا کہ عسکرِ اسلامی دوڑ کر ادھر آ رہا ہے۔ اُس سردار کے حامی گروہ ڈر کر اُس سردار سے الگ ہوئے اور سردار کے آدمی اُس کے ہمراہ رہ گئے۔ عسکرِ اسلامی اس طرح دوڑ کر وہاں وارد ہوا کہ سردار کو علم رکھ کر اُس گروہ کے لئے حملہ آور ہوا۔ معمولی لڑائی ہوئی اور مالِ کار عسکرِ اعداء حوصلہ ہار کر معرکہ گاہ سے دو گروہاں ہو کر دوڑا، اعداء کے دس آدمی مارے گئے اور گروہ کے دوسرے لوگ سارے کے سارے اہل اسلام کے محصور ہوئے۔ گروہ کے سارے اموال اہل اسلام کو ملے۔ علماء سے مروی ہے کہ اس معرکہ سے گمراہوں کے دو ہوا سرے محصور ہوئے۔

اک ملوکہ سے رسول اللہؐ کی عروسی

دوسرے محصوروں کے ہمراہ گروہِ اعداء کے سردار کی لڑکی محصور ہو کر آئی اور اک مددگارِ رسول کے حصے آکر اُس کی ملک ہوئی۔ اہل اسلام کے ہمراہ رہی اور اسلامی اطوار و سلوک سے اُس کا دل اسلام کے لئے مائل ہوا۔ اُس کے مالک مددگارِ رسول کا اُس لڑکی سے وعدہ ہوا کہ اگر وہ مال کا اک حصہ محدود ادا کر دے تو وہ اُس کو رہا کر دے گا۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے

لے اس غزوے میں مسلمانوں کو دو ہزار اونٹ اور پانچ ہزار بکریاں ہاتھ آئیں اور دو موگراتے قید ہوئے۔ (سیرت مصطفیٰ ص ۲۷۲) حضرت جوہرہ رضی اللہ عنہا بنو مصلح کے سردارِ عارث کی لڑکی تھیں اور قیدیوں میں شامل تھیں اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئی تھیں۔ انہوں نے حضرت جوہرہ سے مکاتبت کر لی تھی۔ (سیرت مصطفیٰ ص ۲۷۲) ❦

آگے آئی اور کہا کہ

» اے رسول اللہ! گروہ اعداد کے سردار کی لڑکی ہوں اور محصور ہو کر
عسکر اسلام کے ہمراہ آئی ہوں اور اک مددگار رسول کی ملک ہو گئی
ہوں اُس کا وعدہ ہوا ہے کہ اگر اک حصہ مال کا اُس کو ادا کر دوں
وہ ہم کو رہا کر دے گا۔

اے اللہ کے رسول! اللہ کا کرم اس مملوکہ کو حاصل ہوا اور دل سے
اسلام کے لئے آمادہ ہوں اور گواہ ہوں کہ اللہ واحد ہے اور محمد
اللہ کا رسول ہے۔ اے اللہ کے رسول! مال سے محروم ہوں اور
اللہ کے رسول سے امداد کا سوال لے کر آئی ہوں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اُس مملوکہ کے سارے احوال سے آگاہ
ہوئے اور اُس سے کہا کہ اس مملوکہ سے مال کی ادائیگی سے سوا عمدہ سلوک ہوگا
اگر داتے ہو اُس مددگار کو مال ادا کر دوں۔ اُس سے رہا ہو کر اللہ کے رسول
کی عروس ہو کر اُس کے گھر آؤ۔ اُس مملوک کو اس عمدہ سلوک سے کمال سرد ہوا اور
کہا کہ اے رسول اللہ! اس معاملے کے لئے آمادہ ہوں۔ اس طرح وہ اللہ والی
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عروس ہو کر رسول اللہ کے گھر آئی اور سارے
مسلموں کی ماں ہوئی۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدردوں اور مددگاروں کو معلوم ہوا کہ
سردار کی لڑکی رسول اللہ کی اہل ہو گئی۔ احساس ہوا کہ گروہ کے سارے محصور
رسول اکرم کے سسرالی ہو گئے۔ اس لئے سارے لوگوں کو مکر وہ معلوم ہوا کہ رسول اکرم

لہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاتا ہوں، وہ یہ کہ تمہاری مکاتبت کا مال ادا کر دوں
اور تم کو رہا کر کے تم کو اپنی ذہبیت میں لے لوں۔ (سیرت مصطفیٰ ص ۷۲۶) ۵۵

کی سسرال اہل اسلام کی محصور ہو کر رہے۔ اس لئے سارے محصور رہا ہو گئے اور محصوروں سے کہا کہ لوگو! رسول اللہ کی سسرال ہو کر ہمارے لئے مکرم ہو گئے ہو اس لئے رہا ہو کر گھروں کو لوٹو۔

اللہ اللہ! وہ لوگ کس طرح اللہ اور اُس کے رسول کے لئے بیٹ کر رہے کہ اہل عالم کو اک اُسوہ دے گئے کہ ہمدی اور مددگاری کا معاملہ اس طرح کرو۔ ہر ہر لمحہ اس امر کے لئے سعی رہے کہ اللہ اور اُس کے رسول کا دل ہر طرح رسول اللہ کے مددگاروں اور ہمدیوں سے مسرور رہے۔ معلوم رہے کہ اس معرکے کے لئے مال کا نگاری کی طبع سے مکاروں کے گردہ کے لوگ رسول اکرم کے ہمراہ رہے۔

اک ہمدی اور اک مددگار کی لڑائی

راہ کے اسی مرحلے اک اور امر اس طرح ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے دکھ اور ملال ہوا۔ ماہِ طاہر کے کسی مسئلے کے لئے کسی مددگار اور کسی ہمدی کی لڑائی ہو گئی۔ ہمدی مددگار اک دوسرے سے لڑے اور ہمدی رسول کی صدا آئی کہ

”اے ہمدی! مدد کے لئے آؤ!“

اُدھر مددگار کی لڑاکا مددگاروں کے لئے اُٹھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صدا مسنوع ہوئی۔ کہا کہ

”وہ لاعلموں کی سی صدا کہاں سے اُٹھی؟“
لوگ اُگے اُٹے اور کہا کہ اک ہمد اور اک مددگار کی اک دوسرے سے
لڑائی ہو گئی ہے۔

کہا کہ

”اس طرح کے مکروہ معاملوں سے الگ رہو۔“
مکادوں کا سردار ولید سلول اس لڑائی سے مسرور ہوا اور کہا کہ سارے
ہمد ہمارے حاکم ہو گئے اور کہا کہ
”واللہ! معورہ رسول آکر علو والا گروہ، رسوا گروہ کو معورہ رسول
سے دُور کر دے گا۔“

اُس کے اس مکروہ کلام کے لئے کلام الہی وارد ہوا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اُس کے اس مکروہ کلام کی اطلاع ہوئی
عمر مکرم اُٹھے اور کہا کہ اے رسول اللہ! اگر حکم ہو، اس مکار کو مار ڈالوں۔“
حکم ہوا کہ اس ارادے سے دُور رہو۔ لوگوں کو اس کی اطلاع ہو گئی۔ ہر آدمی
کہے گا کہ اللہ کے رسول کا اُس کے مددگاروں سے اس طرح کا سلوک ہے۔ لوگوں
کو اصل معاملے کا علم کہاں ہو گا؟

اللہ اللہ! ولید سلول رسول اللہ کا مددگار کہاں؟ اُنٹا ساری عمر عدو ہی رہا۔ مگر
اس لئے کہ وہ رسول اللہ کے مددگاروں کے ہمراہ رہ کر مددگاروں ہی کی طرح رہا،

۱؎ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا: دَعَوْهَا فَإِنَّمَا هُنَّ نَجَاتٌ “ان باتوں کو
چھوڑو۔ بے شک یہ باتیں گندی اور بدبودار ہیں۔“ (سیرت معلق ص ۲۶۷)
۲؎ عبداللہ بن ابی نے کہا خدا کی قسم! مدینہ پہنچ کر عزت والادآت دالے کو نکال باہر کرے گا۔
قرآن کریم میں ارشاد ہوا لَمَّا رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعْرَابَ مِنْهَا الْأَوَّلَ ۖ

اس لئے ہلاکی کے مال سے دُور رہا۔ صالح لوگوں کی ہمراہی گو صوری طور ہی سے سی
کامگاری کا سودا ہے۔

ولید سلول کا لڑکا کہ اول ہی سے اسلام لاکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کا مددگار رہا، اُس کو معلوم ہوا، وہ اُٹھا اور والد کے آگے اڈٹا اور کہا کہ کہو
کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا گروہ علود والا گروہ ہے اور اُس کے اعداء کا
گروہ رسوائی والا گروہ ہے۔“

معمورہ رسول اکرم ولید سلول کا لڑکا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے
اُکر کھڑا ہوا اور کہا کہ

”اے رسول اللہ! معلوم ہوا ہے کہ ولید سلول کی ہلاکی کا حکم صادر ہو
رہا ہے اگر اس طرح کا حکم ہو، اے رسول اللہ! اس مددگار سے کہو
کہ وہ اللہ اور اُس کے رسول کے حکم سے والد کے سر کو کاٹ کر لائے۔“
مگر رسول اکرم کا حکم ہوا کہ اس سے عمدہ سلوک کرو۔



۱۰ حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن ابی کویہ فقہ معلوم ہوا وہ باپ کو بچہ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اقرار کرو
کہ آنحضرت عزت والے ہیں اور تم ذوات والے ہو۔ (سیرت مصطفیٰ ص ۲۰۷)

عروسِ مطہرہ کے لئے اک مکروہ کارروائی

عسکرِ اسلام سوئے معمورہ رسول راہی ہوا۔ معمورہ رسول سے کئی کوس ادھر اک مرحلے آکر رکا۔ وہاں اک اور معاملہ اس طرح کا ہوا کہ اس سے اہل اسلام کو عموماً اور ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کو اہم طور سے دلی دکھ اور صدمہ ہوا۔

رسول اکرمؐ کی عروسِ مطہرہ اور ہمد مکرم کی لڑکی سارا عرصہ رسول اللہ کے ہمراہ رہی۔ عروسِ مطہرہ کے لئے اک محل الگ رہا۔ راہ کے اس مرحلے آکر عسکرِ اسلام رکا۔ عروسِ مطہرہ کا ارادہ ہوا کہ عسکر کی وردگاہ سے دور طہرہ کے حصول کے لئے راہی ہو۔ محل سے الگ ہو کر عروسِ مطہرہ وردگاہ سے ہونے صحرا راہی ہوئی۔ عسکرِ اسلامی کے لوگ اس امر سے لاعلم رہے کہ عروسِ مطہرہ محل سے الگ ہے۔

ادھر عسکرِ اسلامی کو علم ہوا کہ وہ اس مرحلہ سے راہی ہو۔ لوگ آئے اور محل کو اٹھا کر سوار کر کے الگ ہوئے اور لاعلم رہے کہ محل عروسِ مطہرہ سے محروم ہے، اس طرح عسکرِ اسلامی وردگاہ سے سوئے معمورہ رسول راہی ہوا۔ ادھر عروسِ مطہرہ کو وہاں اس لئے اک عرصہ لگا کہ عروسِ مطہرہ کا اک بار ٹوٹ کر گرا۔ اس بار کو اکٹف کر کے وہاں سے وردگاہ لوٹ کر آئی۔

لے واقعہ انک ۱۱۱۱ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا -

۱۱۱۱ طہرہ: پاکى۔ صفائى (المسجد) ام المؤمنین قضاے حاجت کے لئے تشریف لے گئى تھیں :-

وہاں آکر معلوم ہوا کہ عسکرِ اسلامی رواں ہوا۔ دل کو اس رہی کہ رسول اکرم کو اگلے مرحلے آکر معلوم ہوگا۔ وہ وہاں سے اس درودگاہ کے لئے راہ ہی ہوں گے۔ اور وہ رسول اللہ کے ہمراہ سوئے عسکر رواں ہوگی۔ اُسی محل اک ردا اوڑھ کر سو گئی۔

ادھر رسول اللہ کے دلدادہ ولیدِ معطل مامور رہے کہ وہ عسکرِ اسلامی سے اک مرحلے ادھر رہ کر راہی ہوں۔ اگر عسکرِ اسلامی کی درودگاہ کسی کا مال رہے اُس کو اکٹھا کر کے اُس کے مالکوں کو لوٹائے، وہ راہ طے کر کے ادھر آئے۔ محسوس ہوا کہ رسول اللہ کی عروسِ مطہرہ وہاں محوِ آدام ہے۔ صدا لگا کر کلامِ الہی کا اک حصہ کیا۔ عروسِ مطہرہ اس صدا سے اُٹھی۔ ولیدِ معطل سواری لے کر ادھر آئے کہ عروسِ مطہرہ سوار ہو اور وہاں سے الگ ہو کر کھڑے ہو گئے عروسِ مطہرہ سوار ہوئی اور ولیدِ معطل سواری کے مہارے لے کر آگے آگے رواں ہوئے کہ دوڑ کر عسکرِ اسلامی کے ہمراہ ہوں۔ اس طرح راہ کے مراحل طے کر کے عسکرِ اسلامی سے آئے۔

مکّادوں کا گروہ کہ صدا اس امر کے لئے ساعی رہا کہ دھوکے اور مکاری کی راہ سے اہلِ اسلام کو رسوا کرے۔ اُس کو معلوم ہوا کہ عروسِ مطہرہ ولیدِ معطل کے ہمراہ درودگاہ سے آئی ہے۔ مردودوں کے دل مکروہ ارادوں سے معمور ہوئے۔ لوگوں سے مل کر عروسِ مطہرہ کی رسوائی اور سوء کردار کے لئے طرح طرح کی مکروہ کلامی کی اور ولیدِ سلول سارے مکّادوں سے سوا ساعی ہوا کہ ولیدِ معطل کے حوالے سے عروسِ مطہرہ کے سر کوئی امرِ مکروہ لگا دے اور اس طرح سرورِ عالم کا

لے حضرت صفوان بن معطل نے بلند آواز سے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ پڑھا اور اسی آواز سے ام المؤمنین کی آنکھ کھل گئی۔ (سیرتِ معطفی ص ۱۵۷ ج ۲) ❦

دل دکھا کر مسرور ہو۔ عروسِ مطہرہ اس امر سے لاعلم رہی کہ کوئی مکروہ امر اُس کے سر لگا ہے۔ مگر اہل اسلام اک دوسرے سے اس معاملے کے لئے مجوکلام رہے۔

عسکرِ اسلامی رسول اللہ کے ہمراہ معمورہٗ رسول لوثا۔ لوگ اُسی طرح اُس معاملے کے لئے اک دوسرے سے مجوکلام رہے۔ رسول اکرم کو سارا حال معلوم ہوا اور معلوم ہوا کہ ولید سلول کی مساعی سے رسول اللہ کے کئی دلدادہ ولید سلول کے ہم دلئے ہو گئے۔ رسول اللہ کے دل کو اس حال سے کڑا صدمہ ہوا اور اُس سارا عرصہ رسول اللہ کے ملول رہے۔ مگر دل کو اُس رہی کہ اللہ کے حکم سے اس معاملہ کے لئے وحی آئے گی اور اس سے سارا حال معلوم ہو گا۔

عروسِ مطہرہ سے مروی ہے کہ اس معاملے سے وہ لاعلم رہی مگر رسول اکرم کے سلوک سے دل کو کھٹکا لگا رہا کہ وہ گھر آکر دوسروں سے عروسِ مطہرہ کا حال معلوم کر کے لوث گئے اور عروسِ مطہرہ رسول اللہ کی ہمکلامی سے محروم رہی۔ اس سارا عرصہ رسول اللہ کا معمول اسی طرح رہا۔ مالِ کار عروسِ مطہرہ کو اک مسلمہ امِ سطح سے سارا حال معلوم ہوا۔ دل کو دھکا لگا اور اس طرح مسلسل روئی کہ محسوس ہوا اُس کا دل اس صدمے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے گا۔ وہ سارا عرصہ اسی طرح رورو کر پٹے ہوا۔ رسول اللہ سے کہا کہ اگر رائے ہو، والد کے گھر آکر اک عرصہ رہ لوں۔ رسول اللہ کی آمادگی سے والدِ مکرم کے گھر آئی۔ والدِ مکرم کو اول ہی سے سارا حال معلوم رہا، مگر عروسِ مطہرہ کو اس حال سے لاعلم رکھا۔ وہ گھر آئی اور والد سے رو کر سارا حال کہا۔ گھر والوں سے گلہ ہوا کہ سارا معمورہٗ رسول اس حال سے آگاہ رہا اور وہ اس معاملے سے لاعلم دکھی گئی۔ والدِ مکرم روئے اور کہا کہ اللہ کا سہارا کھو اور حکمِ الہی کی آس رکھو۔

لے لوگوں میں اس بات کا چرچا ہوتا رہا اور بعض مسلمان منافقوں کے اس دھوکے میں آ گئے۔

اُدھر رسول اکرم کے سارے ہمدرد رسول اللہ کے اس دلی ملال سے دکھی ہے
اور ہمدردِ آسامہ، ہمدردِ علی کرم اللہ اور ہمدردِ عمر سے رسول اللہ کو دلاسم ملا۔ سارے
لوگ ہم رائے ہوئے کہ عروسِ مطہرہ اس امرِ مکروہ سے دُور ہے اور وہ ہر طرحِ طاہر
و مطہر ہے۔ اسی طرح گھر کی مملوکہ سے کہا کہ
”اے مملوکہ گواہ ہوئی ہو کہ اللہ کا رسول ہوں؟“

کہا۔

”ہاں! اے رسول اللہ!“

کہا کہ

”ہم سے کہو کہ عروسِ مکرمہ کے کردار کا حال کس طرح ہے؟“

مملوکہ آگے آئی اور کہا کہ

”واللہ: عروسِ مکرمہ سے ہر طرح کے امرِ مکروہ سے لاعلم ہوں۔ ہاں

مگر وہ اک کم عمر لڑکی ہے اور آرام کی عادی ہے“

اس طرح سارے لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عروسِ مطہرہ کے
عمدہ اور طاہر کردار کی گواہی ملی۔ رسول اکرم حرمِ رسول آئے اور لوگوں سے ہم کلام
ہوئے اور کہا۔

”اے مسلمانوں کے گروہ! کوئی ہے کہ ہماری اُس آدمی کے معاملے کے

لئے مدد کرے کہ وہ ہم کو ہمارے گھروالوں کے معاملے سے دُکھ دے کر

۱۔ تمام صحابہؓ نے گواہی دی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضہ ہر بُرائی سے پاک ہیں۔ (میرزا صفی ص ۱۷۶)
۲۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی بریرہ۔ ۳۔ بریرہ نے کہا واللہ! میں نے عائشہؓ
کی کوئی بات معیوب کبھی نہیں دیکھی۔ اَلَا یہ کہ وہ ایک کم سن لڑکی ہے اور گندھا ہوا اُٹا چوڑا
سو جاتی ہے۔ اور بکری کا پتھر آکر اُسے کھا جاتا ہے۔

مسرور ہوا ہے۔ واللہ! اللہ کا رسول گھروالوں سے سوائے عمل صالح کے کسی اور امر سے لاعلم ہے اور وہ آدمی کہ اس معاملے سے موسوم ہوا وہ امر صالح کے سوا ہر امر سے دور ہے۔“

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کلام مسنوع کر کے سرورِ اوستا سعد کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے رسول اللہ! اس معاملے کی مدد کے لئے آمادہ ہوں۔ اگر وہ آدمی گروہِ اوستا کا ہے، اُس کا سر کاٹ کر رکھ دوں گا اور اگر وہ ہمارے دوسرے گروہ سے ہے، ہم رسول اللہ کے حکم کے عامل ہوں گے۔ دوسرے گروہ کے سرورِ سعد دوم کو محسوس ہوا کہ گروہِ اوستا کے سرور کا دوتے کلام ہمارے لئے ہے۔ اس طرح ہر دو کا اک دوسرے سے مکالمہ ہوا۔ رسول اکرم ص کھڑے ہوئے اور ہر دو گروہوں کو الگ کر کے گھرا گئے۔

عزیزِ مطہرہ سے مروی ہے کہ دل کے صدمے سے رو رو کر مرِ حال دگر ہوا۔ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھرائے اور اس طرح ہم کلام ہوئے کہ اگر وہ اس معاملے سے الگ ہے۔ لاجلہ اللہ اس کی اطلاع دے گا اور اگر کسی بلبر مکروہ کی عامل ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا کہ اُس کے رحم کا سوال کہے اس لئے کہ آدمی اگر سوئے عمل کر کے اللہ سے کہہ دے اور دعا کرے اُس کی دعا کامگار ہے۔

لہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر المسلمین من تعذر فی من رجل قد بلغنی اذا خف اهل بیتی فواللہ ما علمت علی اہلی الا الخیر ولقد ذکرہ رجلاً ما علمت علیہ الا خیر: اے گروہِ مسلمین کون ہے کہ جو میری اُس شخص کے مقابلے میں مدد کرے جس نے مجھ کو میرے اہل بیت کے بارے میں ایذا پہنچائی ہے۔ خدا کی قسم! میں نے اپنے اہل سے سولے نیکی کے کچھ نہیں دیکھا اور اسی طرح جس شخص کا انہوں نے نالیلہ ہے اس سے بھی سولے نیلہ اور بھلائی کے کچھ نہیں دیکھا۔ (میرت مصطفیٰ ص ۲۷ ج ۲)۔

عروسِ مطہرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ کے اس کلام کو مسموع کر کے والدِ مکرم کے آگے آئی اور کہا کہ رسول اللہ سے اس معاملے کے لئے کلام کرو۔ مگر وہ ہر طرح کے کلام سے رُکے رہے۔ اسی طرح والدہ سے کہا، والدہ ہر طرح کے کلام سے الگ رہی۔

مالِ کارِ رسول اللہ سے کہا کہ
 ”اے رسول اللہ! اس معاملے سے ہر طرح الگ ہوں، مگر حاسدوں کی
 ساعی سے وہ معاملہ دلوں کو رسا ہوا ہے۔ اس لئے اللہ ہی اس
 معاملے کے لئے کوئی حکم وارد کرے گا۔“

کلامِ الہی کا ورود

ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم اُسی گھر رہے کہ معاً وحی الہی کے اجول طاری ہوئے اور اللہ کے حکم سے کلامِ الہی وارد ہوا اور عروسِ مطہرہ کے لئے گواہ ہوا کہ وہ ہر طرح اس مکروہ معاملے سے الگ ہے۔ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلامِ الہی حاصل کر کے اُٹھے، دوئے مسعود مسکراہٹ سے مرتع ہوا اور عروسِ مطہرہ سے کہا کہ

”مسمور ہو کر رہو کہ عروسِ مطہرہ کے لئے اللہ کی گواہی آگئی کہ وہ اس
 معاملے سے الگ ہے اور ظاہر ہے۔“

۱۰ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے کہا کہ رسول اللہ کو میری طرف سے جواب دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری کچھ میں نہیں آتا کہ کیا جواب دوں، یہی جواب والدہ سے ملا۔ آخر خود ہی کہا کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ میں بالکل بری ہوں، لیکن یہ بات آپ سب لوگوں کے دلوں میں رائج ہو گئی ہے اس لئے آپ میرے یقین نہیں کریں گے اور اگر اقرار کر لوں تو آپ اس کا یقین کریں گے حالانکہ میں بری ہوں۔ اس لئے میں وہی کہتی ہوں جو یوسفؑ کے باپ نے کہا تھا۔
 قصبتہ جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون :-

عروسِ مطہرہ کو وہ اہم اکرام بلا کہ اُس کے لئے کلامِ الہی کا اک حصہ وحی ہوا۔
 اور سدا سدا کے لئے عروسِ مطہرہ کے کردارِ اعلیٰ و طاہر کا گواہ ہوا۔ اہلِ اسلام کو
 معلوم ہوا کہ وحیِ الہی سے سارا معاملہ طے ہوا ہے۔ سارے اہلِ اسلام کے
 دل کھل اُٹھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ وہ مسلم کہ مکّاروں کے ہم رائے
 ہو گئے۔ اس طرح کے لوگوں کو اسی دُورے لگاؤ ۱۰



۱۰ حضرت حسان بن ثابت، حضرت مسیح ابن اثانہ اور حضرت حمزہ بنت جحش رضی اللہ عنہم کو
 حدِّ قذف میں اسی اسی دُورے لگائے گئے۔

(امج السیر، سیرتِ مصطفیٰ ص ۲۹، ۲۷۰)

معرکہ سلع

اس سے اذل مسطور ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسرائیلی گروہ معمورہ رسول سے بلا ہی ہوا اور وہاں سے دوسو کوس دور اک مہر آکر ٹھہرا، مگر وہاں یہ گروہ سارا گروہ اہل اسلام کا اسی طرح حاصر رہا اور اس کی سعی یہی کہ اہل اسلام سے معرکہ آرائی کے لئے لوگوں کو اکٹھا کرے۔ اس گروہ کا سردار حنی کئی سرکردہ لوگوں کو لے کر مکہ تکمرہ آکر مکتے کے سرداروں سے ملا اور کہا کہ اہل اسلام سے معرکہ آرائی کے لئے آمادہ رہو۔ ہم ہر طرح کتے والوں کے حامی اور مددگار ہوں گے۔

اسی طرح اسرائیلی سردار حنی اک دوسرے گروہ کے سرداروں سے ملا اور اس کے سردار کو طبع دی کہ اگر وہ اہل اسلام سے معرکہ آرائی کے لئے آمادہ ہوں ہمارے آدھے محاصل ہر سال اس گروہ کو ادا ہوں گے۔

اُدھر مکے کے گمراہوں کا سردار معرکہ موعد کے سال لڑائی کے لئے رواں ہوا، مگر گراں سالی کا سہارا لے کر سونے مکہ لوٹا۔ مگر وہ ہر لمحہ اس امر کے لئے ساعی ہوا کہ ملک کے سارے گروہوں کو اکٹھا کر کے اہل اسلام سے اک معرکہ اس طرح کا لڑے کہ

۱۔ کوہ سلع مدینہ منورہ کا وہ پہاڑ ہے جس کے آگے غزوہ خندق میں خندق کھودی گئی۔
 ۲۔ یہ یہودیوں کا عالم اور سردار حنی بن اخطب، سلام بن ابی الحقیق اور سلام بن مشکم اس وفد میں شامل تھے۔ (امح السیر و میرت مصطفیٰ ص ۳۹ ج ۲) ۳۔ بنی غطفان کو لاپرواہ دیا کہ خیر کے نفلت انوں کی کجیوں کی آدمی پیدل داران کو ہر سال ملا کرے گی۔ (حوالہ بالا) ۴۔

اس ملک کے سارے گروہ مل کر معمورۂ رسول حملہ آور ہوں اور اسلام کے اس حصار کو سہا کر کے مسرور ہوں اور اس طرح اہل اسلام کی کمر ٹوٹ کر رہے۔ اسرائیلی گروہ کی اس آمادگی سے وہ مسرور ہوا اور طے ہوا کہ اک عسکرِ طرآر اس اہم معرکے کے لئے آمادہ ہو۔

ادھر معمورۂ رسول کے اسرائیلی گروہ سے معاملے طے ہوئے کہ وہ وہاں رہ کر ہمارے حامی و مددگار ہوں۔ اس طرح اعدائے اسلام کے سارے گروہ اہل اسلام اور اسلام کی رسوائی کے لئے اکٹھے ہوئے اور سارا ملک لڑائی کے ولولے میں معمور ہوا۔ اس طرح سارے گروہ مکہ مکرمہ آکر اکٹھے ہو گئے اور مٹی کے الھنوں کے آگے عہد ہوا کہ وہ اہل اسلام کو مٹا کر ہی سوئے مکہ راہی ہوں گے۔

اس طرح سردارِ مکہ مسلح گروہوں کے ٹڈی دل کو لے کر مکہ مکرمہ سے راہی ہوا۔ مگر اہی اور لا علی اور حدو ہوس کی وہ کالی گھٹا سارے مکروہ ارادوں کو لے کر اٹھی، اس طرح کا عسکرِ طرآر اس سے آگے اس ملک کے لئے لا معلوم رہا۔ راہ کے دوسرے مراحل سے اعدائے اسلام کے گروہ اس ٹڈی دل کے ہمراہ ہوئے اور ہر گروہ الگ الگ علم لہرا کر سوئے معمورۂ رسول راہی ہوا۔ اس ٹڈی دل کے سہارے ہر گروہ اس احساس سے مسرور ہوا کہ اس سال اہل اسلام کے لئے وہ حملہ کاری ہوگا۔

ادھر بادشاہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ سارا ملک مکے والوں کا حامی ہو کر اٹھ کھڑا ہوا ہے اور مگر اہل ہوں کا وہ ٹڈی دل کالی گھٹا کی طرح سوئے معمورۂ رسول رواں ہے۔

۱۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قریظہ رہ گیا تھا، اُن سے غنیہ سازش کی وہ اُس وقت ملکِ منہرے سے ٹھم ٹھام کر کش نہ ہوئے تھے۔ (ایم ایس، ابن سعد) :

ہمدوں اور مددگاروں کو اکٹھا کر کے رائے لی۔ سارے لوگوں کی رائے ہوئی کہ معمورہ رسول رہ کر ہی اس ٹڈی دل سے معرکہ آرا ہوں۔

اک ہمدیم رسول کہ کسریٰ کے ملک سے آکر اسلام لائے۔ کھڑے ہوئے اور رائے دی کہ کوہِ سلج کے آگے اک گہری کھائی کی کھدائی کر کے معرکہ آرا ہوں کہ عسکرِ اعداء اُس کھائی کے ادھر رکا رہے گا اور اہل اسلام ادھر رہ کر معرکہ آرا ہوں گے اس طرح معمورہ رسول ہر صدمے سے دور رہے گا۔ سلج اور کھائی کا وسطی حصہ اہل اسلام کی درود گاہ ہو۔ اس طرح گمراہوں کے لئے معمورہ رسول کی ہر راہ مسدود ہوگی بسارے لوگ اُس کی رائے کے ہم رائے ہوئے۔

سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمدوں اور مددگاروں کے ہمراہ کوہِ سلج آنے اور لوگوں سے کہا گہری کھائی کھودو کہ عسکرِ اعداء اُس کے ادھر ہی رکا رہے۔ اس طرح کھائی کی کھدائی کا سلسلہ لگا۔ اللہ کا رسول دوسرے لوگوں کے ہمراہ کدال لے کر کھڑا ہوا اور لوگوں کی دلداری کی۔ سارے ہمد و مددگار کمال حوصلے اور کمال سرگرمی سے کھدائی کے کام سے لگے رہے۔ اللہ کا رسول سارا عرصہ عام لوگوں کی طرح مٹی اور دھول سے اُٹا رہا اور کھدائی کے کام کے لئے دوسروں کے ہمراہ ساعی^۱ رہا۔

علماء سے مروی ہے کہ کھدائی کا کام آدھے ماہ کے عرصہ لگا رہا اور رسول اکرم^ﷺ مٹی ڈھو ڈھو کر لائے اور دوسرے لوگوں کی طرح گرد آلود ہوئے۔

امام احمد سے مروی ہے کہ کھدائی کے اک مرحلے آکر معلوم ہوا کہ کوہ کا اک ٹکڑا حائل ہوا ہے اور کئی لوگ سعی کر کے ہار گئے کہ وہ حصہ کوہ ٹوٹ کر ٹکڑے ہو،

۱۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ۱۷ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خندق اتنی گہری کھودی گئی کہ پانی کی کمی محسوس ہونے لگی۔ (سیرت مصطفیٰ ص ۳۹) یہ طبقات ابن سعد کی روایت ہے۔

مگر مراد سے محروم رہے۔ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ اللہ کا رسول کدال لے کر کھڑا ہوا اور اللہ کا اسم لے کر اک کدال ماری، اُس حقہ کوہ سے اک ٹوٹھی اور وہ حقہ کوہ اللہ کے حکم سے ٹکڑے ٹکڑے ہوا۔ اہل اسلام کی صدائے اللہ احد کوہِ سلع سے ٹکرائی۔ رسول اکرم کو اُس لمحہ کئی ملکوں کے احوال دکھائے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہا کہ وہ ملک اہل اسلام کو عطا ہوں گے۔

رسول اکرم کی اس اطلاع سے اہل اسلام کمال سرور ہوئے اور سارے لوگوں کے حوصلے سوا ہو گئے۔ علمائے اسلام سے مروی ہے کہ لوگ اکل و اطعام سے محروم رہ کر کھائی کی کھدائی کا کام کر کے سرور رہے۔

اللہ اللہ! اے اہل مطالعہ! رسول اکرم اور اہل اسلام کے اس حال کو اک لمحہ نہک کر محسوس کرو کہ سارا ملک اکٹھا ہو کر حملہ آور ہو رہا ہے اور اللہ والوں کا وہ معدود و محدود گردہ اکل و طعام سے محروم ہے اور ساعی ہے کہ گوارہ اسلام کو اعداء کے حملوں سے دور رکھے۔ اللہ کا رسول اکل و طعام سے محروم ہے اور دھول مٹی سے اٹا ہوا کدال لئے کھڑا ہے اور اہل اسلام کو اطلاع دے رہا ہے کہ ارد گرد کے ممالک اہل اسلام کی ملک ہوں گے۔ اس حال رہ کر اس طرح کی اطلاع وہی دے سکے گا کہ اللہ کا رسول ہو گا اور اُس کو اللہ کے وعدے کا کامل سہارا ہو گا۔

کھائی کی کھدائی کا کام مکمل ہوا اور اُدھر گمراہوں کا وہ عسکرِ طرار کوہِ احد کے

سے امام احمدی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ نبی باہم اللہ کہہ کر کدال ماری تو ایک تہائی چٹان ٹوٹ گئی۔ فرمایا کہ مجھ کو ملک شام کی کنجیاں عطا کی گئیں۔ دوسری بار کدال ماری تو فرمایا کہ ملائح کے قہر اربعہ کو دیکھ رہا ہوں۔ تیسری بار کدال ماری تو فرمایا کہ مجھ کو یمن کی کنجیاں عطا ہوئیں۔ (سیرت مصطفیٰ ص ۲۷۲ و ۲۷۳ ص ۲۷۴)

سے آنحضرت نے شکم مبارک پر دو پتھر باندھ لئے تھے کہ بھوک کی تکلیف محسوس نہ ہو۔ (طبقات ابن سعد و ابن اسیر)

اُدھر آکر وارد ہوا۔ اور کوہِ اُحد کے اُگے درود گاہ کر کے ٹھہرا۔ اسرائیلی گروہ کا سردار
نحییٰ مسمومہ رسول کے اسرائیلی سردار ولدِ اسد سے ملا اور اُس کو آمادہ کر کے لوٹا کہ
وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے سے الگ ہو کر گمراہوں کا حامی ہو
اور حملہ آوروں کی مدد کرے۔

سردارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اُس کی اطلاع ہوئی۔ مددگارِ رسول ﷺ
کو حکم ہوا کہ وہ اس گروہ کا سارا حال معلوم کر کے آئے۔ مددگارِ رسول سعد اُس
محلے گئے اور سارا حال معلوم کر کے لوٹے۔ معلوم ہوا کہ وہ گروہ کلم کھلا معاہدے
سے رُوگرداں ہو کر مکے والوں کے ہمراہ لڑائی کے لئے آمادہ ہے۔ اہلِ اسلام
کو اس اطلاع سے اور اک دھکا لگا اور کھٹکا ہوا کہ وہ گھر کا عدو و مسمومہ رسول
حملہ آور ہو کر اہلِ اسلام کے لئے اک مسئلہ کھڑا کر دے گا۔ رسول اکرم کو اس اطلاع
سے کمالِ صدمہ ہوا۔

مائل کار گمراہوں کا وہ ٹڈی دل کھائی کے اُدھر حملے کے لئے آمادہ ہوا۔ گمراہوں
کے عسکر کو گہری کھائی دکھائی دی۔ اُس ملک کے لوگ کھائی کے معاملے سے لاعلم
رہے۔ اہلِ اسلام کی اس کا تردید سے اک ہول سی اُٹھی۔ گمراہوں کے عسکر کی
درود گاہ کھائی کے ورے رہی اور کھائی سے اُدھر رسول اکرم عسکرِ اسلامی کے
ہمراہ آگئے۔ گمراہوں کا عسکر اہلِ اسلام کا محاصرہ کر کے وہاں رہا۔

۱۔ نحییٰ ابنِ اخطب کلب بن اسد سے ملا اور اُس کو معاہدہ توڑنے کے لئے آمادہ کیا۔ (بیتِ مصطفیٰ ص ۲۲)
۲۔ حضرت سعد بن عبادہ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا کہ بنِ اسد نے منافاتِ انکار کر
دیا کہ مسلمانوں سے ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ (حوالہ بالا) ۳۔ مسلمانوں کے لئے یہ وقت سخت
ابتلا اور آزمائش کا وقت تھا۔ بنو قریظہ آستین کا سانپ ثابت ہوئے۔ اُن سے ڈر تھا کہ وہ
مدینہ منورہ کے گھروں پر حملہ کر دیں۔ دوسری طرف عرب کے سارے جتنے جمع ہو کر اسلام کو مٹانے کے لئے
آگئے تھے۔ تیسری طرف منافقین جیلے بہانے کر کے ساتھ چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ (محمد ولی) :-

گمراہوں کے لئے ملک و رسد کے حصول کی راہ کھلی رہی۔ مگر اللہ والے ہر رسد و ملک سے محروم رہے اور اس کے علاوہ معمورہ رسول کا اسرائیلی گروہ معاہدے سے دو گرداں ہو کر حکم کھلا اہل اسلام کا عدو ہوا۔

معرکہ سلع کا سارا عرصہ اہل اسلام کے لئے اک کڑا عرصہ ہوا اور اک کسوٹی ہو کر رہا کہ کھرا اور کھوٹا الگ ہو اور اسی طرح ہوا۔ کھوٹے لوگ الگ ہو گئے اور کھرے الگ۔

مکاتوں کا گروہ آمادہ ہوا کہ وہ اہل اسلام سے الگ ہو کر معمورہ رسول لوٹ آئے۔ اس لئے وہ رسول اکرم کے آگے آئے اور کہا کہ ”اے رسول اللہ! اگر حکم ہو، ہم معمورہ رسول رہا ہی ہوں کہ ہمارے گھرمردوں سے عاری ہوئے“

کلام الہی وارد ہوا اور گواہ ہوا کہ مکاتوں کے گھرمردوں سے عاری کہاں اس گروہ کا ارادہ ہے کہ گھروں کا سہارا لے کر عکبر اسلام سے الگ ہوں۔ اس طرح کھوٹے لوگوں کا کھوٹ معلوم ہوا۔

اُدھر کھرے لوگوں کا معاملہ اس طرح ہوا کہ وہ اعداء کے گروہوں کے اس عسکر کی آمد سے اور سوا حوصلہ ور ہوئے اور کلام الہی کی گواہی آئی کہ ”وہ وہی گروہ ہے کہ اُس کے لئے اللہ اور اُس کے رسول کا وعدہ ہم سے ہوا ہے اور اللہ اور اُس کے رسول کا وعدہ بحکم ہے۔ اس سے

۱۔ منافقین کے لئے قرآن کریم کا ارشاد ہے یقیناً لو ان ابی یوتنا.... الخ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر خالی ہیں، حالانکہ ان کے گھر خالی نہیں اور وہ فراد کے ارادے سے یہ بہانے کر رہے ہیں۔ (سیرت مصطفیٰ ص ۳۴) ۲۔ مسلمانوں کا حال قرآن کریم نے اس طرح بیان کیا ”ایمان والوں نے جب فوجیں رکھیں تو کہا یہ وہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے ان کے ایمان اور اطاعت میں اور زیادتی ہو“ (سیرت مصطفیٰ ص ۳۴)

اہل اسلام کا اسلام اور سوا محکم ہوا۔

معمورہ رسول کے لوگوں کے احساس سے کہ وہ گمراہوں کے اس ٹڈی دل کے حلوں سے ہراساں ہوں گے۔ رسول اللہ کا ارادہ ہوا کہ گمراہوں کے اک گردہ سے معمورہ رسول کے محیصل کا اک حصہ دے کر صلح کا معاملہ ہو، اس طرح گمراہوں کا اک گردہ مکتے والوں سے الگ ہو گا۔ اس امر کے لئے معمورہ رسول کے سرداروں سعد اور دوسرے لوگوں سے رائے لی۔ مگر سعد کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے رسول اللہ! اگر اللہ کا حکم اس امر کے لئے وارد ہوا ہے، ہم اس حکم کے عامل ہوں گے اور اگر ہمارے احساس سے اس صلح کا ارادہ ہوا ہے ہم اس صلح کے معاملے سے دور ہوں گے۔ ہم گمراہوں سے حوصلہ وری سے معرکہ آراء ہوں گے۔

آدھے ماہ کا عرصہ اسی طرح طے ہوا اور ہر دو عسکر لڑائی سے دور ہے۔ کڑی سردی کا موسم ہر دو عسکر اک دوسرے کے آگے حملے کے لئے آمادہ رہے۔ مال کا گمراہوں کے عسکر سے مکتے کے کئی سردار کھائی سے ہو کر ادھر آئے اور الگ الگ لڑائی کے لئے لگا کر دی۔

ملوک وڈ کا لڑکا عمرو دؤر کر کھائی کے ادھر اکھڑا ہوا۔ علی کرمۃ اللہ اُس کے لئے آگے آئے اور کہا کہ اے عمرو! اللہ اور اُس کے رسول کی راہ لگوا اور اسلام لے آؤ۔ مگر عمرو لڑائی کے ارادے سے آگے آکر حملہ آور ہوا۔ علی کرمۃ اللہ اُس کا وارہ ڈھال سے روک کر ادھر ہوئے۔ مگر اک معمولی سا گھاؤ علی کرمۃ اللہ کو لگا۔ اللہ کا اسم کہہ کر علی کرمۃ اللہ حملہ آور ہوئے اور اُسی حملہ سے اللہ اور رسول کے اس عدو کو گھائل کر کے مارا۔ ”اللہ احد“ کی صدا اُٹھی اور اہل اسلام

کے حوصلے سوا ہوئے۔

مکتے والوں کا اک سردار سرد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلاکی کے ارادہ سے گھوڑا دوڑا کر رواں ہوا، مگر وہ کھائی سے ٹکرا کر گرا اور راہی ملکِ عدم ہوا۔ اسی طرح معمولی لڑائی کا سلسلہ رہا۔ مددگار بنول متحدہ کو اک ”سہام“ آکر لگا اُس سے مددگار بنول کا گلا گھاٹل ہوا۔

اک اور معاملہ اس طرح کا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گمراہوں کے اک گروہ کا سردار ولید مسعودؓ آکر ملا اور کہا کہ اے رسول اللہ! اللہ کے کرم سے اسلام کے لئے دل آمادہ ہوا ہے اور اسلام لا کر رسول اللہ کا حامی ہوا ہوں۔ اے رسول اللہ! ہمارا گروہ اس سے لاعلم ہے کہ مُسلم ہوا ہوں۔ اس لئے اگر حکم ہو سونے اعداد لوٹ کر اعداء کے گروہوں کو اک دوسرے سے لڑا دوں کہ وہ اک دوسرے سے الگ ہوں۔

رسول اکرمؐ کی آمادگی لے کر ولید مسعود سونے اعداد لوٹے۔ اول اسرائیلی گروہ کے لوگوں سے ملے اور مکتے والوں کے طرح طرح کے احوال کہہ کر اُس گروہ کے لوگوں کو مکتے والوں سے ہراساں کر کے لوٹے اور مکتے والوں کے سردار سے ملے اور وہاں اسرائیلی گروہ کے لوگوں کے احوال کہے اور مکتے والوں کو اس گروہ سے ہراساں کر کے آئے۔ اس طرح معمولہ رسول کا اسرائیلی گروہ مکتے والوں کی امداد سے الگ ہوا۔

کھائی کے اُدھر محاصرے کو طویل ہوا۔ اہل اسلام کے لئے اس سارا عرصہ طرح طرح کے کڑے مراحل آئے، مگر اللہ کی مدد کے سہارے ڈٹے رہے۔ مالِ کار

لے نعیم بن مسعودؓ شجعی قبیلہ غلفان کا اک سردار تھا جو اسی وقت مسلمان ہوا۔ آنحضرتؐ کی اجازت سے قریش کو بنو قریظہ کے غلات بھڑکایا اور بنو قریظہ کو قریش کے غلات۔ (سیرت مصلفی ص ۲۷۷، ۲۷۸)

اس طرح اللہ کی مدد آئی اور وہ کڑی ہوا مستط ہوئی۔ مگر اہوں کے دل ڈر سے معمور ہوئے اور سارے لوگوں کی رائے ہوئی کہ وہاں سے سوئے مکہ لوٹو۔ اس طرح مگر اہوں کے عسا کر وہاں سے حواس گم کر کے اور حوصلے ہار کے رواں ہوئے اور اس طرح اُس حسد و ہوس کی کالی گھٹا کو اللہ کی ارسال کردہ ہوا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا کر لے گئی۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سارے حال کی اطلاع ہوئی۔ کہا کہ مکے والوں کے حوصلے ٹوٹ گئے اور امر محال ہے کہ اس سے اُدھر تکے والے معمورہ رسول کے لئے حملہ آور ہوں۔

اہل اسلام اس کامگاری سے کمال مسرور ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ سوئے معمورہ رسول رواں ہو۔ اس طرح وہ عسکرِ اسلامی معمورہ رسول کوٹا۔



بقیہ ماضیہ ۲۴۹ سے آگے) ”اے ایمان والو! یاد کرو اللہ کے اُس انعام کو جو تم پر اس وقت ہوا جب کافروں کے لشکر تمہارے سروں پر آپہنچے پس اُس وقت ہم نے ایک آندھی بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جو تم کو دکائی نہیں دیتے تھے اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے (سیرت مصطفیٰ ص ۲۷۷)

اسرائیلی گروہ سے معرکہ

معرکہ سلع سے ہادی کاہل صلی اللہ علیہ وسلم سحر کی حمد و دعا اور عبادِ اسلام ادا کر کے محمودہ رسول آگئے۔ عسکرِ اسلامی کے سارے لوگ رسول اللہ کے ہمراہ آئے اور رسول اللہ کے حکم سے سارے اسلحہ کھول ڈالے۔ رسول اکرم مسلمانوں کی ماں اُم سلمہ کے گھرائے اور دوسرے علماء کی رائے ہے کہ عرویسِ مطہرہ کے گھرائے۔ وہاں آکر آرام کا ارادہ ہوا۔ مگر اللہ کے حکم سے سرِ وادِ ملائک ”الروح“ سولہ اور مسلح ہو کر وہاں آئے اور رسول اللہ کو صدا دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر سرِ وادِ ملائک کے آگے آئے۔ سرِ وادِ ملائک آگے آئے اور کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا رسول اہل اسلام کو لے کر اسرائیلی گروہ کے لئے حملہ آور ہو اور کہا کہ ہم کو حکم ہے کہ ہم اسرائیلی گروہ کے محلے کے لئے رواں ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کہہ کر اُس اسرائیلی محلے کے لئے رواں ہوئے۔ ملائک کے گھوڑوں کے سٹموں سے وہ گرد اٹھی کہ سارا محلہ گرد سے اٹ کر دھواں دھار ہوا۔

ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اک مددگار سے مروی ہے کہ سرِ وادِ ملائک کے گھوڑے سے اٹھی ہوئی اُس گرد کا احساس اس طرح ہے کہ کہو اس لمحہ وہ گرد

لے غزوہ بنو قریظہ ۱۱ھ صحیح السیر میں حضرت ام سلمہ کا نام ہے جبکہ طبقات ابن سعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام ہے۔ (راجح السیر ۱۹۶۱ء طبقات ابن سعد ص ۴۸۷)۔

۱۱ھ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ غبار جو حضرت جبریل کی سواری سے کو تپہ غنم میں اٹھا تھا میری نظر دل میں ہے۔ گویا میں اُس غبار کو اٹھتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ (تہذیب مصطفیٰ ص ۲۷ بحوالہ صحیح بخاری) :-

ہم کو دکھائی دے رہی ہے۔
 اہل اسلام کو رسول اللہ کا حکم ہوا کہ مسلح ہو کر اُس محلے کے لئے راہی ہوں
 اور کہا کہ عصر کی عمارتِ اسلام اُسی محلے آکر ادا کرو۔ عصر کی ادائیگی کے لئے اہل اسلام
 الگ الگ طور سے عامل ہوئے۔ کئی لوگوں کا عمل اس طرح ہوا کہ راہ کے کسی رطلے
 ہی عصر ادا کر لی اور کئی لوگ حکمِ رسول کی رُو سے رُکے رہے اور اُس محلے آکر عصر
 دوسری عمارتِ اسلام کے ہمراہ ادا کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی۔
 وہ ہر دو لوگوں سے مسرور رہے۔

سردارِ اوس سعد معمولہ رسول ہی رہ گئے اس لئے کہ وہ معرکہٴ سلع سے
 گھائل ہوئے۔ علی کہنے لگا کہ اس عسکرِ اسلامی کا علم ملا۔ رسول اللہ کے ہمراہ عسکرِ
 اسلامی مدواں ہوا۔

اُس گروہ کے لوگوں کو ڈر طاری ہوا اور وہ کمالِ ڈر سے محلوں کے کواڑ
 لگا کر گھروں کو گھس گئے اور وہاں محصور ہو کر رہے۔ رسول اکرم کا حکم ہوا کہ اُس
 محلے کا محاصرہ کر کے عسکرِ اسلامی وہاں رکالے۔ اس طرح رسول اللہ اُس گروہ کا
 محاصرہ کر کے وہاں رہے اور وہ محاصرہ اک ماہ سے کم عرصہ رہا۔

اس محاصرے سے اُس گروہ کے حوصلے سرد ہو گئے۔ گروہ کا سردار سرکردہ لوگوں کو
 اکٹھا کر کے ہمکلام ہوا اور رائے دی کہ لوگو! اس محاصرے سے ہمارا حال
 گراں ہوا ہے۔ اس لئے ہماری رائے ہے کہ اس معاملے کا حل اس طرح کرو کہ

۱۔ آنحضرتؐ نے جلدی کے پیشِ نظر فرمایا تھا کہ عمر بنو قریظہ پیچ کر ادا کریں۔ عصر کا وقت تنگ ہونے کی
 وجہ سے بعض صحابہ نے راستے میں عصر ادا کی، مگر دوسرے صحابہ کو خیال ہوا کہ رسول اللہ کا حکم ہے کہ بنو قریظہ
 پہنچ کر نماز پڑھیں، اس لئے رُکے رہے اور عصر کا وقت بیکل گیا۔ آنحضرتؐ نے دونوں کے عمل کو جائز رکھا
 اس لئے کہ دونوں نے صحیح نیت کے ساتھ اجتہاد کیا۔ (راج التبرکات و میرتِ مصطفیٰ) :-

سارے لوگ اسلام لے آؤ۔ اس لئے کہ ہم ساروں کو معلوم ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کا رسول اور رسول ہے اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) وہی رسول ہے کہ اس کا حال ہم کو اللہ کے رسول موسیٰ کی وحی سے معلوم ہوا۔

مگر گمروہ کے لوگ مقرر رہے کہ وہ اُسی مسلک کے دلدادہ ہوں گے کہ صد ہا سال سے اُس گمروہ کے لوگوں کا رہا۔ گمروہ کا سردار ولد اسد اٹھا اور کہا کہ دوسرا حل اس طرح ہے کہ گھروالوں کو مار ڈالو۔ اور اہل اسلام سے دل کھول کر لڑو۔ گمروہ کے لوگ اس امر کے حوصلے سے دُور رہے اور کہا کہ گھروالے کس امر کے حوصلے ہلاک ہوں۔ ولد اسد اٹھا اور کہا کہ اک اور حل ہے اہل اسلام کے لئے اُس لمحہ حملہ آور ہو، کہ لڑائی اُس لمحہ حرام ہے۔

اہل اسلام اس امر سے لاعلم ہوں گے اور اُس لمحہ حرام کو ہمارا حملہ ہوگا۔ گمروہ کے لوگ اس رائے سے اس طرح کہہ کہہ الگ ہو گئے کہ ہمارے سکڑ داڑے اسی لئے سو رہے ہوئے کہ اس لمحے کے اکرام سے دُور رہے۔

رسول اکرمؐ کے اک مددگار اُس گمروہ کے معاہدہ رہے۔ گمروہ کے لوگوں کی رائے ہوئی کہ اس مددگار رسولؐ سے مل کر اس معاملے کی رائے لو۔ رسول اللہؐ سے کہا کہ اُس مددگار کو ہمارے ہاں ارسال کرو۔ رسول اللہؐ کے حکم سے وہ مددگار وہاں آئے۔ وہ لوگ اُس کے آگے آکر دل کھول کر روئے اور کہا کہ ہمارا مسئلہ حل کرو اور سوال ہوا کہ اگر ہم لوگ رسول اللہؐ کے حوالے ہوں، ہم ہلاک ہوں گے؟۔ سر ہلا کر کہا کہ ہاں !

مگر احساس ہوا کہ اُس کا وہ عمل اللہ اور اُس کے رسول کی حکم عدولی ہے۔ اس

سلسلہ سات کا دن یہودیوں میں متبرک ہے اور لڑائی وغیرہ حرام ہے۔ ہفتہ کے سارے دن منقوٰط ہیں سوائے سوموار کے۔ اسی طرح لفظ "دون" اُن چند الفاظ میں سے ہے جن کا کافی تلاش کے باوجود مجھے کوئی متبادس نہیں مل سکا۔ مجبوراً یہاں "لمحہ" کو دن کی جگہ استعمال کیا۔ (محمد ولی)

لئے وہاں سے لوٹ کر حرمِ رسول آئے اور اک عمودِ حرم سے رتی کس کر وہاں محصور ہو کر کھڑے ہوئے اور عہد ہوا کہ وہ وہاں اسی طرح کھڑے رہوں گے۔ ہاں مگر اللہ کا رسول آئے اور وہی اُس کو کھولے۔ رسولِ اکرمؐ کو معلوم ہوا کہ اللہ کا حکم اگر وارد ہوا اس کو کھول دوں گا۔

اس طرح وہ اک عرصہ وہاں رہے۔ مآلِ کارِ کلامِ الہی وارد ہوا۔ رسولِ اکرمؐ اس کو کھول کر سرور ہوئے۔
الحاصل گروہ کے سارے لوگ محلوں سے آگے آئے اور رسولِ اکرمؐ کے حوالے ہوئے۔

اسرائیلی گروہ کا مآل

اس طرح وہ سارا گروہ اہلِ اسلام کا محصور ہوا۔ گروہِ اوّس کے لوگ ہادی کاہل صلی اللہ علیٰ رسولہ وسلم کے آگے آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول! وہ گروہ ہمارے گروہ کا حامی رہا ہے۔ اس لئے اس گروہ سے عہدہ سلوک ہو۔ رسول اللہؐ لوگوں کے آگے آئے اور کہا کہ اگر اس معاملے کا حکم گروہِ اوّس کے ہی آدمی کو کر دوں۔ اس امر سے سرور ہو گئے؟ کہا۔ ہاں! اے رسول اللہؐ! کہا کہ ہماری رائے ہے کہ سردارِ اوّس سعد اس گروہ کے معاملے کا حکم ہو۔ رسولِ اکرمؐ کی اس رائے کے سارے ہی لوگ ہم رائے ہوئے۔

حضرت ابولبابہ بن عبدالمندثر نے ان لوگوں سے حلق کی طرتِ اشہد کہہ کر کہا کہ ذبح کئے جاؤ گے۔ مگر جہد میں نہایت ندامت ہوئی اور اپنے آپ کو یہ سزا دی کہ مسجدِ نبویؐ کے ایک ستون سے خود کو رتی سے جکڑ لیا اور عہد کیا کہ جب تک خود رسولِ اکرمؐ اپنے ہاتھ سے نہیں کھولیں گے وہ اسی طرح جکڑے رہیں گے۔ نماز اور کھانے کے وقت لوگ انہیں کھول دیتے تھے۔ چنانچہ وہ اسی طرح وہاں بندھے رہے۔ آخر قرآنِ کریم کی آیات سے اُن کی توبہ نازل ہوئی اور آنحضرتؐ نے اُن کو کھولا۔ (امح السیرۃ ص ۹۹) :-

اگے مسطور ہوا کہ سردارِ اوس معرکہ سَلْع سے گھائل ہو کر معمورہ رسول ہی رہ گئے۔ رسولِ اکرمؐ کا حکم ہوا کہ مددگارِ سعد کو وہاں لے آؤ۔ کئی نوٹ مددگارِ رسول سعد کے لئے گئے۔ وہ اک حمار کی سواری کر کے وہاں آئے۔ ہادی اکرمؐ کا لوگوں کو حکم ہوا کہ

”سردار کے اکرام کے لئے اٹھو۔“

مددگارِ رسول سعد وہاں آئے۔ ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم اُس سے ملے اور کہا کہ سارے لوگوں کی رائے ہے کہ اس گروہ کے معاملے کے ختم ہو کر اس مسئلے کو حل کرو۔ اول مددگارِ رسول سعد کا سوال ہوا کہ سارے اہل اسلام مع رسول اللہ اور اسرائیلی گروہ کے ہمارے حکم کے عامل ہوں گے۔ سارے لوگوں کی آمادگی ملی۔ سعد اُٹھے اور کہا کہ اس گروہ کے لئے ہمارا حکم ہے کہ گروہ کے مردوں کو مار ڈالو اور گروہ کے سارے اموال و املاک کے اہل اسلام مالک ہوں۔ سردارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ سعد کا حکم اللہ کی آمادگی لئے ہوئے ہے۔ الحاصل گروہ کے سارے لوگ محصور کر کے معمورہ رسول لائے گئے اور سارے اموال و املاک کے اہل اسلام حصہ دار ہوئے۔

مددگارِ رسول سعد کا وصال

مددگارِ رسول سعد اس معاملے کو طے کر کے اللہ سے دعا گو ہوئے اور کہا۔
 ”اللہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ قومِ اہلِ اللہ اپنے سردار کی تعظیم کے لئے اٹھو“ (سیرتِ مصطفیٰ ص ۲۷)
 یہ فرمایا کہ بے شک تو نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا۔ یہ حضرت سعد بن معاذؓ نے فیصلہ کرنے کے بعد دعا کی کہ اے اللہ! تجھ کو معلوم ہے کہ مجھے اس سے زیادہ کوئی محبوب چیز نہیں کہ میں اس قوم سے جہاد کروں، جس نے آنحضرتؐ کو تباہ اور حرم سے نکالا، میرا خیال ہے کہ تو نے اُن کے اور ہمارے درمیان لڑائی کو ختم کر دیا ہے۔ قریش سے اگر کوئی جہاد باقی ہے تو مجھے ذمہ رکھ اور اگر تو نے لڑائی کو ختم کر دیا ہے تو اس ذمہ کو جاری کر دے میری شہادت کا ذریعہ بنادے۔ چنانچہ فوراً ختم جاری ہو گیا اور اُن آپ کا وصال ہوا (سیرتِ مصطفیٰ ص ۲۷)۔

”اے اللہ! اس مددگار کا حال معلوم ہے کہ وہ ہر امر سے سوا اس امر سے مسرور رہا کہ وہ نئے والوں کے اُس گروہ سے معرکہ آراء ہو کہ وہ رسول اللہ کو آلام اور دکھ دے کر اور حرم مکہ سے دُور کر کے مسرور ہوا۔ اے اللہ! اس مددگار کو احساس ہے کہ اُس گروہ سے لڑائی کا معاملہ مکمل ہوا۔ اگر اُس سے اور کوئی معرکہ ہو تو اس مددگار کو عمر دے کہ وہ اُس گروہ سے لڑے اور اگر اُس کا عکس ہے اس گھاؤ کو رواں کر دے کہ اسی سے اس مددگار کا وصال ہو۔“

حاکم سے مروی ہے کہ اس دعا کو کر کے مددگار رسول الگ ہوئے اور اُسی لمحہ اُس گھاؤ سے لہورواں ہوا اور اسی سے رسول اللہ کا وہ مددگار اللہ کے گھر کو سدھارا۔ (ہم سادوں کا اللہ مالک ہے اور ہر آدمی اُسی کے گھر لوٹے گا۔)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اک ولدادہ سے مروی ہے کہ اُس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسوع ہوا کہ مددگار سعد کے وصال سے کڑی الٹی ہو گئی۔ اسی طرح علماء سے مروی ہے کہ مددگار سعد کے لئے سماء کے سارے در کھولے گئے اور ملائک اس کی توجہ لے کر مسرور ہوئے۔ (رواہ الحاکم)

اُس گروہ کے سارے لوگ محصور ہو کر عسکر اسلام کے ہمراہ معمورہ رسول آ گئے اور اک مسلمہ کے گھر لاکر رکھے گئے اور اُس گھر سے لاکر اُس گروہ کے لوگ دودو کر کے ہلاک ہوئے اور اس طرح اسلام اور رسول اللہ کے وہ حاسد رُموں ہو کر دارالآلام کو سدھارے۔

۱۔ سیرت مصطفیٰ میں دعا کا جو ترجمہ دیا گیا ہے یہ اُسی کا مضمون ہے اور پچھلے صفحے کے حاشیہ پر اُس دعا کا خلاصہ دے دیا گیا ہے۔ (مخدولی) ۲۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے۔ (سیرت مصطفیٰ مدہ ۵۵ ج ۲) ۳۔ سیرت مصطفیٰ بحوالہ فتح الباری :-

محمد ولد مسلمہ کی مہم

ودائع مکہ کو آٹھواں سال ہے اور ماہ محرم الحرام کی دس^{لے} ہے۔ رسول اکرمؐ کا حکم ہوا کہ محمد ولد مسلمہ اہل اسلام کو ہمراہ لے کر اُس مقرر کو راہی ہو کہ وہاں کے لوگ سر اٹھا کر اُڑے رہے اور رسول اللہؐ کے عدو رہے۔ محمد ولد مسلمہ کئی سواروں کو لے کر لاہی ہوئے۔ اُس گروہ سے معمولی لڑائی ہوئی اور گروہ کے دس آدمی مارے گئے اور گروہ کے سردار کو محصور کر کے اور صربا اموال و املاک لے کر معمرہ رسول کو لوٹے۔

رسول اللہؐ کا حکم ہوا کہ اُس سردار کو حرم رسول کے عنود سے کس دو۔ مدعا رہا ہو گا کہ وہ اہل اسلام کی حدود و دعا اور دلوں کو لگی ہوئی اللہ کی نو کا مطالعہ کر کے اسلام کے لئے مائل ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اُدھر آئے اور اس سردار سے کہا کہ اے سردار! اللہ کے رسول کے لئے دل کو کس طرح کا احساس ہے؟ کہا اگر ہلاک کر دو گے، اک مملکت آدمی کو ہلاک کر دو گے اور اگر کرم کا سلوک کر دو گے دل سے اُس کرم کے لئے مسرور رہوں گا اور اگر مال کو کو گے، مال لا کر دوں گا۔ رسول اکرمؐ وہاں سے رواں ہو گئے۔ اگلی سحر کو دہرا کر اُدھر آئے اور وہی سوال ہوا۔ کہا اگر کرم کا سلوک کر دو گے، دل سے اُس کرم کے لئے مسرور رہوں گا۔ رسول اکرمؐ اُدھر سے گھر کو گئے۔ اگلی سحر ہوئی اور دہرا کر وہی سوال ہوا۔ کہا کہ وہی رائے ہے کہ اگر کرم کر دو گے، دل سے اُس کرم کے لئے مسرور رہوں گا۔ لوگوں سے رسول اللہؐ

ماہ دس محرم الحرام ۱۱۰۰ھ میں یہ مقام ضربہ سے یہ قنطار کہلاتے تھے جو بنی کجرا کی ایک شاخ ہے۔

اللہ تمہارے اہل رضی اللہ عنہ۔

کا حکم ہوا کہ سردار کو کھول دو۔ اس طرح وہ سردار رہا ہو کہ الگ کھڑا ہوا۔ رسول اللہ اُس کے آگے آئے اور کہا کہ اے سردار! رہا ہو گھر کو لوٹو۔ وہ سردار وہاں سے رہا ہو کر اک محل آکر سر کو دھو کر ظاہر ہوئے اور حرم رسول لوٹ کر آئے اور کہا کہ ۔

”گواہ ہوا ہوں کہ اللہ واحد ہے اور محمد اللہ کا رسول ہے“
اس طرح وہ سردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دلدادہ ہوا اور اسلام سے اُس کا دل مالا مال ہوا۔ وہ دلدادہ رسول، رسول اللہ کے آگے آکر کھڑا ہوا اور کہا کہ اے رسول اللہ! عمرہ کے ارادے سے مکہ مکرمہ کے لئے راہی رہا کہ اہل اسلام محصور کر کے ادھر لے آئے۔ اس لئے اگر حکم ہو مکہ مکرمہ کے لئے راہی ہو کر عمرہ ادا کر لوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعا لے کر مکہ مکرمہ گئے اور عمرہ ادا کر کے گھر لوٹے ۔

اسی سال کے ماہِ سوم کو ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم اہل اسلام کو لے کر ولید عدی اور عاصم کے ”صلۃ دُوم“ کے لئے راہی ہوئے اور ارادہ ہوا کہ اُس محل آکر معرکہ آراء ہوں کہ وہاں علمائے اسلام دھوکے سے ہلاک ہوئے۔ رسول اکرم اُس محل کے لئے راہی ہوئے۔ مگر اعداء کو عسکر اسلام کی آمد کی اطلاع ہو گئی۔ اور وہ کساروں کے ادھر دوڑ گئے۔ رسول اکرم اک عرصہ وہاں رُکے رہے اور ادھر ادھر کے گاؤں گوٹوں کو مہم ارسال ہوئی۔ مگر وہ لوگ معرکہ آرائی کے پوصلے سے محروم رہے۔

لَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ۝

۱۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عاصم بن ثابت اور حضرت ضبیب بن عدی کے انتقام کے لئے تشریف لے گئے۔ پیغروہ بنی لحیان کے نام سے مشہور ہے۔ اُن لوگوں سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔

اسی سال رسول اکرمؐ کے مددگار سلمہ ولد الکوع کی مہم کا معاملہ ہوا۔ مگر انہوں
 کے کئی لوگ اک عمریٰ سے رسول اللہؐ کا اک گلہ ٹوٹ کر لے گئے اور حوصلہ دہری سے
 اعداء کے لوگوں سے وہ گلہ رہا کر آکر لائے۔ رسول اکرمؐ کو اس کی اطلاع ہوئی
 وہ کئی سو سواروں کو لے کر وہاں گئے۔ مگر انہوں کے دو آدمی مارے گئے اور گلوں
 کے لوگ حوصلہ ہار کر رُوگرداں ہو گئے۔

اس سال مہموں کا سلسلہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مہم و
 مددگار اندگرد کے لوگوں کے لئے مہم لے کر گئے اور اعدائے اسلام کے حوصلوں کو
 سرد کر کے آئے۔

علیؑ کی مہم

اسی سال ہمدیم رسول علیؑ کریمہ اللہ کی مہم ارسال ہوئی۔ رسول اکرمؐ کو اطلاع
 ملی کہ اولادِ سعد کے لوگ اردگرد کے گروہوں کو اکٹھا کر کے لڑائی کے لئے آمادہ
 ہوئے۔ ہادشی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کو علیؑ کریمہ اللہ کو حکم ہوا کہ وہ دو سو آدمی
 ہمراہ لے کر اولادِ سعد کے مصر کے لئے رواں ہوں۔ وہ دو سو اہل اسلام کا اک
 عسکر لے کر اولادِ سعد کے لئے اس طرح رواں ہوئے کہ لوگ اس عسکر کی آمد سے
 لاعلم ہوں۔ راہ کے اک مرحلے آکر اک آدمی ملا۔ اُس کو ڈرا دھمکا کے معلوم ہوا کہ
 وہ اولادِ سعد کا آدمی ہے اور اہل اسلام کے احوال کے علم کے لئے ادھر آ رہا ہے۔ اُس
 سے کہا کہ اگر اولادِ سعد کے احوال اور اُس کا محل ہم سے کو، ہلاکی سے دُور رہو گے۔
 اُس سے اولادِ سعد کی راہ اور دوسرے احوال معلوم ہوئے اور اولادِ سعد کے
 مصر آکر اہل اسلام حملہ آور ہوئے۔ اولادِ سعد حوصلہ ہار کر مصر کے گاہ سے رُوگرداں ہوئے۔

علیؑ مرثیٰ: چراغہ۔

لے بنی سعد بن جب، خیر کے یہودیوں کی امداد کے لئے لشکر جمع کر رہے تھے۔ (راج السیر مست: ۲۸۸)۔

گئے۔ مگر کئی سو سواری اور دوسرے اموال وہاں رہ گئے۔ اہل اسلام سارے گلے اور اموال لے کر وہاں سے سُوتے مَعْرُوثِ رَہْمَہ لُٹ آئے۔

اس طرح اس سال اس طرح کی کئی مہمتوں کا سلسلہ ہوا۔ اک مہم ولیدِ رَہْمَہ لُٹ لے کر گئے اور اسرائیلی گروہ کے مہر آئے۔ وہاں اسرائیلی گروہ کے کئی آدمی مارے گئے۔ اس طرح ہر ماہ رسول اللہ کے حکم سے ارد گرد کے لوگوں کے لئے مہم ارسال ہوئی۔ اور رسول اللہ کے ولید ہر مہم کو سر کر کے لوٹے۔

اسی طرح ارد گرد کے لوگوں سے لڑائی اور مہمتوں کے احوال ہوئے اور وِہِجِ مَکَہ کو دو کم آٹھ سال ہوئے اور مال کا مہر کہ صلح کا وہ معاملہ ہوا کہ اُس سے اسلام کے علو اور اہل اسلام کی کامنگاری کا در کھلا اور اس صلح کے معاہدے سے رسول اکرم کو ادھر ادھر کی مہموں سے رہائی ملی اور اسلامی علوم و احکام کے عملی درس لوگوں کو ملے اور اسلام اس ملک کی حدود سے آگے دوسرے ممالک کو رُسا ہوا اور کلامِ الہی سے گواہی آئی کہ معاہدہ صلح اہل اسلام کی اہم کامنگاری ہے۔ اس سال کا سارے معاملوں سے اہم معاہدہ صلح کا معاملہ ہے۔ اس کا مکمل حال آگے مسطور ہے۔



۱۔ اس سریشے سے مسلمانوں کو پانچ سو اونٹ اور دو ہزار بکریاں ہاتھ آئیں۔
۲۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ یہودیوں کے حالات معلوم کرنے گئے تھے۔ راستے میں یہودیوں سے لڑائی ہو گئی۔ سوائے ایک آدمی کے سارے یہودی مارے گئے۔

معادہ صلح

وداع مکہ کو دو کم آٹھ سال ہوئے اور اس سال کا دسواں ماہ مکمل ہوا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ وہ عمرے کے لئے مکہ مکرمہ کے
لئے راہی ہوں۔ اس سارے معاملے کا مکمل حال اس طرح ہے۔

رسول اللہ اور دوسرے سادے اہل اسلام کے دلوں کو عرصہ سے اس
رہی کہ وہ حرم مکہ اگر کسی طرح ”دار اللہ“ کے گرد گوم کر اور اس کا دور کر کے
مسرور ہوں۔ مگر اہل مکہ کی ہٹ دھرمی اور حسد کے احساس سے اس ارادے
سے دور رہے۔

اک سحر کو ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ اور اہل اسلام کو اطلاع دی
کہ اللہ کے رسول کو سونے ہوئے ”دار اللہ“ کا الہام ہوا ہے۔ اس لئے اللہ
کے رسول کا ارادہ ہے کہ وہ اسی ماہ عمرے کے ارادے سے سونے مکہ مکرمہ
راہی ہو اور وہاں اگر عمرہ ادا کرے۔ اس لئے وہ لوگ کہ عمرے کے لئے آمادہ
ہوں، رسول اللہ کے ہمراہ ہوں۔

اہل اسلام کو اس اطلاع سے دلی سرور حاصل ہوا اور سالہا سال کی دلی
اس معادہ سوا ہو گئی اور اس رحلہ مسعود کے لئے معمورہ رسول کے صہبا لوگ
آمادہ ہو گئے۔ اس طرح سو کم سولہ سو اللہ والے عمرے کے لئے آمادہ ہوئے۔

۱۔ ”معادہ صلح“ صلح حدیبیہ۔ ۲۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بمذی قعدہ ۳۔ مکہ مکرمہ کے لئے
 روانہ ہوئے۔ ۴۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ نے اپنے اصحاب کے
ساتھ حج کیا اور غار کعبہ کی کنی اپنے قبضہ میں کر لی ۵۔

اگلے ماہ کی اول کو ہادنی کامل صلی اللہ علیہ وسلم اہل اسلام کو ہمراہ لے کر مکہ مکرمہ رہا ہی ہوئے۔ راہ کے اک مرحلے آکر رسول اللہ کے اور وہاں حکم ہوا کہ ”صدی“ کو اللہ کے لئے گھائل کر دو اور عمرے کے احرام کس لو۔ اسی محل سے اک مددگار رسول کو حکم ہوا کہ وہ آگے رہا ہی ہو کر مکے کے گمراہوں کے احوال سے اطلاع دے۔ وہ اٹھارہ اور دو سواروں کے ہمراہ آگے رہا ہی ہوئے۔ اُدھر مکے والوں کو معلوم ہوا کہ اہل اسلام اک عسکرِ طرار لے کر سوئے مکہ مکرمہ رہا ہی ہوئے۔ مکے کے اک شہزاد کو دو سو آدمی دے کر کہہ دیا کہ اہل اسلام کے اڑے ہو کر اللہ والوں کی راہ روکو۔ رسول اللہ کے وہ مددگار کہ مکے والوں کے احوال کی اطلاع کے لئے سوئے مکہ رہا ہی ہوئے۔ وہاں سے سارے احوال معلوم کیے گئے اور آکر رسول اللہ کو اطلاع دی کہ مکے والے ہر طرح لڑائی کے لئے آمادہ ہو گئے اور سارے لوگوں کا ارادہ ہے کہ اہل اسلام کو مکے سے دور ہی روک کر معرکہ آراء ہوں گے اور اطلاع دی کہ مکے والوں کا اک سردار دو سو سواروں کو ہمراہ لے کر مکہ مکرمہ سے دور اک مرحلے آکر ٹھہرا ہوا ہے۔

عسکرِ اسلامی کو حکم ہوا کہ وہ سوئے مکہ مکرمہ رہا ہی ہو۔ رسول اکرم اس مرحلے سے سوار ہوئے، مگر رسول اللہ کی سواری آڑ کر کھڑی رہی۔ سارے لوگوں کی سعی ہوئی کہ وہ وہاں سے آگے کو رواں ہو اور اُس کو محلِ صلّٰی کہا مگر وہ کہاں ٹس سے مس ہو؟ رسول اللہ کا کلام ہوا کہ رسول کی سواری اللہ کے حکم سے دُکی ہے۔ اُس اللہ کا واسطہ کہ وہ مری رُوح کا مالک ہے۔ اگر مکے والے کسی اس طرح

دیکھتے تو رشتہ کارِ قربانی کے جانے والے کو ہانوں کو بیچ سے کاٹ کر شق کر دیتے تھے۔ تاکہ دور سے معلوم ہو کہ یہ ”ہدی“ کے جانور ہیں۔ تہ حضرت خالد بن ولید۔ اس وقت تک حضرت خالد اسلام نہیں لائے تھے۔ تہ روایات میں یہی الفاظ ہیں کہ ادنیٰ کو پہکانے کے لئے ”محلِ صلّٰی“ کی آواز دیا۔

کے امر کے لئے ساعی ہوں گے کہ اُس سے حدودِ حرم کا انکرام ہو، وہ امر ہر طرح گوارا کروں گا۔

اس طرح کہہ کر سواری کو ٹھوکا دے کر وہاں سے راہی ہوئے اور سواری ددڑ کر رواں ہوئی۔

اس طرح سرکارِ دو عالم اہل اسلام کو لے کر مکہ مکرمہ سے کوئی دس کوس ادھر اک گاؤں آکر رُکے۔ کڑی گرمی کا موسم، لوگ گرد اور دھول سے اُٹے ہوئے ماءِ طاہر کی کمی محسوس ہوئی۔ لوگ اللہ کے رسول کے آگے آئے اور اس کی کا حال کہا اور کہا کہ وہ گڑھا کہ ماءِ طاہر کا حامل رہا سو کھ کر ماءِ طاہر سے محروم ہوا ہے۔ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اک "سہام" لے کر آئے اور کہا کہ اس کو وہاں گاڑ دو۔ لوگ اُس سہام رسول کو لے کر گڑھے کے آگے آئے اور وہاں وہ "سہام" گاڑا۔ اللہ کا حکم ہوا اور سارا گڑھا ماءِ طاہر سے معمور ہوا اور سارے عسکر کے لئے مکمل ہوا۔

وہی محل رسول اللہ اور اہل اسلام کی درود گاہ ہوا۔ وہاں آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اک دلدادہ کو حکم ہوا کہ مکہ مکرمہ کے لئے راہی ہو اور مکے والوں سے کہے کہ ہم عمرہ اور "دار اللہ" کے دور کے لئے نیکے کے لئے راہی ہوئے۔ ہمارا عہد ہے کہ ہم لڑائی اور معرکہ آرائی سے دور ہوں گے۔ وہ دلدادہ رسول مکہ مکرمہ گئے۔ مگر نیکے کے لوگ حسد اور ہتھیاری سے آگے آڈٹے اور دلدادہ رسول کی سواری کو مار ڈالا اور اُس کی ہلاکی کے لئے آمادہ ہوئے۔ مگر لوگ اُڈے آئے اور وہ دلدادہ رسول کسی طرح وہاں

لے۔ حدیث: مکہ مکرمہ سے پانچ میل جدہ کی سمت واقع ہے۔

یہ حضرت خراش بن امیہ خزاعی

سے لوٹ کر عسکرِ اسلامی کی درودگاہ آئے اور سارا حال کہا۔ ہادیؑ کامل صلی اللہ علیہ وسلم و سلم کا ہمدام اور اسلام کے حاکم سوم کو حکم ہوا کہ مکہ مکرمہ کے لئے راہی ہوں اور رؤسایہ مکہ سے اور مکہ مکرمہ کے مسلمانوں سے کہہ دو کہ اک عرصہ ادھر اللہ اہل اسلام کو کامنکاری عطا کرے گا اور اسلام کو علو حاصل ہو گا۔ ہمدام داماد رسول اللہ کے حکم سے مکہ کے اک آدمی کے ہمراہ مکہ مکرمہ گئے اور وہاں کے سرداروں اور مسلمانوں سے رسول اکرمؐ کے حوالے سے وہ اطلاع دی۔

نئے والے اک رائے ہو گئے کہ اس سال مکہ مکرمہ سے دور رہو اور عمرے کے ارادے کو دل سے دور کرو۔ ہاں اگلے سال اگر عمرہ ادا کرو اور ہمدام داماد سے کہا کہ اگر ارادہ ہو ”دار اللہ“ کا دور کر لو۔ مگر ہمدام داماد کو کہاں گوارا کہ اللہ کا رسول دار اللہ کے دور سے محروم رہے اور وہ اس اکرام اور سرور کو حاصل کر لے۔ ہمدام داماد وہاں روک لئے گئے اور ادھر اہل اسلام کو کسی طرح اطلاع ملی کہ ہمدام داماد مارے گئے۔

رسول اللہؐ کے آگے اہل اسلام کا عہد

سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی، اُس سے رسول اللہؐ کو کمالِ حد مرہوا اور کہا کہ ہمدام داماد کا ”صلہ دم“ لے کر ہی وہاں سے راہی ہوں گے اور وہاں سمرہ کے سائے آئے اور عامِ صدا دی کہ ہر وہ آدمی کہ اللہ

لے حضرت عثمان غنیؓ کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ تعالیٰ اعتریب مسلمانوں کو فتح دے گا اور اپنے دین کو غالب کرے گا۔ (سیرت مصطفیٰ ص ۲۷۲) ۵۰ بیعت الرضوان۔ یعنی وہ بیعت جس سے صحابہ کرام کے لئے اللہ تعالیٰ کی عام رضا کا اعلان قرآن کریم میں ہوا۔ ۵۱ سمرہ۔ بیکر کا وہ درخت

جس کے نیچے بیٹھ کر آپؐ نے بیعت لی۔ (سیرت مصطفیٰ ص ۲۷۳) ۵۲

کے رسول کے ہمراہ حوصلہ دہی سے لڑائی کے لئے آمادہ ہے، آگے آئے اور رسول اللہؐ سے عہد کرے کہ وہ رسول اللہؐ کے ہمراہ ہر طرح لڑے گا اور دل کھول کر معرکہ آراء ہوگا۔ سارے لوگوں سے اقل رسول اللہؐ کے اک دلدارہ اسدی آگے آئے اور رسول اللہؐ سے معرکہ آرائی کا عہد کر کے لوٹے۔ سارے اہل اسلام کھڑے ہو گئے اور اک اک کر کے سارے لوگ عہد کر کے مسرور ہوئے۔ ہمد و ماد کے لئے کلام ہوا کہ اُس کے لئے اس طرح کا عہد اللہ کا رسول ہی کرے گا۔ ہمدوں اور مددگاروں کے اسی عہد کے لئے کلام الہی وارد ہوا اور اس عہد کے حامل سارے اہل اسلام کو وہ اکرام ملا کہ دوسرے لوگ اس سے محروم رہے۔ اس کلام الہی سے اس امر کی گواہی ملی کہ اللہ مالک الملک عہدگاروں سے مسرور ہوا اور اللہ کو سارے اہل اسلام کے دلوں کا حال معلوم ہے اور اہل اسلام کے لئے دل کا مسرور وارد ہوا اور اس کے صلے اللہ کی درگاہ سے اک عرصہ ادھر اک کامگاری عطا ہوئی اور اموال کا نگہداری ملے۔ مگر ہمد و ماد کسی طرح مکے والوں سے الگ ہو کر ورود گاہ آگئے اور رسول اکرمؐ سے آملے اور اگر رسول اکرمؐ سے عہد کر کے اس اکرام کے حصہ وار ہوئے۔

گمراہوں کا آگ گردہ گو کہ اسلام سے دور رہا، مگر رسول اللہؐ اور اہل اسلام کا ہمد و مدد رہا اور رسول اکرمؐ کو مکہ مکرمہ اور اُس کے گمراہوں کے احوال سے صدا آگاہ رکھا۔ اُس کا سر دار کئی لوگوں کو ہمراہ لے کر رسول اللہؐ سے آکر ملا اور کہا

لہ قرآن کریم کی یہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی۔ لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قروباً ومغانم كثيرة ياخذونها۔ وكان الله عز وجل حكيمًا۔ بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جو وقت کہ وہ آپؐ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیٹھ کر آپؐ سے عہد کر کے اور اللہ کو ان کے دلوں کا خلوص معلوم ہو گیا۔ اللہ نے ان پر سکینت نازل کی اور انعام میں قریبی فتح عطا فرمائی اور بہت سے اموال غنیمت عطا فرمائے اللہ غالب حکمت والا ہے۔ (سیرت مصطفیٰ ص ۷۸ ج ۲) :-

کہ تکتے والوں کے ہمراہ اک عسکر طرار اکٹھا ہو کر لڑائی کے لئے آمادہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ اُس سے ملے اور کہا کہ ہمارا ارادہ عمرے کا ہے، عمرہ ادا کر کے ہم سوئے مموۃ رسول راہی ہوں گے۔ ہم کو معلوم ہے کہ اہل مکہ کئی سالوں کی لڑائی سے گراں حال ہو گئے۔ اس لئے اگر تکتے والوں کی رائے ہو کہ عرصہ صلح کا طے کر دوں کہ اُس عرصہ کے لئے ہر دو گروہ لڑائی سے دور ہوں۔ اگر اللہ کے کرم سے ہم کو غلو حاصل ہوا۔ تکتے والے اگر آمادہ ہوں اسلام لاکر مسلم ہوں اور اگر تکتے والے حاوی ہوئے وہی تکتے والوں کی مراد ہے۔ مگر معلوم رہے کہ اللہ کے حکم سے اسلام کو غلو حاصل ہو کر رہے گا۔ اور اللہ کا وہ وعدہ کہ ہم سے ہوا ہے لامحالہ مکمل ہو گا اور اگر وہ صلح سے دو گروہاں ہوئے۔ ہم کو اللہ کا واسطہ کہ ہم لامحالہ معسر کہ آزاد ہوں گے۔

اس گروہ کا سردار وہاں سے اُٹھ کر اہل مکہ سے آکر ملا اور کہا کہ لوگو! اُس آدمی سے اک مسئلہ کا اک حل لے کر وارد ہوا ہوں۔ اگر رائے ہو اُس کا وہ حل کہو۔ کئی لوگ اُٹھے اور کہا کہ ہم اُس کے ہر کلام سے الگ ہی رہے، مگر دوسرے لوگ معسر ہوئے اور کہا کہ وہ حل ہم سے کہو۔ رسول اکرم کی رائے کہی گئی۔ عروہ دلد سعود اُٹھے اور تکتے والوں سے کہا کہ اے لوگو! سارے لوگوں کے والد کی طرح ہوں اور سارے لوگ مری اولاد کی طرح ہو۔ اس لئے اے لوگو! محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اس رائے کو لے لو اور اس سے صلح کر لو۔ سارے لوگوں کی کامنکاری اسی امر سے ہوگی۔ اگر رائے ہو، اسلامی درود گاہ رواں ہو کر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے اس امر کے لئے مکالمہ کروں۔

عروہ دلد سعود وہاں سے رواں ہو کر رسول اکرم سے ملے اور کہا کہ اے

اے عروہ بن سعود شفی، جو اہل طائف کے سردار تھے۔

محمد مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ کہ اسلام لائے اور ہمد ہوئے تھے والوں کے ہمد وہ ہو کر لڑائی سے روگرداں ہوں گے۔

ہمد مکرم اُس کے اُڑے اُٹے، اُس سے کڑا کلام کر کے کہا کہ امر محال ہے ہمارا کوئی آدمی رسول اللہ سے روگرداں ہو۔ وہ سارا عرصہ کہ عروہ وہاں رہا، اہل اسلام کے کردار و اطوار اور مسلمانوں کے سلوک و اعمال سے اُس کو محسوس ہوا کہ اہل اسلام کا رسول اللہ سے وہ اکرام اور دلدادگی کا سلوک ہے کہ ملوک عالم اُس اکرام سے محروم رہے۔ ہر آدمی کی سچی ہے کہ ادھر رسول اللہ کا کوئی حکم ہو اُدھر وہ اس کے عمل کے لئے دوڑے اور دوسروں سے اول اس کام کو کرے۔ عروہ کے ولید عم رسول اکرم کے دلدادہ مسلح ہو کر رسول اللہ کے ہمراہ کھڑے رہے، اُس کو محسوس ہوا کہ اُس کا عم عروہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاڈھی کو مس کر کے مکالمہ کر رہا ہے۔ وہ دلدادہ رسول آگے آئے اور کہا کہ دُور ہٹ کر کھڑے ہو۔ اک گمراہ کے لئے مکروہ ہے کہ وہ رسول اللہ کی ڈاڈھی کو مس کرے۔ الحاصل اُس کو ہر طرح سے محسوس ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دلدادہ روح و دل سے رسول اللہ کے ہمد و دعائی ہوئے اور وہ ہر طرح اُس کے ہمراہ مہر کٹا کر مسرور ہوں گے۔

وہ سردار اہل مکہ سے آکر ملا اور کہا کہ لوگو! اس عالم کے کئی ملوک سے ملا ہوں مگر سارے ملوک اس اکرام سے محروم رہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اُس کے ہمد ہوں اور مددگاروں سے حاصل ہے۔ عروہ کے اس کلام سے اک اور سردار آلہوہ ہوا کہ عسکر اسلامی کی درود گاہ آکر اصل احوال سے مطلع ہو۔ وہ وہاں کے لئے راہی

۱۔ حضرت میسر بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے عروہ کو ڈانٹا کہ وہ رسول اللہ کی ڈاڈھی کو ہاتھ لگا کر بات نہ کرے۔ (سیرت مصطفیٰ ص ۲۶)

ہوا اور حدی کو دُور ہی سے مطالعہ کر کے لوٹا اور نئے والوں سے کہا کہ اہل اسلام کا گروہ عمرے کے انادے سے وہاں آکر وارد ہوا ہے اُس کو ”دار اللہ“ سے کس طرح روکو گے ؟

الحاصل اس طرح نئے والوں کے کئی سردار آئے اور گئے۔ مالِ کار و لدِ عمرو اہل مکہ کا حکم ہو کر صلح کے مکالمے کے لئے مکہ مکرمہ سے راہی ہوا۔

رسولِ اکرمؐ کو دُور سے ولیدِ عمرو کی سواری دکھائی دی۔ لوگوں سے کہا کہ ”اس کی آمد سے معاملہ سہل ہو گا“

اور کہا کہ نئے والے صلح کے لئے آمادہ ہو گئے۔ ولیدِ عمرو آکر رسولِ اکرمؐ سے ملا اور صلح کے امور کے لئے مکالمہ ہوا۔

معاہدہ صلح کے طے کردہ مُو

ولیدِ عمرو سے معلوم ہوا کہ اہل مکہ اس امر کے لئے مصر ہوئے کہ اس سال اہل اسلام عمرے کے علاوہ ہی معمورہ رسول کو راہی ہوں اور اگلے سال آکر عمرے کی ادائیگی ہو۔ اس کے علاوہ کئی امور اس طرح کے رکھے کہ اُس سے اہل اسلام کے دل دکھے اور ہر طرح لوگ آمادہ ہوئے کہ معاہدہ صلح کے اس طرح کے امور سے الگ ہوں۔ مگر ہادیؑ کامل صلی اللہ علیہ وسلم صلح کے سارے امور کے لئے آمادہ ہو گئے اور اہل اسلام سے کہا کہ اللہ کے سہارے اس معاہدے کو طے کر لو۔

ابن سبیل بن عمرو۔ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد سہل لکم من امرکم“
بے شک تمہارا معاملہ کچھ سہل ہو گیا۔

الحاصل ہمد رسول علی کریمؐ کو حکم ہوا کہ وہ معاہدے کے سارے امور لکھ لے۔ اس طرح علی کریمؐ اللہ معاہدے کی لکھائی کے لئے مامور ہوئے اور سارے امور سے اول اللہ کے اسم کا حامل وہ کلمہ لکھا کہ اہل اسلام ہر کلام سے اول اُس کلمے کے عادی رہے، وہ کلمہ اس طرح ہے۔

”اللہ کے اسم سے کہ عام رحم والا، کمال رحم والا ہے“

ولید عمر و کھڑا ہوا اور کہا ”ہمارے لئے وہ کلمہ لامعلوم ہے اس لئے اسم اللہ“ کا کلمہ لکھو کہ وہی کلمہ ہمارا معمول رہا۔ رسول اللہ کا علی کریمؐ کو حکم ہوا کہ اسی طرح لکھ لو۔ سو وہ کلمہ اسی طرح لکھا اور رسول اللہ کا اسم گرامی مع رسول اللہ کے لکھا۔ ولید عمر و کھڑا ہوا اور کہا کہ اہل اسلام سے ہماری ساری لڑائی کی اساس وہی کلمہ ہے کہ محمد (صلی اللہ علیٰ رسولہ وسلم) اللہ کا رسول ہے اور اسی کلمے کے لئے عمرے سے روکے گئے ہو، اس لئے معاہدہ سے اس کلمہ کو مٹا کر محمد کا اسم اُس کے والد کے حوالے سے لکھو۔ علی کریمؐ اللہ کو حکم ہوا کہ اس کلمے کو محو کر دو۔ علی کریمؐ اللہ کو اس امر سے ڈکھ ہوا اور اُس کو مکروہ معلوم ہوا کہ وہ کلمہ رسول اللہ کو محو کرے۔ اس لئے سرورِ عالم صلی اللہ علیٰ رسولہ وسلم اٹھے اور اس کلمے کو محو کر کے علی کریمؐ اللہ سے کہا کہ ہمارا اسم مع والد کے اسم کے لکھ دو۔ اس طرح سارا معاہدہ مکمل طور سے مسطور ہوا۔ معاہدہ صلح کے امور عدد و وار اس طرح طے ہوئے۔

۱۔ اہل اسلام اس سال عمر کے علاوہ ہی وہاں سے معمورہ رسول راہی ہوں گے اور اگلے سال عمرہ ادا ہو گا۔

لے یہ بسم اللہ الترجیع کا نہایت عمدہ ترجمہ ہے۔ یہ اسلام سے پہلے عام دستور تھا کہ تمام تحریروں پر بسم اللہ لکھا جایا کرتا تھا۔ راجع السیر، طبقات ابن سعد و غیرت مصنفین سے سہیل بن عمرو نے کہا کہ اگر ہم ان کو اللہ کا رسول مانتے تو عمرے سے کیوں روکتے؟ اس لئے معاہدہ پر محمد ابن عبد اللہؐ لکھو ۛ

۲۔ معاہدہ صلح دس سال کے عرصہ کے لئے ہوگا اور اس سارے عرصے ہر دو گروہ لڑائی اور معرکے سے دور ہوں گے۔

۳۔ اس ملک کا ہر گروہ اس امر کے لئے رہا ہوگا کہ وہ اہل اسلام اور مکے والوں سے کسی گروہ سے ہمدردی و مددگاری کا معاہدہ کر لے اور اس طرح وہ معاہدہ صلح کے سارے امور کا مامور ہوگا۔

۴۔ اگر کوئی آدمی مکے والوں سے رہا ہو کر اور اسلام لاکر معمورہ رسول آئے گا وہ معاہدے کی رُو سے مکے والوں کے حوالے ہوگا۔

۵۔ اگر کوئی مسلم معمورہ رسول سے راہی ہو کر مکہ مکرمہ آئے گا وہ مکے والوں ہی کے ہمراہ رہے گا۔

معاہدہ صلح کا ردِ عمل

عام طور سے اس معاہدے کا ردِ عمل اس طرح کا ہوا کہ اہل اسلام کو معاہدے کے سارے امور گراں معلوم ہوئے اور اہل اسلام کو محسوس ہوا کہ وہ اس معاملے کو طے کر کے گمراہوں کے آگے ہلکے ہو گئے اور دل کو احساس ہوا کہ مکے کے گمراہوں کو محسوس ہوگا کہ اہل اسلام ڈر گئے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو اس امر سے دلی دکھ ہوا کہ وہ معمورہ رسول سے سارے مراحل طے کر کے اس لئے وہاں آئے کہ عمرہ ادا کر کے سرور ہوں گے۔ مگر اہل مکہ کی ہٹ دھرمی سے وہ اس اکرام سے محروم ہو گئے۔ معاہدے کا وہ امر اہل اسلام کو سارے امور سے سوا گراں معلوم ہوا کہ اگر کوئی مکے کا مسلم رہا ہو کر معمورہ رسول آئے گا گمراہوں

یعنی عرب کے قبیلے آزاد ہوں گے کہ چاہے مسلمانوں کے حلیف ہو جائیں چاہے مشرکین قریش کے ۔

کے حوالے ہو گا اور اگر معمولہ رسول کا کوئی آدمی مکہ مکرّمہ آئے گا، نکتے والوں کا مخصوص ہو گا۔

اُدھر اک اور معاملہ اس طرح کا ہوا کہ اُس سے اہل اسلام کا دکھ اور سوا ہوا۔ نکتے والوں کے سردار ولدِ عمرو کا لڑکا اک عرصہ اُدھر اسلام لاکر اہل اسلام کا حامی ہوا۔ مگر ولدِ عمرو کو کہاں گواہ کیا کہ اُس کا لڑکا اللہ اور اُس کے رسول کی راہ لگے۔ اُس کو مخصوص کر کے ہر طرح کا دکھ دے کر مسرود ہوا۔ اُس ہمدم رسول کو اطلاع ملی کہ اللہ کا رسول عمرے کے ارادے سے اہل اسلام کے ہمراہ وارد ہوا ہے۔ وہ کسی طرح رہا ہو کر ورو دگاہ کے لئے راہی ہوئے۔ اُدھر معاہدہ مقرر ہو کر مکمل ہوا اور اُدھر وہ ہمدم رسول لوہے کی سلاسل سے کسا ہوا وہاں آکے کھڑا ہوا اور گڑ گڑا کر کہا کہ اے رسول اللہ! اللہ کے حکم سے اسلام لاکر اللہ کی راہ لگا ہوں، مگر والد کا مقصود ہوں اللہ کے لئے اس دکھ اور الم سے رہائی دلاؤ۔ اور ہم کو ہمراہ لے کر معمولہ رسول کے لئے راہی ہو۔ مگر ولدِ عمرو ہٹ کر کے ٹھہر ہوا کہ معاہدے کی دُوسے وہ لڑکا ہمارے حوالے ہو گا۔ گو اُس لمحہ معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اور ولدِ عمرو کی گواہی سے محروم تھا۔ مگر اللہ کا رسول معاہدے کا عامل ہوا اور اُس ہمدم کے آگے اُس کو دلا سے کلمے کہے اور کہا کہ

وہ اے لڑکے! جلم سے کام لو اور اللہ سے اُس رکھو، اللہ کا رسول حمد کے اکمال کے لئے مامور ہے۔ لا محالہ اللہ کے حکم سے اس الم سے رہائی

ملے اس معاہدے کی شرائط سے مسلمانوں کو بہت ظلم ہوا اور اس میں اُن کو اپنی ذات محسوس ہوئی۔ (راج السیر) ۱۷۰ سہیل بن عمرو نے اپنے لڑکے حضرت ابو جندل کو بیڑیاں ڈال کر قید کر رکھا تھا، وہ بیڑیوں پہنے ہوئے وہاں آئے (سیرت مصطفیٰ ص ۸۳ ج ۲) ۱۷۱ اس وقت تک معاہدے پر دستخط نہ ہوئے تھے۔

راج السیر، طبقات ابن سعد

حاصل کر دیجئے۔

ولد عمر و اُس ہمد رسول کو لے کر سوئے مکہ راہی ہوا۔ اہل اسلام کو اُس ہمد کے معاملے سے کمال دکھ ہوا اور عمر مکتوم رسول اللہ کے آگے آئے اور کہا کہ اے رسول اللہ! ہم راہِ حدی کے عامل ہو کر کس لئے اس طرح رُسا ہوں۔ مگر ہادی کامل صلی اللہ علیٰ رسولہ وسلم آٹھے اور کہا کہ

”اللہ کا رسول ہو کر وارد ہوا ہوں۔ امرِ محال ہے کہ وعدہ کر کے

اس سے ہٹوں“

اس طرح معاہدہٴ صلح کا معاملہ مکمل ہوا۔ اہل اسلام کو رسول اللہ کا حکم ہوا کہ حدی کو کاٹ ڈالو اور موئے سر کاٹو اور احرام کھول دو۔ اہل اسلام کو رسول اللہ کا وہ حکم اک لمحے کے لئے گراں معلوم ہوا اور وہ اس امر سے رُکے رہے۔ رسول اللہ کا دہرا کر وہی حکم ہوا۔ لوگ اسی طرح رُکے رہے۔ رسول اکرمؐ آٹھے اور وہی حکم دہرا کے کہ اہل اسلام دل کے طلال سے اُسی طرح کھڑے رہے۔ رسول اکرمؐ وہاں سے آٹھے اور مسلمانوں کی ماں اُم سلمہ سے آکر سارا حال کہنا۔ عروسِ رسول کی رائے ہوئی کہ اے رسول اللہ! لوگوں کو اس معاملے سے دلی دکھ ہوا ہے۔ اس لئے اس طرح کرو کہ آٹھ کر حدی کو کاٹو اور احرام کھول دو۔ اس طرح سارے اہل اسلام اس حکم کے عامل ہوں گے۔ رسول اکرمؐ اُس اللہ والی کی اس عمدہ رائے

لے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل سے فرمایا: یا ابا جندل! اصبر واحتسب فاننا لانقدر رواية الله جاعلًا لك فرجاً قميناً تجاه ابي جندل! صبر کر اور اللہ سے امید رکھ ہم خلافتِ محمدؐ نہیں کرتے اور اللہ عنقریب تمہاری بنات کی کوئی صورت نکالے گا۔ سیرتِ مصطفیٰ (جلد ۱) ص ۱۷۴
 سیدہ مسلمان اس قدر شکستہ خاطر تھیں کہ آنحضرتؐ نے تین بار حکم دیا مگر ایک شخص بھی نہ اٹھا۔ آپؐ غلام المؤمنین حضرت ام سلمہ سے کہا: اُنہوں نے دل سے دی کہ پہلے آپؐ خود قربانی کریں، سب مسلمان آپؐ کو دیکھ کر ویسا ہی کریں گے۔ (سیرتِ مصطفیٰ ج ۱ ص ۱۷۴)

سے مسرور ہوئے۔ اُنھ کو کہہ دی گئی۔ مومنوں کو کہہ کر اہل اسلام کو سارے اہل اسلام معاف کر دیا اور سارے لوگوں کے احرام کھل گئے۔

رسول اللہ کا حکم ہوا کہ سارے اہل اسلام معذورہ رسول کے لئے رہی ہوں۔

معاهدہ صلح اسلام کی کامنگاری ہے

رسول اللہ کے حکم سے اہل اسلام سوئے معذورہ رسول ہوئے۔ راہ کے اکر ملے اکر رسول اکرم کو اک مکمل سورہ وحی کی گئی۔ اس وحی سے اللہ کی گواہی آئی کہ معاهدہ صلح اہل اسلام کی گئی کامنگاری ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمدیوں اور مددگاروں کو وہ سورہ مسجوع ہوئی۔ لوگوں کا سوال ہوا کہ اے رسول اللہ! وہ معاهدہ کس طرح ہماری کامنگاری ہے؟

کہا۔ ”وَاللّٰہُ! وہ ہماری اک اہم کامنگاری ہے۔“
اہل اسلام کے دل اس وعدہ الہی سے مسرور ہوئے۔ (رواہ احمد والترمذی)
اللہ کا وہ وعدہ مکمل ہوا اور معاهدہ صلح سے اہل اسلام کو وہ کامنگاری عطا ہوئی کہ اسلام کو وہ قلعہ حاصل ہوا کہ اٹھارہ سالوں کی کامنگاری معاهدہ صلح کے دو سال کی کامنگاری کے آگے کم ہے۔

اس معاهدے سے معرکوں اور مہنتوں کے سلسلے سے رہائی ملی اور رسول اکرم اسلام کے دوسرے اہم امور کے لئے ساعی ہوئے۔ لوگوں کے لئے راہ ہموار ہوئی کہ وہ اسلام اور اہل اسلام کے اصولوں اور اطواروں کا مطالعہ کر کے راہ ہدیٰ سے

۱۔ سورہ فتح اسی موقع پر نازل ہوئی۔ ۲۔ سیرت مصطفیٰ ص ۴۷ ج ۲ (بحوالہ مسند احمد ابو داؤد و ترمذی)
۳۔ صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک جتنے لوگ اسلام لائے، اتنے لوگ بعثت سے صلح حدیبیہ تک کے پورے عرصہ میں نہیں لائے۔ (بحوالہ بالا) ۴۔

آگاہ ہوں۔ وہ لوگ کہ ٹک ٹک کر اسلام کے اصولوں کے عامل رہے، مکمل کھلا اسلامی احکام کے عامل ہوئے۔ دوسرے ممالک کے لوگ اور حکام کو مراسلے لکھے گئے اور اک ہمسائے ٹک کا حاکم اسلام لاکر مسلوں کا حامی ہوا۔ اسلام کا کلمہ اس ملک کی حدود سے رواں ہو کر دوسرے ممالک کے لئے عام ہوا۔ دور دور کے گروہوں کی آمد کا سلسلہ لگا اور وہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور مساعی سے ہی اسلام لائے۔

معمورہ رسول اسلام کا علی گوارہ ہوا اور اہل عالم کے لئے اسلامی سلوک و اعمال کی اساس رکھی گئی، عالمی معاہدوں کے اصول طے ہوئے۔ اسلامی سوسائٹی محکم ہو کر آگے آئی اور اسلامی اصولوں کی علی درس گاہ کھلی۔ لوگوں کو علی اور علی طور سے معلوم ہوا کہ اسلام ہی وہ واحد راہ ہے کہ اہل عالم کے سارے دکھوں کا مداوا ہے۔ اسلام ہی سے اہل عالم کی اصلاح کا مڈعا حاصل ہو گا۔

مکہ مکرمہ کے محصور مسلمانوں کا حال

معاہدہ منحلج کا اک امر سارے امور سے بڑا مسلمانوں کو گراں معلوم ہوا کہ اگر کوئی مسلم کتے سے راہی ہو کر معمورہ رسول آئے گا وہ معاہدے کی رُوسے کتے والوں کے حوالے ہو گا اور اگر معمورہ رسول کا کوئی آدمی مکہ مکرمہ آئے گا، وہ کتے والوں کا محصور ہو کر وہاں رہے گا۔ اس امر سے سارے اہل اسلام کو احساس ہوا کہ وہ اک رسوائی کا معاملہ ہے۔ مگر اللہ کے حکم سے اس طرح کے احوال آگے آئے کہ معاہدے کا وہی امر کتے والوں کے لئے اک دردِ سر ہو کر رہا اور مالِ کار وہ اس امر سے اس طرح مرگراں ہوئے کہ رسول اکرم سے دعا گو ہوئے کہ معاہدے

سے اس امر کو مخبر کر دو۔ اس معاملے کا مکمل حال اس طرح ہے کہ مکہ مکرمہ کے وہ مسلم کہ مکے والوں کے محصور ہو کر طوعاً و کرہاً مکہ مکرمہ ہی رہ گئے۔ مکے والوں کے سلوک سے کمال سرگراں ہوئے اور ساعی رہے کہ کسی طرح وہاں سے رہا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوں۔ معاہدہ صلح سے ادھر کئی مسلم مکہ مکرمہ سے رہا ہو کر معمورہ رسول آ گئے۔ اسی لئے مکہ والوں کا اصرار ہوا کہ معاہدہ صلح سے وہ امر طے ہو کہ مکے کا کوئی مسلم اگر معمورہ رسول آئے گا، مکے والوں کے حوالے ہو گا۔ مکے والوں کا اس امر سے متعارف ہا کہ اس طرح مکے کے مسلمانوں کے لئے معمورہ رسول کی راہ مسدود ہوگی۔ مگر اللہ کا حکم دوسری ہی طرح ہوا۔

مکے کے اک مسلم کسی طرح وہاں سے رہا ہوئے اور معمورہ رسول کے لئے راہی ہوئے۔ مکے والوں کو اس کی اطلاع ملی۔ اولاد عامر کے اک آدمی کو رسول اللہ کے لئے اک مراسلہ دے کر کہا کہ معمورہ رسول رواں ہو اور وہ مراسلہ رسول اکرم کو دو اور کہو کہ مکے کے اُس مسلم کو معاہدے کی دوسے ہمارے حوالے کر دو اور اُس مسلم کو وہاں سے محصور کر کے لے آؤ۔

اولاد عامر کا وہ آدمی اک اور آدمی کو ہمراہ لے کر معمورہ رسول کے لئے راہی ہوا۔ ادھر وہ مسلم معمورہ رسول آئے اور ادھر ہر دو عامری رسول اکرم سے ملے اور مراسلہ دے کر کہا کہ اس مسلم کو ہمارے حوالے کر دو۔ اُس ہمد رسول کو حکم ہوا کہ مکے والوں سے ہمارا معاہدہ ہے۔ اس لئے اس عامری آدمی کے ہمراہ مکہ مکرمہ لوٹو۔ وہ ہمد رسول آگے آئے اور کہا کہ اے رسول اللہ! مکے والوں کا مدعا

۱؎ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ -

۲؎ بنی عامر کے دو آدمی اُن کے پیچھے دوڑائے گئے ۔

ہے کہ وہ اس ہمد کو اسلام کی راہ سے ہٹا کر لاعلمی اور گمراہی کی راہ لگا کر مسرور ہوں۔ وہ طرح طرح کے دُکھ اور آلام دے کر مسرور ہوں گے۔ اس لئے ہم کو مکتے والوں کے دُکھ سے رہائی دلاؤ۔ مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہمد رسول سے ہم کلام ہوئے اور کہا کہ حلیم سے کام لو۔ اُس ہے کہ اللہ رہائی کی کوئی راہ عطا کرے گا۔ اس لئے مکتے والوں کے ہمراہ سوئے مکہ لوٹ کر اللہ کی مدد کی اُس رکھو۔

مکتے کے ہر دو آدمی اُس ہمد رسول کو لے کر سوئے مکہ راہی ہوئے۔ راہ کے اک مرحلے اُکڑ کے کہ وہاں اک عرصہ آرام کر کے آگے رواں ہوں۔ وہ ہمد رسول ہر دو کے ہمراہ وہاں اُکڑ کے رہے اور ہر دو سے ادھر ادھر کا کلام کر کے سامعی ہوئے کہ کسی طرح اُس عامری کا اسلحہ حاصل کر کے اُس کے لئے حملہ آور ہوں۔ اُس سے کہا۔

اے عامری! وہ حسام اک عمدہ حسام ہے کہاں سے ملی؟
کہا کہ ہاں! واللہ کمال کی حسام ہے اور اس سے کئی مہمتوں کو سر کر کے لوٹا ہوں۔ ہمد رسول اُٹھے اور کہا کہ دکھاؤ کس طرح کی ہے؟ اس طرح وہ اُس حسام کے مالک ہوئے اور معاوار کر کے اس کو مار ڈالا۔

دوسرا آدمی ڈر کر وہاں سے سوئے معمورہ رسول لوٹا اور رسول اللہ سے اُکڑ سا درحال کہا اور کہا کہ مرا ہمراہی ہلاک ہوا اور ہم کو ڈر ہے کہ اُس کے حملے سے ہلاک ہوں گے۔

وہ ہمد رسول آگے آئے اور کہا کہ اے رسول اللہ! اللہ کا رسول معاہدے

کا مامور رہا۔ مگر اللہ کی مدد سے رہا ہوا ہوں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اُٹھے اور کہا کہ

”کمال لڑائی والا آدمی ہے اگر لوگ اس کے ہمراہ ہوں۔“

رسول اکرم کے اس کلام سے اُس ہمدیم رسول کو محسوس ہوا کہ اگر وہ معمورہ

رسول رہا، لامحالہ مکے والوں کے حوالے ہو گا۔ اس لئے وہ وہاں سے اُسی دم

راہی ہوئے اور معمورہ رسول سے دُوراں ساحلی گاؤں آکر ٹھہر گئے۔ مکے والوں کے

سادے کارواں اُسی راہ سے دوسرے ممالک کے لئے راہی ہوئے۔

ادھر مکہ مکرمہ کے دوسرے مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ وہ ہمدیم رسول ساحلی گاؤں

آکر ٹھہرا ہوا ہے۔ مکے کے مسلمانوں کو حوصلہ ملا اور وہ ساعی رہے کہ کسی طرح مکہ مکرمہ

سے راہی ہو کر اُس ہمدیم رسول کے ہمراہ ہوں۔ ولید عرق کے لڑکے کو سارا حال

معلوم ہوا۔ وہ والد کے گھر سے کسی طرح رہائی حاصل کر کے اُس ساحلی گاؤں

آگئے اور اُس ہمدیم رسول سے ملے۔ اس طرح اک اک کر کے مکے کے مسلمان اُس

ساحلی گاؤں آئے اور اس طرح مکے کے مسلمانوں کا اک گروہ وہاں اکٹھا ہوا۔ علماء

سے مروی ہے کہ اس گروہ کا عدد ساٹھ اور دس رہا۔

وہ سڑک کے مکے والوں کے کارواں وہاں سے ہو کر دوسرے ممالک کے لئے

راہی ہوئے۔ اس گروہ کے حلوں کا گھوارہ ہو گئی۔ مکے والوں کے کئی مالی کارواں

اس گروہ کے حلوں سے ٹوٹے گئے اور وہ اموال سے محروم ہو کر اور رسوا ہو کر

۱؎ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ! آپ نے اپنا عہد پورا کر دیا کہ مجھے مکے

والوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اب اللہ نے میری مدد کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں مکہ مکرمہ واپس گیا

تو یہ مجھے اسلام سے پھیر دیں گے۔ میں نے جو کچھ کیا اس لئے کیا کہ ان سے میرا کوئی معاہدہ نہیں۔ آپ

نے فرمایا کہ بڑا ہی لڑائی کا سحر کانے والا ہے مگر کوئی اس کا سامنی ہو (سیرت مطہرہ ج ۲۰ ص ۷۰۷)

۲؎ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :

سوئے مکہ لوٹے۔ اس سارے حال سے بچنے والے گراں حال ہوئے اور مسلمانوں کا وہ گمراہ بننے والوں کے لئے دیرِ دیر ہوا۔ اس لئے طوعاً و کرہاً سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا کہ اللہ کے واسطے مسلمانوں کے اُس گمراہ کو حکم دو کہ وہ وہاں سے معمورہ رسول لوٹے۔ ہم معاہدے کے اُس امر سے الگ ہوئے کہ اگر بچے گا کوئی مسلم معمورہ رسول آئے وہ وہاں ہی رہے۔ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم و سلم کا مراسلہ لے کر اک دلدادہ رسول اُس ساحلی گاؤں گئے۔ معلوم ہوا کہ اُس ہمدرد رسول کا لمحہ وصال ہے۔ مراسلہ لے کر اور اُس کا مطالعہ کر کے وہ ہمدرد رسول، اللہ کے گھر کو سدھار لئے۔ ولیدِ عمرو کے لڑکے سارے مسلمانوں کو ہمراہ لے کر معمورہ رسول آ گئے۔

اس طرح معاہدہ صلح کا وہ امر کہ اُس سے اہل اسلام کو ملال رہا، اللہ کے حکم سے اس طرح محو ہو کر رہا۔



لے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مراسلہ اُس وقت ملا جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ مکتوبِ نبوی کو پڑھتے جاتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ اسی ماں میں روح نکل گئی۔

ملوکِ عالم کو رسول اللہ کے مُراسلے

کلامِ الہی کا وہ وعدہ کہ معاہدہ صلح اہل اسلام کی کھلی کامنگاری ہے کھل کر اہل عالم کے آگے آکر نکل ہوا۔ معاہدہ صلح سے ادھر کا سارا عرصہ سرورِ عالم صلی اللہ علیٰ رسولہ وسلم مہتوں اور معرکوں کے اُتار سے گھرے رہے۔ معاہدہ صلح سے معرکوں کے اُتار سے رہائی ملی۔ اس لئے اللہ کے رسول کا ارادہ ہوا کہ اہل عالم کو اسلام کے لئے ہدائے عام دے کر اللہ کے حکم کے عامل ہوں۔

سارے ہمدیوں اور مددگاروں کو اکٹھا کر کے کہا کہ ”اے لوگو! سارے عالم کے لئے رسولِ رحم و کرم ہو کے اتر رہا ہوں، سارے عالم کو اللہ کا وہ حکم دے دو۔“

اور کہا کہ ہماری رائے ہے کہ حکامِ عالم کو مراسلے ارسال ہوں کہ دوسرے ممالک کے لوگ اسلام سے آگاہ ہوں اور وہاں کے لوگ لاعلمی اور گمراہی سے دور ہوں۔

اس کام کے لئے کئی ہمدیوں اور مددگاروں کی رائے ہوئی کہ ملوکِ عالم کے مُراسلوں کے لئے رسول اللہ کی اک مہر ہو کہ اس سے سارے مُراسلے مہر کر کے ارسال ہوں۔ اس طرح مسلمانوں کی رائے سے اک مہر لکھوائی گئی وہ مہر اس طرح

لے صحابہ کرام نے آنحضرتؐ کو مشورہ دیا کہ عام طور پر بادشاہ مہر کے بغیر خطوط کو قابلِ اعتناء نہیں سمجھتے۔ اس لئے اک مہر بتوایا جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اک مہر کندہ کروائی جس پر محمد رسول اللہ اس طرح لکھا ہوا تھا کہ محمد سب سے نیچے رسول درمیان میں اور اللہ سب سے اوپر لکھا ہوا تھا۔



کی کھوائی گئی۔

اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراسلوں کو لے کر دُور دُور اور
اندگرد کے ممالک کو راہی ہوئے۔ رسول اللہ کے ہندم عمرو اک مراسلہ لے کر حاکم
امحمہ کے ملک گئے اُس کا مکمل حال آگے مسطور ہے۔ دوسرا مراسلہ حاکم روم
کو لکھا اور رسول اللہ کے مددگار تھی مراسلہ سوم لے کر کسریٰ کے ملک گئے۔ اسی
طرح اک مراسلہ حاکم مصر کو ارسال ہوا۔ اس کے علاوہ دوسرے ولدا الاسدی اور
ولید عمر دوسرے دو حاکموں کے لئے لے کر راہی ہوئے۔

حاکم روم کے لئے رسول اللہ کا مراسلہ

سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اک ولدا رسول اللہ کا مراسلہ لے کر
ملک روم کے لئے راہی ہوئے۔ راہ کے سارے مراحل طے کر کے وہ معاہدہ صلح
کے اگلے سال ماہ محرم کو ملک روم آئے۔ وہاں آکر معلوم ہوا کہ حاکم روم محض
سے راہ روی کر کے ”دارالمطہر“ کے لئے راہی ہوا ہے کہ وہاں آکر اُس کا نگہاری
کے لئے اللہ کی حمد کرے کہ اُس کو کسریٰ کے معرکے سے حاصل ہوئی۔ ولدا رسول
اللہ کا ”دارالمطہر“ کے لئے راہی ہوئے اور وہاں آکر سعی کر کے حاکم روم کے

۱۔ حضرت عمرو بن امیہ غفیری رضی اللہ عنہ حبش کے بادشاہ بنجاشی کے پاس گئے۔ بنجاشی کا اصل نام امحمہ
تھا۔ ۲۔ روم کا بادشاہ ہرقل ۳۔ حضرت شجاع بن وہب الاسدی رضی اللہ عنہ حاکم خنان کے پاس
مراسلہ لے کر گئے۔ ۴۔ سلیط بن عمرو حاکم یمامہ کے پاس خط لے کر گئے (حوالہ بالا)
۵۔ حضرت دیمہ کلبی رضی اللہ عنہ ۶۔ ہرقل روم اُس وقت فتح مندی کے شکرانے
کے لئے محض سے پیدل چل کر بیت المقدس گیا ہوا تھا۔ (سیرت مصطفیٰ ص ۱۱ ج ۲) ❖

لئے رسائی حاصل کی۔ حاکم روم کے محل آکر اُس سے ملے اور اُس سے اس طرح ہم کلام ہوئے۔

» اے حاکم روم! وہ آدمی کہ اُس کے حکم سے مراسلہ لے کر وارد ہوا ہوں حاکم روم سے اعلیٰ ہے اور وہ اللہ کہ اُس کے حکم سے وہ رسول وارد ہوا، سارے ہی اہل عالم سے اعلیٰ و مکرم ہے۔ حاکم روم کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول ”روح اللہ“ عماد اسلام کے عادی رہے؟ کہا ہاں! کہا کہ اے حاکم! اُسی اللہ کی راہ کا دوسرا اسم اسلام ہے کہ اُس کے لئے روح اللہ سدا حمد و دعا کر کے مسرور ہوئے اور اُسی اللہ کا ارسال کردہ وہ رسول امم ہے کہ اُس کا مراسلہ لے کر اس مسرور ہوا ہوں۔ اے حاکم وہ رسول وہی رسول اُمی ہے کہ اُس کے لئے اللہ کے رسول نبوی اور اللہ کے کلمے ”روح اللہ“ کو وحی سے اطلاع دی گئی۔ اگر اس رسول کے حکم کے عامل ہوں گے، اس عالم مادی اور اُس عالم سرمدی ہر دو کے مالک ہوں گے اور اگر اُس حکم الہی سے روگرداں ہوئے، عالم سرمدی سے محروم ہوں گے اور عالم مادی کے دوسرے لوگ حصہ دار ہوں گے اور معلوم رہے کہ سارے لوگوں کا اک مالک ہے۔

حاکم روم کے دل کو اس کلام سے اک ہنول سا محسوس ہوا اور کہا کہ وہ مراسلہ ہم کو دو۔ مراسلہ لے کر اُس کا مطالعہ کر کے کہا کہ کل آکر ہم سے ملو۔ اس کا عندگی سے مطالعہ کر کے اور لوگوں کی رائے لے کر اک مراسلہ نکھوں گا۔ حاکم روم کے لئے رسول اللہ کے مراسلے کا ماحصل اس طرح ہے۔

۱۔ بیت المقدس میں ہرقل کے سامنے حضرت دجیہ کلبی نے ایک تقریر کی۔ اُس کا خلاصہ غیر منقوٹ اردو میں دیا گیا ہے۔ (سیرت مصلیٰ ج ۲)۔ ۲۔ ”روح اللہ“ حضرت عیسیٰؑ کا لقب۔ ۳۔ مکتوب نبوتی کا یہ مضمون سیرت مصلیٰ میں صحیح بخاری اور فتح الباری کے حوالے سے دیا گیا ہے۔

”اللہ کے ملوک اور رسول محمد سے حاکم روم ہر کوں کے لئے۔ سلام ہو اُس کے لئے کہ وہ راہِ ہدٰی کا راہروں سوا اُسے حاکم روم اور کلمہ لے کر وارد ہوا ہوں کہ اللہ کی راہ، اسلام کا کلمہ ہے، اُس لئے اسلام لے آؤ۔ سلیم رہو گے اور اللہ دوہرا اکرام عطا کرے گا کہ اللہ کا وعدہ اسی طرح ہے اور اگر اسلام سے روگرداں ہو گے، سارے لوگوں کی گمراہی کا گھڑا اٹھاؤ گے اور اے اہلِ وحی! اُس کلمے کی راہ آؤ کہ وہ کلمہ ہمارے اور اہلِ وحی کے لئے مساوی ہے کہ ہم اس امر سے دور ہوں کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی مالک و مولیٰ ہو اور اُس کا کوئی ہمسر و حصّہ دار ہو۔ سو اگر وہ اسلام سے روگرداں ہوں۔ کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم مسلم ہوئے“ ۱

حاکم روم اس مراسلے کو مطالعہ کر کے لوٹا اور لوگوں کو حکم ہوا کہ اگر نیکے کے کوئی لوگ ہمارے ملک آئے ہوں، ہمارے آگے لاؤ کہ لوگوں سے اس رسول کے احوال معلوم کروں۔ سرورِ مکتبہ اُس ماہ اک مالی کارواں کے ہمراہ اُس ملک کے

۱۔ آنحضرت کے اس مراسلے کا متن یہ ہے ”بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ۔ الیٰ ہرقل عظیم الروم۔ سلام علی من اتبع الهدی۔ اما بعد فانّی ادعولک بدعاۃ الاسلام۔ اسلم تسلّم یوتاک اللہ اجرک مرتین فان تویلت فان علیک اثم البریین ویا اهل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سوا عیننا و بینکم ان لا نعبد الا اللہ ولا نشعل بہ شیانہ ولا یتخذ بعضنا بعضا ارباباً من دون اللہ فان تولو فقلوا اشهد باننا مسلمون“
زیخ ہے۔ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے روم کے عظیم بزرگ کے نام، جو ہدایت کا اتباع کرے اُس پر سلام ہو۔ اما بعد انیں سمجھ کو اس کلمے کی طرف بلاتا ہوں جو اسلام کی طرف بلانے والا ہے۔ اسلام لے آ، سالم رہے گا۔ اللہ دوہرا اجر عطا کرے گا اور اگر تو نے روگردانی کی تو ساری رعایا کا گناہ بھری ہوگا اور اے اہل کتاب! بات کی طرف آؤ جو ہمارا اور تمہارا مسلم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اللہ کو کسی کو شریک نہ گزرائیں اور اللہ کے سوا ایک دوسرے کو اپنا رب اور معبود نہ بنائیں پس اگر وہ نہ بھریں تو کہہ لیجئے کہ تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہو چکے۔ (تیسری صفحہ ص ۲۷) ۱ ابو سفیان

اک سفر کر رہا۔ لوگ اُس کو لے کر حاکم روم کے آگے لائے۔ وہ مکے کے اہل کارداں کے ہمراہ حاکم روم کے آگے اکھڑا ہوا۔

حاکم روم کا حکم ہوا کہ وہ آدمی آگے آئے کہ رسولِ مکی کے اُسے سے ہو اور دوسرے لوگوں سے کہا کہ اگر وہ کوئی اولادہ کام کرے اُس سے ہم کو مطلع کرو۔ اس طرح حاکم روم کا اک مکالمہ سردارِ مکہ سے ہوا اور طرح طرح کے سوال ہوئے۔ سارے احوال معلوم کر کے کہا کہ واللہ! ہم ساروں کو معلوم ہوا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ اللہ کے سارے رسول اسی طرح کے احوال کے حامل ہوئے۔

حاکم روم سارے حکام کے آگے آکر ہم کلام ہوا اور کہا کہ اے لوگو! ہم کو معلوم رہا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اک رسول لامحالہ آئے گا مگر مرا احساس رہا کہ وہ کسی اور ملک اور گروہ سے ہوگا۔ سارے احوال سے معلوم ہوا کہ وہ اللہ کا وہی رسول ہے اور گواہ رہو کہ وہ ہمارے اس ملک کا مالک ہوگا۔ دل کی اک عرصے سے مراد یہی کہ اُس رسول سے ملوں اور اُس کا کمال اکرام کروں۔ حاکم روم اس کلام کو کر کے مراسلہ رسول کا اکرام کر کے آگے ہوا اور رسول اکرم کا مراسلہ سارے لوگوں کے آگے کیا۔

روم کے سارے حکام اور رؤسا اس کلام سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور سارا محل لوگوں کی صداؤں سے معمور ہوا۔

حاکم روم کا ارادہ ہوا کہ وہ وہاں کے اک عالم سے اس امر کے لئے رائے لے۔ اُس کو سارا حال لکھا۔ اس عالم کے مراسلے سے حاکم روم کو معلوم ہوا کہ

لے امامِ زہری سے روایت ہے کہ اس عالم کا نام ضفاطر تھا۔ ہر تیل لے اُن کو خط لکھا۔

”وہ اللہ کا رسول وہی ہے کہ اُس کے لئے ”روح اللہ“ رسول کو وحی کی گئی اور اک عرصہ سے ہم اُس کے لئے دُعا گو رہے۔ ہم اُس رسول کے حکم سے اسلام لائے اور اُس کے لئے ہوئے احکام کے حامل ہوں گے“

حاکم روم کو وہ مراسلہ ملا۔ سارے حکام کو اکٹھا کر کے کہا کہ ”اے گروہ روم! اکہم اطلاع کے لئے اکٹھے کئے گئے ہو۔ ہم کو اُس آدمی کا مراسلہ ملا ہے اور ہم سے کہا ہے کہ ہم اللہ کی راہ اسلام کے حامل ہوں اور گواہ رہو کہ اللہ وہ آدمی وہی رسول ہے کہ ہم اہل وحی کو اُس کی آمد کی آس لگی رہی اور ہم کو اُس کا حال اللہ کی وحی کے واسطے سے معلوم ہوا۔ سو آؤ اور دوڑو کہ ہم سارے مل کر اسلام کے حامی ہوں اور ہم کو ہر دو عالم کی کامگاری ملے۔“

اس کلام سے سارے حکام اور روم سائے روم سوئے در دوڑے۔ مگر محل کے سارے درسدود ملے۔ حاکم روم کا حکم ہوا کہ لوگو لوٹ آؤ۔ وہ سارے لوگ لوٹ کر آئے۔ کہا کہ اس کلام سے ہمارا مدعا باہا کہ ہم کو معلوم ہو کہ روم کے لوگ اللہ کے مسلک کے کس حد حامی رہے اور مددگار رہے۔ اس طرح لوگوں کے ڈر سے حاکم روم راہِ ہدٰی سے محروم رہا۔

علماء سے مروی ہے کہ حاکم روم سارے لوگوں سے الگ ہو کر دلدادہ رسول سے ملا اور کہا۔ واللہ! ہم کو معلوم ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) وہی رسول موعود ہے کہ اُس کے احوال ہم کو اللہ کی وحی کے واسطے سے معلوم ہوئے مگر

ملہ ہرقل نے محل کے دروازے بند کر کے دریا میں یہ تقریر کی۔ (حوالہ بالا) ❦

ڈرے ہے کہ اگر اسلام لاؤں گا۔ روم کے لوگ ہم کو ہلاک کر کے مسرور ہوں گے۔
اس لئے ہماری رائے ہے کہ ہمارے اُس عالم سے یلو اور اُس سے رسول موعود
کا سارا حال کہو۔ وہ علومِ الہی کا ماہر ہے۔

دلدادہ رسول وہاں سے رہا ہی ہو کہ اُس عالمِ وحی سے ملے اور اہل روم
کو اکٹھا کر کے کہا کہ اے گروہِ روم! احمد مرسل کا اک مراسلہ ملا ہے اور کہا
ہے کہ اللہ کی راہ لگو، سو لوگو! گواہ رہو کہ ”اللہ واحد ہے اور احمد اللہ کا ملوک
اور رسول ہے۔“ اس کلام سے سارے لوگ مل کر اُس عالم کے لئے حملہ آور ہوئے
اور وہ اسلام لاکر اسی دم ہلاک ہوا۔^۱

کسریٰ کے لئے رسول اللہ کا مراسلہ

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اک دلدادہ ستمی سرورِ عالم کا مراسلہ لے کر
کسریٰ کے ملک گئے کسریٰ اس طرح کا حاکم رہا کہ ساری عمر ملک و مال کی ہوس
کا دلدادہ رہا اور ملک و مال کی اکثر سے اُس کا دل سدا روگی رہا۔ دلدادہ رسول
کمال سعی کر کے اُس کے ملک آئے اور اُس کے محل کی رسائی کے لئے اک
عرصہ ساعی رہے۔ مال کا در رسائی حاصل ہوئی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وہم کا مراسلہ لے کر اُس کے محل آئے اور مراسلہ دے کر الگ ہوئے۔

مراسلہ رسول کا مطالعہ کر کے اُس مردود کا دل ہوس اور حسد سے معمور ہوا
اور کہا کہ اس آدمی کو کس طرح اس امر کا حوصلہ ہوا کہ وہ ہم سے کہے کہ اُس کو اللہ

۱۔ یہ ساری تفصیل فتح الباری، البدایہ والنہایہ اور تاریخ طبری کے حوالے سے سیرتِ معصیٰ

میں منقول ہے۔ (سیرتِ معصیٰ ص ۱۶ ج ۲) ❖

کارِ رسول کہہ کر اسلام لاؤں۔ مراسلہ رسول کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دلدادہ رسول کے آگے ڈال کر کھڑا ہوا اور ہمسائے ملک کے اکٹھے والی کو مراسلہ لکھ کر حکم ہوا کہ دو حوصلہ و آدمی معمورہ رسول رواں ہو کر اور اُس آدمی کو محصور کر کے ہمارے آگے لاؤ۔

دلدادہ رسول سہمی کسریٰ کے ملک سے لوٹ کر معمورہ رسول آئے اور سردارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر کسریٰ کا سارا حال کیا۔ رسول اکرمؐ کا کلام ہوا اور کہا کہ

”کسریٰ کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہوا۔“

ادھر والی کسریٰ کے حکم سے دو آدمی اُس والی کا اک مراسلہ لے کر معمورہ رسول آئے۔ اُس لمحے کہ وہ ہر دو آدمی رسول اللہ کے آگے آئے۔ اللہ کے حکم سے ہر دو کے دل رسول اللہ کے ڈر سے معمور ہوئے اور ہر دو کو سردی سی محسوس ہوئی اور حد سے سوا ہول اور ڈر محسوس ہوا۔ رسول اللہ کو مراسلہ دے کر کھڑے ہوئے۔ رسول اکرمؐ صلی اللہ علیہ وسلم مراسلے کے حاصل سے مطلع ہو کر مسکرائے اور ہر دو لوگوں کو اسلام کی راہ دکھائی اور کہا کہ کل آکر ہم سے ملو۔ وہ ہر دو آدمی اگلی سحر کو رسول اللہ کے آگے آئے۔ ہادی کا مل صلی اللہ علیہ وسلم ہر دو سے ملے اور اطلاع دی کہ

”کسریٰ کے لڑکے کی کا دروازی سے کسریٰ ہلاک ہوا اور اُس کا لڑکا کسریٰ کے ملک کا حاکم ہوا۔“

۱۔ یمن کے گود نر باذان کو لکھا کہ دو قوی آدمی بھیج کر اُس شخص کو گرفتار کر کے لاؤ (سیرت مصطفیٰ ص ۱۳۲) بولالہ زرقانی، والبدایہ والنہایہ۔ ۲۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ آج رات ملاں وقت پر اللہ تعالیٰ نے کسریٰ پر اُس کے بیٹے شیردہ کو سقط کر دیا اور شیردہ نے کسریٰ کو قتل کر ڈالا۔ یہ رات دس جہادی الاولیاءؓ کا مشکل کی رات تھی۔ (سیرت مصطفیٰ ص ۱۳۲ ج ۲) ✽

ہر دو کو رسول اللہ کا حکم ہوا کہ والی کے ملک لوٹ کر والی سے کہو کہ ہمارے ملک کی حدود کسری کے ملک کی حدود سے سوا ہوں گی۔ اس لئے اسلام لے آؤ۔ کسری کے لئے رسول اللہ کے مراسلے کا حاصل اس طرح مروی ہے۔

» اللہ کے اسم سے کہ عام رحم والا، کمال رحم والا ہے۔ محمد رسول اللہ سے کسری حاکم کے لئے۔ سلام ہو ہر اُس آدمی کے لئے کہ راہ ہدیٰ کا راہرو ہوا اور اللہ اور اُس کے رسول کا گواہ ہوا اور گواہی دے کہ اللہ واحد ہے اور ہر کوئی اس کی ہمسری سے عادی ہے اور گواہ (ہو) کہ محمد اللہ کا مملوک اور اس کا رسول ہے۔ اللہ کے حکم سے مامور ہوا ہوں کہ حاکم سے کہہ دوں کہ سارے عالم والوں کے لئے اللہ کا رسول ہوں اور ہر اُس آدمی کو ڈرائیں کہ اُس کا دل دھڑک رہا ہے۔ اس طرح اللہ کا حکم گمراہوں کے لئے کامل ہو۔ سو اسلام لے آسالم رہے گا اور اگر رُوگرداں ہو گا سارے گمراہوں کے اعمال کے لئے مسئول ہو گا۔«

حاکمِ اچھے کے لئے رسول اللہ کا مراسلہ

اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مراسلہ ہمسائے ملک کے حاکمِ اچھے کے لئے ارسال ہوا۔ دلدادہ رسول ﷺ کو حکم ہوا کہ وہ اس مراسلے کو لے کر راہی ہو۔ عمرو راہ کے مراحل طے کر کے اُس حاکم کے ملک آئے۔ اُس حاکم سے عمرو طے

لے اس خط کا عربی متن طوالت کی وجہ سے نہیں دیا گیا۔ اظہار اللہ غیر منقوط اردو ترجمہ پورے خط کے مضمون کا پوری طرح عکاس ہے۔ سیرت مصطفیٰ ص ۱۱۰۔ یحییٰ بن خثیمہ، بادشاہ ہش سالہ حضرت عمرو بن امیہ غمری رضی اللہ عنہ ۶۰

اور کما کہ رسولِ اُمّ کے حکم سے رسول اللہؐ کا مراسلہ لے کر وارد ہوا ہوں۔ ہم کو حاکم سے اُس ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا عامل ہو گا۔ اہل اسلام سے اس حاکم کا سدا عمدہ سلوک رہا۔ ”روح اللہ“ کا کلام وحی ہمارے اور حاکم کے لئے عادل گواہ ہے۔ اور اُس کی گواہی ہر طرح محکم ہے۔ اگر رسول اکرمؐ کی اس صلا نے عام سے دُور گراں ہوئے۔ حاکم کا حال رسول اللہ کے لئے اسی طرح کا ہو گا کہ اسرائیلی لوگوں کا روح اللہ کے لئے ہوا۔ اس لئے اے حاکم! ہم کو سارے لوگوں سے سوا اس حاکم سے اُس ہے۔

دلدادہ رسول آگے آئے اور حاکمِ اصحمتہ کو مراسلہ دے کر الگ کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ کے اُس مراسلے کا ماحصل اس طرح علامہ سے مروی ہے۔

”اللہ کے اسم سے کہ عام رحم والا کمال رحم والا ہے۔ اللہ کے رسول محمدؐ سے حاکمِ اصحمتہ کے لئے۔ حاکم کو سلام ہو۔ سو حمد گو ہوں اس اللہ کے لئے کہ واحد ہے اور ہر کوئی اس کی ہمسری سے عاری ہے۔ اہلی عالم وہی ہے اور وہ ہر کسی سے عاری ہے۔ سارے لوگوں کا رکھوالا ہے اور سلام والا ہے۔ گواہ ہوں کہ اللہ کا رسول ”روح اللہ“ اللہ کا کلمہ ہے کہ وہ اُس کی ماں کو اللہ کے حکم سے عطا ہوا اور وہ روح اللہ سے حاملہ ہوئی۔ اللہ کے ارادے سے وہ اللہ کی روح سے مولود ہوا۔ اسی طرح کہ اللہ کے رسولِ اولِ آدم اُسی کے حکم سے مولود ہوئے (اللہ کے دو ہی رسول اس طرح مولود ہوئے کہ والد کے واسطے سے انگ رہے۔ روح اللہ اور رسولِ اولِ آدم) اُس اللہ کی راہ کے لئے صدا دے رہا ہوں کہ وہ واحد ہے اور ہر کوئی اس کی ہمسری سے عاری ہے اور صدا دے رہا ہوں کہ اُس کے حکم کے عامل ہو رہا اور

اُس کے رسول کے حکم کے عامل ہو اور اُس کلام کے لئے کہ اللہ کے حکم سے ہم کو وحی ہوا ہے اس کو دل سے لگاؤ گواہ رہو کہ اللہ کا رسول ہوں اور حاکم کو اور اُس کے سارے عساکر کو اللہ کی راہ کے لئے صدا دے رہا ہوں۔

گواہ رہو کہ اللہ کا حکم حاکم کو رہا ہوا اور ہماری عمدہ صلاح حاکم کو مل گئی۔ سو اس صلاح کو وصول کر کے دل سے لگا لو۔ سلام ہو اُس کے لئے کہ وہ راہِ ہدیٰ کا راہرو ہوا۔

حاکم اٹھ مرسلے کو لے کر کھڑا ہوا اور اُس کو اکرام سے سر سے لگا کر گری سے الگ ہوا اور کہا کہ اے دلدادہ رسول گواہ ہوا ہوں کہ رسول مکی اللہ کا وہی رسول اُمی ہے کہ اہل وحی کو صد ہا سال سے اُس کی آس رہی۔ اللہ کے رسول عیسیٰ سے لوگوں کو روح اللہ رسول کی آمد کی اطلاع ملی۔ اُسی طرح روح اللہ رسول سے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اطلاع لوگوں کو ملی۔ ہم کو علم ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ وہ حاکم اُسی لمحہ اسلام لا کر اللہ اور اُس کے رسول کا حامی ہوا۔ حاکم اٹھ مرسلے کا ارادہ ہوا کہ وہ رسول اللہ کے لئے اک مرسلہ لکھوائے۔ اس طرح رسول اللہ کے اس دلدادہ کو رسول اللہ کے لئے اک مرسلہ دے کر اور رسول اکرم کے لئے کئی اموال دے کر کہا کہ معمرہ رسول کے لئے راہی ہو۔

معلوم رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سارے دلدادہ کہ کئے والوں کے آلام کی دُور سے حاکم اٹھ کے ملک آکر رہے۔ اس سارا عرصہ اُسی ملک کے رہے۔ اس سال سارے لوگوں کو معلوم ہوا کہ کئے والے ہر معرکے سے ہوا ہو کر لوٹے اور معرکہ مسلح سے سدا سدا کے لئے کئے والوں کی حملہ آوری کا حوصلہ سرد ہوا۔ وہ سارے لوگ آمادہ ہوئے کہ اس ملک سے راہی ہو کر رسول اللہ

کے ہمراہی ہوں۔ دلدادہ رسول عمرو کے ہمراہ اس ملک سے راہی ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسرائیلی گروہ کے اُس مصر آکر ملے کہ وہ حکم جھانڈ کا مصر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اسرائیلی گروہ سے معرکہ اُڈائی کے لئے اہل اسلام کا اک عسکر لے کر آئے۔ اس معرکہ کا حال مراسلوں کے حال سے آگے مسطور ہوگا۔

حاکمِ مصر کے لئے رسول اللہ کا مراسلہ

اسی طرح اک اور دلدادہ رسول، حاکمِ مصر کے لئے رسول اللہ کا اک مراسلہ لے کر مصر کے لئے راہی ہوئے۔

ملکِ مصر اگر معلوم ہوا کہ حاکم اک دوسرے مصر آکر ٹھہرا ہوا ہے۔ وہ دلدادہ رسول اُس مصر کے لئے راہی ہوئے اور وہاں آکر اُس کے محل کے آگے اکھڑے ہوئے۔ حاکمِ مصر محل کی کھڑکی کے آگے کھڑا ہوا۔ دلدادہ رسول آگے آئے اور مراسلہ دکھا کر کہا کہ وہ مراسلہ اُس حاکم کے لئے ہے۔ حاکم کا حکم ہوا کہ اُس آدمی کو لے آؤ۔ اس طرح وہ دلدادہ رسول حاکمِ مصر کے آگے آئے اور رسول اللہ کا مراسلہ دے کر کہا کہ اللہ کے رسول کا مراسلہ لے کر وارد ہوا ہوں۔ اس حاکم کا سلوک دلدادہ رسول سے کمال عہدگی کا ہوا اور دلدادہ رسول سے کہا کہ اک عرصہ

۱۰ حضرت عمرو بن امیہ غمری مہاجرین حبشہ کو ساتھ لے کر حبشہ سے پانی کے جہاز سے روانہ ہوئے۔ انہیں معلوم ہوا کہ آنحضرت غزوہ خیبر کے لئے خیبر میں تشریف فرما ہیں، چنانچہ سارے مہاجرین آنحضرت سے خیبر ہی میں آکر ملے۔ (امام السیر، تاریخ اسلام جلد اول)۔

۱۱ مقوقس حاکمِ مصر۔ ۱۲ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۱۳ اُس وقت مقوقس اسکندریہ میں مقیم تھا۔

ہمارے محلِ رُک کہ ہمارے دل کو مسرور کرو۔ رسولِ اکرمؐ کا مراسلہ کمالِ اکرام سے لے کر اُس کا مطالعہ کر کے مسرور ہوا۔ وہ دلدادہ رسولؐ اُس کے محلِ رُک کے رہے۔
 اک سحر کو اُس کے حکم سے مہر کے ہر کردہ لوگ اکٹھے ہو کر اُس کے محلِ آئے۔
 اور حاکمِ مہر کا حکم ہوا کہ دلدادہ رسولؐ کو سارے لوگوں سے ملاؤ۔ سارے لوگوں کے آگے حاکمِ مہر کا سوال ہوا کہ ”اے دلدادہ رسولؐ! وہ آدمی کہ اُس کا مراسلہ لے کر آئے ہو اللہ کا رسولؐ ہے؟ کہا۔ ہاں! واللہ وہ اللہ کا رسولؐ ہے۔ سوال ہوا کہ تکتے والوں کے آلام سے وہ کمالِ دُکھی ہوئے اور حرمِ مکہ سے دُور کئے گئے۔ اگر وہ اللہ کا رسولؐ ہے کس لئے اس امر سے عاری ہے کہ تکتے والوں کی ہلاکی کے لئے دُعا کر کے ساروں کو ہلاک کرے۔

دلدادہ رسولؐ آگے آئے اور کہا کہ اے اہلِ وحی! اس امر کے گواہ ہو کر ہو کہ ”روحِ اللہ“ اللہ کے رسولؐ ہو کر آئے؟ کہا۔ واللہ! ہم اس کے گواہ ہوئے کہ وہ اللہ کے رسولؐ ہو کر آئے۔ کہا کہ اسرائیلی لوگ آمادہ ہوئے کہ ”روحِ اللہ رسولؐ کو مٹوئی دے کر مسرور ہوں۔ کس لئے اس امر سے عاری رہے کہ اسرائیلی لوگوں کی ہلاکی کے لئے دُعا کر کے اس اَلَم سے رہا ہوں؟ حاکمِ مہر دلدادہ رسولؐ کے اس کلام سے مسرور ہوا اور کہا کہ واللہ حکمِ ولے ہو اور حکمِ ولے کے گھر آئے ہو۔ دلدادہ رسولؐ کھڑے ہوئے اور حاکمِ مہر سے ہم کلام ہو کے کہا۔

”حاکم کو معلوم ہے کہ اسی ملک کا اک آدمی صد ہا سال اُدھر دعوے دار ہوا کہ وہی لوگوں کا مالک و مولیٰ اور اللہ ہے۔ مگر وہ اللہ کے حکم سے ہلاک ہوا۔ اُس کے حال سے درس لو اور اُس سے ڈرو کہ دوسرے لوگوں کے لئے اک درس ہو کر رہو۔ اللہ کی دکھائی ہوئی راہِ اسلام

اہل وحی کی راہ سے نکل رہے ہیں۔ اسلام کے لئے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ سارے عالم کو حاوی ہوگا۔ واللہ! اللہ کے رسولؐ جی کی اطلاع ”روح اللہ“ کے لئے اسی طرح کی ہے کہ روح اللہ کی اطلاع محمدؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لئے ہر وہ رسولؐ کسی گروہ کے لئے آئے وہ گروہ مامور ہے کہ اس رسولؐ کے احکام کا عامل ہو اور اسے حاکم! اللہ کے رسولؐ کے ہم عصر ہو۔ اس لئے مامور ہو کہ رسولؐ اللہ کے حکم کے عامل ہو۔“

ولدادۃ رسولؐ کے اس کلام سے حاکم مہر کا دل مائل ہوا اور کہا کہ محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے احوال سے معلوم ہوا کہ وہ اللہ کا رسولؐ ہے۔ حاکم مہر کے لئے رسولؐ اللہ کا مراسلہ کلی طور سے وہی ہے کہ حاکم روم کے لئے رہا۔ سوائے اس کے کہ وہاں حاکم روم کا اسم رہا اور اس مراسلے کے لئے حاکم مہر کا اسم مسطور ہوا۔ اس لئے اگر کسی کا ارادہ ہو کہ وہ اس مراسلے کا مہصل معلوم کرے۔ حاکم روم کے مراسلے کا مطالعہ کرے۔

حاکم مہر ولدادۃ رسولؐ سے ملا اور کہا کہ ہمارا اک مراسلہ اللہ کے اس رسولؐ کے لئے لے کر رہی ہو اور ہمارے اموال سے اک حصہ ہمراہ لے کر اس کو دو۔ اس طرح حاکم مہر کا مراسلہ اور رسولؐ اللہ کے لئے اک مملوکہ اور اک دلدل لے کر سوئے معمورہ رسولؐ رہی ہوئے۔ ولدادۃ رسولؐ ہادی کامل سے آکر ملے اور سارا حال کہا۔ رسولؐ اکرمؐ اس مددگار سے ملے اور کہا کہ

لے بادشاہ مقوقس نے کچھ ہدیئے آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھیجے جن میں دو کنیزیں ایک دلدل اور دو سرا سامان تھا۔ حضرت مادیرہ قبیلہ جحلی اللہ عنہا ان دو کنیزوں میں سے ایک تھیں جو حضورؐ کے حرم میں آئیں۔ حضرت ابراہیمؑ ان ہی کے بطن سے پیدا ہوئے۔

”وہ حاکم ملک کی طرح کے لئے اسلام کی راہ سے الگ رہا اور وہ ملک اُس سے الگ ہو رہے گا۔“

اور اسی طرح ہوا کہ حاکم دوم ہند عمر کے عہد کے مسلم اُس ملک کے لئے مصلح اور ہوئے اور ملک مصر کے مالک ہوئے۔

ولدِ سادوی کے لئے رسول اللہ کا مراسلہ

رسول اکرم کے اک اور ولدِ دادہ علامہ رسول اللہ کے حکم سے مراسلہ لے کر اک ساحلی ملک گئے اور اُس کے حاکم سے آکر ملے اور رسول اکرم کا مراسلہ دے کر اُس سے ہمکلام ہوئے اور کہا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کا وہ رسول ہے کہ سارے عالم کے لئے وارد ہوا ہے اور وہ ہمارے لئے اللہ کے احکام حاصل کر کے ہماری اصلاح کے لئے ساعی ہے۔

اے حاکم آگ کس طرح لوگوں کی اللہ ہوگی۔ آگ کی راہ دھوکے کی راہ ہے اس مسلک کو وہ اکرام کہاں حاصل ہے کہ اسلام کو حاصل ہے۔ اے حاکم! اسی آگ کے مملوک ہو گئے ہو کہ وہ دوسرے عالم آکر اللہ کے اعداء کو کھائے گی۔ ہمارے رسول اللہ کے وہ احکام لائے کہ اُس کے عمل سے اس عالم مادی کی کامکاری ملے گی اور دارالسلام کا دائمی سرور حاصل ہوگا۔

اسی طرح ولدِ دادہ رسول سے اُس کو اسلام کے دوسرے اصول معلوم ہوئے اس کا دل مائل ہوا اور کہا کہ ہمارا مسلک آگ کا مسلک ہے۔ اس کے سارے اصول

۱۔ حضرت علامہ ابنِ حجر مزی (سیرت مصطفیٰ ص ۱۱۹ ج ۲) ۲۔ بحرین کے حاکم منذر بن سادوی (لیثاً)

۳۔ منذر بن سادوی مجوسی تھا۔ آتش پرست : (سیرت مصطفیٰ ص ۱۲۰ ج ۲) ۴۔

عالم مادی کے لئے رہے۔ دارالسلام اور دوسرے عالم کے لئے وہ بہر اصول سے محروم ہے، اس لئے اسے دلدادۂ رسول ہمارا دل اسلام کے لئے مائل ہے۔

وہ حاکم اسی دم اللہ کے کرم سے اسلام لاکر اللہ کی راہ لگا اور آگ سے اُس کو رہائی ملی اور سارے ملک والوں کو رسول اکرمؐ کے مراسلے سے آگاہ کر کے راہ اسلام کے لئے صدادی۔ اُس کے حکم سے وہاں کے کئی لوگ اسلام لائے۔ دلدادۂ رسول کو اک مراسلہ رسول اکرمؐ کے لئے دے کر اُس کو الوداع کہا۔ اُس کے مراسلے کا ماحصل اس طرح مروی ہے۔

”اے رسول اللہ! مراسلہ گرامی کے ماحصل سے اہل ملک آگاہ ہو گئے۔

کئی لوگ اسلام لائے اور کئی لوگ اسلام سے دُور رہے۔ ہمارا ملک

امپری لوگوں اور آگ کے مسک والوں کا ملک ہے اس معاملے

کے لئے حکم صادر کر کے ہم کو اُس سے آگاہ کرو۔“

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اُس کا مراسلہ ملا۔ اُس حاکم کے اسلام

سے رسول اللہ مسرور ہوئے اور اک مراسلہ لکھوا کر اُس ملک کے لوگوں کے لئے

اسی حاکم کو عامل کر کے کہا کہ ملک کے وہ لوگ کہ اسلام سے دُور رہے یا روں

سے کہہ دو کہ اسلام کا حصہ مال ادا کرو۔ اس کے علاوہ اور دوسرے احکامی

اصول اُس کو لکھے گئے۔

اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراسلے سے وہ حاکم صالح اسلام

لاکر اہل اسلام کا حامی ہوا۔ اور اسلامی علوم و احکام اُس ملک کے لوگوں کو معلوم ہوئے۔

لے منذر بن سادى نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خط لکھا اُس کا متن یہ ہے:-

امابعد۔ یا رسول اللہ! انی قرأت کتابک علی اهل بجرین فمنهم من احب الاسلام

ولعجبه دخل فیہ ومنهم من کراهه وبارضی یهود و مجوس فاحدث الح فی

ذلق امری۔ (حوالہ بالا) :-

اک ہمسائے ملک کے حاکم کو آلِ مکرم کا مراسلہ

ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کا اک اور مراسلہ رسول اللہ کے ہمدِ عمر و ولدِ عاقص لے کر اک ہمسائے ملک گئے۔ معلوم رہے کہ عمر و ولدِ عاقص وہی آدمی ہے کہ حاکم اچھمہ کے ملک آکر اُس سے پھر ہوا کہ اہل اسلام کو نئے والوں کے حوالے کر دو۔ اور وہاں سے طویل ہو کر لوٹا۔ اللہ کا کرم ہوا اور اسلام کے لئے دل مائل ہوا اور مکہ مکرمہ سے رہا ہی ہو کر معمورہ رسول آکر رسول اکرم سے ملا اور مسلم ہوا۔ رسول اکرم کے حکم سے وہی اس مراسلے کے حامل ہو کر اُس ملک گئے اور وہاں کے حاکم اور اُس کے اہم ولد سے مل کر کہا کہ اے حاکمو! اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس ملک کے لئے رہی ہوا ہوں اور مامور ہوا ہوں کہ رسول اللہ کا مراسلہ حاکم کو دوں اور اُس سے کہا کہ اے حاکم! گواہی دو کہ اللہ واحد ہے اور اس امر کی گواہی دو کہ محمد اللہ کا رسول ہے اور مٹی کے اللہوں سے الگ ہو رہا ہو۔ اسی طرح حاکم کے آگے اسلام کے اصول اور احکام رکھے۔ حاکم، رسول اللہ کا مراسلہ لے کر اسلام کے لئے مائل ہوا۔ عمر و ولدِ عاقص سے رسول اللہ کے احوال کے لئے طرح طرح کے سوال کئے۔ سارے احوال معلوم کر کے کہا کہ اسلام اک عہدِ مسلک ہے اور کہا کہ اے عمر! ہمارے ہاں اُس کے لئے ہوا کہ اہم ولد سے رائے لوں۔ اگلی سحر کو وہ حاکم مع اہم ولد کے ہمدِ رسول و ولدِ عاقص کے آگے ہوا۔ کہا کہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اسلام لا کر رسول اللہ کے حامی ہوں اور اُسی دم ہر دو آدمی اسلام لائے۔

لہ عثمان کے حاکم۔ جلندی کے دو بیٹوں عبدالرحیم و عبدالغنی کے نام رسول اکرم کا مکتوب حضرت عمر بن الخطابؓ نے لکھ گئے (صحیح ابوداؤد ج ۱ ص ۱۳۷)۔
عبدالرحیم و عبدالغنی دو نو مسلم ہوئے اور اس ملک کے جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے ان پر جزیرہ قائم کیا گیا۔

رسول اللہ کے اس مراسلے کا حاصل کسریٰ کے لئے ارسال کردہ مراسلے کی طرح ہے اگر اُس کو الگ لکھوں گا اک دہرا عمل ہو گا۔

عمرو ولد عاص رسول اللہ کے حکم سے اُسی ملک کے رہے اور وہاں کے امور کے عامل بنے۔ وہ وہاں کئی سال رہے۔ ہادثنی اکرم کے وصال کی اطلاع اس ہمد رسول کو اُسی ملک ملی۔

اس طرح اُس ملک کے کئی گروہ اسلام لائے اور وہاں اسلام کے لئے راہ ہموار ہوئی۔ اس کے علاوہ دو اور مراسلے دوسرے دو حاکموں کو لکھوائے گئے۔ اک حاکم ولد علی کے لئے اور دوسرا دوم کے اک عامل کے لئے۔ ولد علی کا مراسلہ رسول اللہ کے دلدادہ ولد عمرو نے کر گئے اور دوسرا مراسلہ ولد اسدی نے کر گئے۔ ہر دو حاکم اسلام سے دور رہے۔ رسول اللہ کو ہر دو کے حال کی اطلاع ہوئی، ہر دو کے لئے کہا کہ اُس کا ملک ہلاک ہوا اور کئی سال اُدھر اسی طرح ہوا۔ ہر دو ملک سے محروم ہوئے۔ رسول اللہ کے سارے مراسلوں سے اس امر کا علم ہوا کہ رسول اکرم سارے مسابک و ممالک اور سارے عالم کے رسول ہو کر آئے۔ اسی لئے لوگ عالم کو مراسلے لکھوائے گئے۔



۱۔ حضرت عمرو بن العاص وہاں زکوٰۃ و صدقات اور تزیینے کی وصولی کے لئے گورنر مقرر ہوئے۔

اور وصال مبارک تک وہیں رہے۔ (امح السیر، سیرت مصطفیٰ ص ۱۳۶ ج ۲) -

۲۔ رئیس یتامہ ہودہ بن علی کے نام (امح السیر، سیرت مصطفیٰ ص ۱۳۶ ج ۲) -

۳۔ حادث غسانی کے نام۔ (حوالہ بالا) :-

اسرائیلی گروہ سے معرکہ اسلام

معاهدہ صلح سے ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام کو اہل مکہ اور دوسرے گروہوں کی معرکہ آرائی سے رہائی ملی۔ معاہدہ صلح کے سال اہل اسلام سے اللہ کا وعدہ ہوا کہ اللہ اہل اسلام کو کوئی کامنگاری عطا کرے ممالک کا مالک کرے گا۔ سو وہ لمحہ آگیا کہ اللہ کا وہ وعدہ مکمل ہوا اور اس معرکہ اور کامنگاری کی راہ اس طرح ہموار ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ وہ معمورہ رسول سے دوسو کوس اُدھر اسرائیلی لوگوں کے مہر آ کر حملہ آور ہوں اور اللہ کے کلام سے اطلاع ملی کہ منگاروں کا گروہ مال کی طبع کر کے مہر ہو گا کہ اس معرکہ کے لئے ہم کو ہمراہ لے لو۔ مگر اللہ کا حکم ہے کہ وہ گروہ اس معرکہ سے دُور ہی رہے۔ وہ اسرائیلی گروہ کہ رسول اللہ کے حکم سے معمورہ رسول سے رواں ہو کر اس مہر آ کر ٹھہرا اور وہاں کئی محکم حصّہ کھڑے کر لئے اور سارا عرصہ اس امر کے لئے مساعی رہا کہ دوسرے گروہوں کو اُگسا کہ اہل اسلام سے لڑو ادے اور کسی طرح اسلام کی راہ رکے۔ معرکہ مسلح دراصل اسی گروہ کی مساعی سے ہوا۔ اس لئے اللہ کا حکم وارد ہوا اور اس سال کے ماہ محرم الحرام کو حکم ہوا کہ وہ سارے لوگ کہ معاہدہ صلح کی مہم کے ہمراہی رہے۔ اس معرکہ کے لئے آمادہ ہوں۔

لے غزوہ خیبر لے سورۃ الفتح میں منافقوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی سیقول
 لعلّ المتخلفون الخ۔ لے حصارِ قلعہ۔ لے صلح حدیبیہ کے شرکاء سے ایک قریبی فتح اور
 مال غنیمت کا وعدہ قرآن میں ہوا تھا۔ اس لئے اس غزوے میں وہی لوگ شریک ہوئے جو صلح حدیبیہ میں
 شریک تھے۔

اُدھر معمودہ رسول کے مکاروں کا گروہ ہر طرح اسرائیلی گروہ کا حامی رہا اور اہل اسلام کے احوال سے اُس گروہ کو مطلع رکھا۔ اُدھر وہ اسرائیلی گروہ دوسرے اک گروہ سے مل کر لڑائی کے لئے آمادہ ہوا۔

الحاصل سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اک مددگارِ رسول کو معمودہ رسول کا والی کر کے عسکرِ اسلامی کو لے کر رواں ہوئے۔ اس معرکے کے لئے اہل اسلام کا عدد وہی رہا کہ معاہدہ صلح کی مہم کے لئے رہا۔ (دوسو کم سولہ سو)

سلمہ ولد الاکوع، مددگارِ رسول سے مروی ہے کہ اُس کے عم عامر ولد الاکوع رسول اللہ کے آگے حدیث گانا گانے سرور ہوئے۔ حدیث کا کلام مسنون کر کے رسول اللہ مسرور ہوئے اور عامر ولد الاکوع کو دُعا دی اور کہا کہ ”اللہ اس کے لئے جہنم کرے“ اور امام احمد سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعا ہوئی کہ اللہ اُس کو ظاہر کرے۔

رسول اللہ کے ہمدموں کو معلوم رہا کہ ہر گاہ کہ رسول اللہ کی اس طرح کی دُعا کسی کا اسم لے کر ہوتی۔ وہ اللہ کی راہ لڑ کر دارالسلام کا راہی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدموں اور مددگاروں کو رسول اکرم کی دُعا سے معلوم ہوا کہ عامر ولد الاکوع اس معرکے سے دارالسلام کو راہی ہو گا اور اسی طرح ہوا۔

اُدھر رسول اللہ کو معلوم ہوا کہ گمراہوں کا اک دوسرا گروہ اسرائیلی گروہ کا حامی ہو کر لڑائی کے لئے آمادہ ہوا۔ رسول اکرم راہ کے سارے مراحل طے کر کے اسرائیلی لوگوں کے اُس بصرِ آکر وارد ہوئے اور اسرائیلی مسرور گمراہوں کے منہ کے وسط کو

لے آئے حضرت نے رحم اور مغفرت کی دُعا دی۔ آپ جب کسی کو خاص کر کے رحمائے مغفرت فرماتے تو وہ ہلکا ہوتا۔ (سیرت مصطفیٰ ص ۱۳۶) یہودیوں نے بنی غطفان سے معاہدہ کر لیا تھا۔ آپ نے بنی غطفان کی بستی اور خیبر کے درمیان پڑاؤ کیا تاکہ بنی غطفان یہودیوں کی مدد کو نہ آسکیں۔ چنانچہ بنی غطفان یہودیوں کی مدد کو نکلے لیکن اسلامی لشکر کو دیکھ کر لوٹ گئے۔ (سیرت مصطفیٰ ص ۱۳۷ ج ۲) :-

ورد گاہ کر کے رہے۔ اس لئے کہ گمراہوں کا گروہ اسرائیلی گروہ کی امداد سے دور رہے۔

اُس سحر کو کہ عسکرِ اسلام اسرائیلی حصاروں کے آگے وارد ہوا۔ وہاں کے لوگ معمول کے کاموں کے لئے گھروں سے کُڈال لئے آگے آئے۔ معاً اسلامی عسکر کی امداد کا علم ہوا۔ دوڑ کر گھروں کو لوٹے اور مدادی ”محمدؐ، واللہ محمدؐ عسکرِ کامل کے ہمراہ“ اس اطلاع سے سارے مصر کے لوگ دہل گئے۔ سارے لوگوں کی دہائے ہوئی کہ حصاروں کے کواڑ لگا کر محصور ہو رہا اور گھروالوں کے لئے اک حصار الگ کر کے، سارے مرد و دوسرے حصار کے محصور ہو گئے۔^۱ اس گروہ کا سردار سلام اسرائیلی لوگوں کے ہمراہ رہا اور طرح طرح کے کلام کر کے لڑائی کے لئے لوگوں کی آمادگی حاصل کی۔ یہ بول کر تم کے حکم سے اہل اسلام اس حصار کا محاصرہ کر کے وہاں رہے۔

اہلِ اسلام کے حملے

مالِ کارِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عسکرِ اسلام کو حکم ہوا کہ اس حصار کے لئے حملہ آور ہو۔ اگلی سحر ہوئی اور اہلِ اسلام معرکہ آرائی کے لئے آمادہ ہوئے۔ عدائے ”الشہادہ“ سے ساری وادی معمور ہوئی اور معرکہ گرم ہوا۔ کئی کپڑے حملے ہوئے اور کمالِ جوش و خروش اور محالِ امور کو سر کر کے اہلِ اسلام لوٹے۔ مالِ کارِ اللہ کی مدد اور اہلِ اسلام کے مسلسل حملوں سے وہ محکم حصار ٹوٹا۔ اور معمولی لڑائی سے اہلِ اسلام اُس حصار کے مالک ہوئے۔

۱۔ یہ قلعہ ”انعم“ کے نام سے مشہور تھا۔ (حوالہ بالا) ❖

اسی حصار کے آگے رسول اکرمؐ کے اک مددگار محمود ولد مسلمہ کا دھال ہوا۔ اس کا معاملہ اس طرح ہوا کہ محمود ولد مسلمہ کا ارادہ ہوا کہ وہ کسی سائے دار محل اکہ اک لمحہ کے لئے آرام کرے۔ وہ حصار کے اک حصے کے آگے اک سو گئے۔ حصار والوں کو معلوم ہوا کہ وہاں کوئی سودا ہے۔ حصار کے سرے سے اک مرمر کی سیل لٹھکا دی۔ وہ سیل اکہ ہمد رسول کو لگی۔ اُس کے حدے سے ہمد رسول کا سر دھڑکڑے ہوا۔ اور اُسی دم وہ ہمد رسول وصال الہی کے اکرام سے مالا مال ہوئے۔

اہل اسلام کو حصار اول سے کامگاری ملی۔ ہادٹی کابل کا اہل اسلام کو حکم ہوا کہ دوسرے حصار کے لئے حملہ آور ہوں۔ وہ حصار دوسرے حصاروں سے برا محکم رہا۔ اُس عرصے رسول اکرمؐ صلی اللہ علیہ وسلم کو اک درد رہا اس لئے ہندوں اور مددگاروں کی رائے سے رسول اکرمؐ حملہ آور عسکر کی ہمداری سے دُور رہے اور ہمد مکرم کو اس مہم کے لئے علم عطا ہوا۔ ہمد مکرم اہل اسلام کو لے کر حملہ آور ہوئے اور کمال سعی کی کہ حصار محکم ٹوٹے مگر کامگاری سے محروم ہوئے۔

دوسری سحر کو حکم ہوا کہ وہ اہل اسلام کے علاوہ ہو کر حملہ آور ہوں، عمر مکرم کمال حوصلے اور ولولے سے حملہ آور ہوئے۔ مگر کامگاری سے محروم رہے۔ رسول اکرمؐ سارے احوال سے مطلع ہوئے اور کہا کہ کل عسکر اسلامی کا علم اُس آدمی کو ملے گا کہ وہ اللہ اور اُس کے رسول کا دلدادہ ہے اور

لے حضرت محمد بن مسلمہ کے بھائی، محمود بن مسلمہ قلعے کی دیوار کے نیچے اک سو گئے تھے۔ اوپر سے پتھر لٹھکایا گیا اور وہ شہید ہوئے (اصح البیہر) لے اس قلعے کا نام قوموس تھا، اس کا مالک مرجب بودی تھا یہ بہت مضبوط قلعہ تھا۔ (سیرت مصطفیٰ ص ۱۳) لے قوموس کی فتح کے لئے سب سے پہلے حضرت ابو بکرؓ کی سرکردگی میں فوج بھیجی گئی، اس کے بعد حضرت عمرؓ کو فوج کا علم ملا۔ آخر حضرت علیؓ کے ہاتھ پر یہ قلعہ فتح ہوا۔

اللہ اور اُس کا رسول اُس کا دلدادہ ہے۔ اُسی کے حملے سے وہ حصار ٹوٹے گا اور
اہل اسلام کو کامگاری حاصل ہوگی۔ رسول اللہ کے اس کلام سے سارے لوگوں کے
دل دھڑک اُٹھے اور اک دوسرے سے کہا کہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ اہم اکرام
کس کو حاصل ہوگا۔

الحاصل اگلی سحر ہوتی۔ لوگ اُس حصار کے حملے کے لئے آمادہ ہوئے۔ ہادی
کامل صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہوا کہ ”علی کہاں ہے؟“ لوگ علی کرم اللہ
کے لئے دوڑے اور کہا کہ رسول اکرم کا حکم ہوا ہے کہ آکر ہم سے ملو۔ وہ رسول اللہ
کے آگے آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ اے علی! اللہ کی
مدد کا اسرا لے کر عسکر اسلامی کا علم اٹھاؤ اور اس محکم حصار کے لئے حملہ آور ہو۔
مگر اول اس گمراہ کے لوگوں کو اسلام کی راہ دکھاؤ۔ اے علی! اگر اس طرح اک
آدمی اسلام لے آئے۔ وہ ہر کامگاری سے اعلیٰ کامگاری ہے۔

علی کرم اللہ علیہ وسلم کو لے کر راہی ہوئے۔ اس حصار کا مالک اس
گمراہ کے سارے لوگوں سے سوا دلا اور اور حوصلہ ور رہا۔ اُس کو معلوم ہوا کہ علی
کرم اللہ لڑائی کے لئے آمادہ ہو کر آگئے۔ وہ حصار سے آگے آکر لڑا کہ
لڑائی کا ماہر ہوں۔ دل اور حوصلے والا ہوں۔ اگر حوصلہ ہو کر لڑو۔

اول مددگار رسول عامر ولد الاکوع اُس کے آگے آڈٹے اور حسام لے کر
حملہ آور ہوئے۔ مگر وہ حسام اُلٹ کر مددگار رسول کے گئے کو آنگلی اور وہ
رگر گئے اور اُسی محل دار السلام کو راہی ہوئے۔ سلمہ ولد اکوع سے مروی ہے
کہ رسول اکرم کو احساس ہوا کہ طول ہوں۔ سوال ہوا کہ کس لئے طول ہو؟ کہا کہ
اے رسول اللہ! لوگوں سے معلوم ہوا کہ عامر کے سارے اعمال صالحہ میٹ گئے
اس لئے کہ وہ اُس کی ہی حسام سے گھاٹل ہو کر مرا۔ رسول اکرم کا کلام ہوا کہ

وہ کمال لڑائی والا ہے۔ اُس کے لئے دُہرا اکرام ہے۔

وہ مددگارِ رسول، اللہ کے گھر کو سدھارے اور علیؑ کے لئے اللہ اُس سردار کے آگے آڈٹے اور دوڑ کر اُس کے لئے حملہ آور ہوئے۔ علیؑ کے لئے اللہ کا دار اس طرح کاری ہوا کہ اُس سردار کا سرکٹ کر وہاں گرا اور وہ اُسی دم ہلاک ہوا۔ امامِ مسلم سے اس لڑائی کا حال اسی طرح مروی ہے۔ مگر دوسرے کئی علماء راوی ہوئے کہ وہ سردار ہمدیم رسول محمدؐ و ولدِ مسلمہ کے دار سے ہلاک ہوا۔ ہر دو احوال کو اکٹھا کر کے علما کی رائے ہے کہ دراصل علیؑ کے لئے اللہ کے دار سے وہ گھائل ہو کر گرا اور علیؑ کے لئے اُس کو مردہ محسوس کر کے آگے رواں ہو گئے۔ ہمدیم رسول محمدؐ و ولدِ مسلمہ وہاں آئے اور اُس کو گھائل محسوس کر کے اُس کا سر کاٹ ڈالا۔

اس معاملے کو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے لائے اور سوال ہوا کہ سردار کے اموال کا مالک علیؑ کے لئے اللہ ہو کہ محمدؐ و ولدِ مسلمہ ہو؟ سارا حال معلوم کر کے حکم ہوا کہ اس سردار کے اسلحہ اور املاک کا مالک محمدؐ و ولدِ مسلمہ ہوگا۔ اسی حکم کی نافرمانی سے وہ اُس سردار کے اسلحہ اور مال کے مالک ہوئے۔ سردار کی حسام اک عرصہ اُس کی ملک نہ رہی۔

الحاصل اس محکم حصار کے لئے آدھے ماہ سے سوا عسکرِ اسلامی حصار کر کے وہاں رہا اور لڑائی کا سلسلہ رہا۔ مالی کارِ اہلِ اسلام کی حوصلہ دہی اور علیؑ کے لئے اللہ کی دلاوری سے وہ حصار ٹوٹا اور اہلِ اسلام اُس کے مالک ہوئے۔ اس حصار سے حد سے سوا مال ملے اور وہاں کے سارے لوگ محصور ہوئے۔ اس گروہ

۱۔ حضرت عامر بن الاکوع کے بارے میں آپؐ نے فرمایا کہ اُس کے لئے دو اجر ہیں (سیرتِ مصطفیٰ ص ۱۲ ج ۲) ۲۔ عرج بن ابی وجعہ کی تلوار میں حضرت محمدؐ بن مسلمہ ہی کو ملی۔ اُس کے دستے پر مرحب کا نام کندہ تھا۔ وہ ایک عرصے تک ان کے گھردلوں کے پاس محفوظ نہ رہا۔

کے سرور کی لڑکی محصور ہو کر ہمراہ ہوئی۔ اسی طرح اللہ کے کرم سے اسرائیلی گروہ کے کئی حصار اہل اسلام کے حملوں سے ٹوٹے اور سارے حصاروں کے اموال اہل اسلام کو ملے۔ سارے لوگ اکٹھے ہو کر وہاں کے اک دوسرے حصارِ اسلام کو محصور ہو گئے۔

حصارِ اسلام کا محاصرہ

اسرائیلی گروہ کا اک حصارِ اسلام کمالِ محکم رہا۔ گروہ کے سارے لوگ اُس حصار کو محصور ہو گئے۔ ہادشی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ عسکرِ اسلامی اُس حصار کا محاصرہ کر کے وہاں رہے۔ کوئی آدمی اس حصار کا محاصرہ نہ رہا۔ مالی کارِ گروہ اعداء اس محاصرے سے گراں حال ہوا اور آمادہ ہوا کہ رسول اللہ سے صلح کا معاملہ کر لے۔

گروہ کا اک عالمِ صلح کے مکالمے کے لئے حصار سے رواں ہو کر رسول اکرم ص سے ملا اور کہا کہ گروہ کے سارے لوگ صلح کے لئے آمادہ ہوئے اس لئے ہم سے صلح کا معاملہ کر لو۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوا کہ اگر سارے لوگ اس امر کے لئے آمادہ ہوں کہ وہ اس بھر سے راہی ہو کر کسی دوسرے سرورِ دہوں اور سارے اموال و املاک کے مالک اہل اسلام ہوں۔ وہ ہلاکی سے دور ہوں گے اور اگر اس کا عکس ہوا، ہم حملہ آور ہوں گے اور گروہ کے سارے لوگ ہلاک ہوں گے۔ اس امر کے لئے گروہ کے لوگ آمادہ ہو گئے۔

اس گروہ کے کئی لوگ اس معاہدے سے دُور گمراہ ہو کر گمراہ کے لہو ال اک دُور کے محل کا ذکر آگئے کہ اہل اسلام اُس مال سے محروم ہوں۔ مگر رسول اکرم کو وحی سے معلوم ہوا کہ مال کس محل گمراہ ہوا ہے؟ اقلی سرداروں سے اُس مال کے لئے سوال ہوا۔ سردار اُس مال سے منکر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوا کہ اگر وہ مال ہم کو حاصل ہوا۔ سارے لوگ اس عمل کے لئے ہلاک ہوں گے۔ وہ اس کے لئے آمادہ ہو گئے۔ رسول اللہ کا اک مددگار کو حکم ہوا کہ اُس محل وہ مال گمراہ ہوا ہے۔ اُس کو کھود کر لے آؤ۔ وہ مددگار اس محل آئے اور کھود کر سارا مال لے آئے۔ اس لئے وہ لوگ ہلاک ہوئے اور مال اہل اسلام کو ملا۔ اس طرح اللہ کے کرم سے اس حصار کی کامگاری اہل اسلام کو ملی۔

اسود راعی کا اسلام

اسود راعی کا معاملہ کہ سارے ہی علمائے اسودہ رسول سے مروی ہے۔ اسی معرکے کا معاملہ ہے۔ اس گروہ کا اک سادہ لوح راعی اک سحر کو معمول کی طرح گلے لے کر رہا ہی ہوا۔ وہ گلے کے ہمراہ اس حصار کے آگے آ کر کھڑا ہوا۔ حصار

لے سلام کے یہودیوں نے صلح کی درخواست کی۔ آنحضرت نے اس شرط پر صلح کر لی کہ یہود خیبر سے جلا وطن ہو جائیں اور اپنے ساتھ کوئی چیز نہ لے جائیں۔ اسلحہ زبردنیور، نقد اور غلہ وغیرہ سب چھوڑ جائیں۔ چنانچہ اس پر صلح ہو گئی۔ مگر یہودیوں نے چالاکی کی کہ وہ تھیلہ ایک درخت کی جڑ میں گاڑ دیا جس میں سارے لوگوں کا سونا اور زیورات رہتے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ وہ تھیلہ کہاں ہے؟ سب نے کہا کہ سارا مال غریب ہو گیا ہے۔ آپ نے ایک انصاری کو بھیج کر وہ تھیلہ درخت کی جڑ سے نکلوا یا جس میں دس ہزار دینار سے زیادہ کی نقدی اور زیور موجود تھے۔ اس جرم میں یہ لوگ قتل کر دیئے گئے۔ قتل ہونے والوں میں کنانہ بن الربیع بھی تھا جو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شوہر تھا۔ (میرٹ صفحہ ۱۴۲ ج ۲) لے اسود راعی کا یہ قصہ محدثین نے صحیح اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ یہ غزوہ خیبر ہی میں پیش آیا تھا۔ (امح السیر ص ۲۳۳) ۵۵

کے آگے آکر لوگوں کی کمال رواداری اور ہماہمی دکھائی دی اور محسوس ہوا کہ کسی ٹٹائی کے لئے آمادگی ہو رہی ہے۔ لوگوں سے کہا کہ وہ ساری ہماہمی کس امر کے لئے ہے؟ لوگوں سے معلوم ہوا کہ اک آدمی معمورہ رسول سے عسکر لے کر وارد ہوا ہے اور اُس کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ وہ سادہ لوح راہی اگلے رسولوں کے احوال کا دلدادہ رہا۔ اور سارے رسولوں کے احوال اُسے معلوم رہے۔ اس امر کو معلوم کر کے کہ اللہ کا اک رسول اُس میں وارد ہوا ہے۔ اُس کا دل آمادہ ہوا کہ کسی طرح وہ عسکر اسلامی کی ورود گاہ آکر رسول اکرم سے ملے۔ دل کو اس ارادے سے معمور کئے وہ راہی گئے کو لے کر وہاں سے راہی ہوا اور حصاء کے گرد گھوم کر وہ عسکر اسلامی کی ورود گاہ آکر سامعی ہوا کہ اُس کو معلوم ہوا کہ اللہ کا رسول کہاں ہے۔ لوگوں سے کہا کہ اے لوگو! اس راہی کو اللہ کے رسول سے ملا دو۔ لوگ اُس کو لے کر ہادئی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے لائے۔ اللہ کے رسول سے مل کر وہ راہی کمال مسرور ہوا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول! لوگوں سے معلوم ہوا ہے کہ اللہ کے رسول ہو۔ ہم کو آگاہ کرو کہ کس امر کا حکم لے کر آئے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اُس سے ہم کلام ہوئے اور کہا کہ درگاہ الہی سے مامور ہوا ہوں کہ لوگوں کو اسلام کی راہ دکھاؤں اور لوگوں کو اس امر کا گواہ کروں کہ اللہ واحد ہے اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کا رسول ہے۔ اس کلام رسول سے اُس سادہ لوح اور صالح آدمی کا دل گھائل ہوا اور کہا۔ اے رسول اللہ! اگر اسلام لے آؤں اور دل سے گواہ رہوں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کا رسول ہے۔ اس عمل سے کس طرح کی کامگاری ملے گی، رسول اکرم کا وعدہ ہوا کہ اگر وہ دل کی گہرائی سے اس امر کا گواہ ہو گا۔ اُس کو دارالسلام کا گھر ملے گا۔ وہ راہی آگے ہوا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول! کالا

ہوں۔ مال سے محروم ہوں اور دُھول اور گرد سے آٹا ہوا ہوں۔ اگر اس حال اللہ کی راہ لڑ کر مروں، دارالسلام کے گھر کا مالک ہوں گا؟ رسول اللہ کا وعدہ ہوا کہ اُس کو دارالسلام کا گھر ملے گا۔ وہ داعی اس وعدے سے کمال سرور ہوا۔ آگے اگر رسول اللہ سے کہا کہ لوگوں کا گلہ مرے ہمراہ ہے۔ اس کا معاملہ کس طرح حل ہو؟ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ اس گلے کو لے کر حصار کے لئے راہی ہو اور حصار کے آگے آکر گلے کو سوئے حصار دوڑا دو۔ وہ سارا گلہ اک اک کر کے مالکوں کے حوالے ہو گا۔

وہ داعی گلے کو دوڑا کر لوٹا اور اہل اسلام کے ہمراہ حملہ آور ہوا اور اس طرح دل کھول کر دلاوری سے لڑا کہ کئی لوگوں کو گھائل کر کے رہا اور مال کا ر اعداد کے اک حملے سے گھائل ہو کر گریا اور اُسی دم دارالسلام کے لئے راہی ہوا۔ لوگ اُس کو مردہ رسول اکرم کے آگے لائے اور کہا کہ وہی داعی ہے کہ اسلام لا کر اللہ کی راہ لڑا اور وصالِ مسعود کے اکرام سے مالا مال ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوا کہ اُس کو دارالسلام کا گھر ملا اور وہ دو خودوں کا مالک ہوا۔

اس طرح اللہ کے کرم اور اُس کی مدد سے اسرائیلی گروہ کے سارے حصار اک اک کر کے ٹوٹے اور اعداد نے اسلام کا گروہ دُسووا ہو کر رہا۔ اس مصرعے

لے روایت میں ہے کہ اُس نے پوچھا یا رسول اللہ! میں بد شکل اور کالا ہوں۔ بدن میں بد بو ہے اور میرے پاس مال بھی نہیں ہے۔ اس حال میں اگر لڑ کر مارا جاؤں تو کیا مجھے جنت مل جائے گی؟ آنحضرت نے فرمایا ہاں ملے گی۔ (امح السیر ص ۲۳۲) لے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے کو دیکھ کر فرمایا کہ اللہ نے اُس کے چہرے کو حسین کر دیا۔ اُس کے بدن کو خوشبودار کر دیا اور جنت کی دو جوئیں اس کو ملیں۔ اللہ اکبر۔ چند گھنٹے کے اندر کسی کا یا پلٹ گئی۔ نہ کوئی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، اور اس اعلیٰ مرتبے کو پہنچا۔ (امح السیر ص ۲۳۲) ❦

کئی مراحل اُدھر اسرائیلی گروہ کا اک اور مصر رہا۔ وہاں کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ حصارِ اسلام کے لوگوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح کا معاہدہ ہوا ہے۔ اُس گروہ کو محسوس ہوا کہ اہل اسلام کا اگلا مرحلہ وہی مصر ہوگا۔ اس لئے وہاں کے لوگوں کی رائے ہوئی کہ اُسی مصر آکر رسول اکرم سے صلح کر کے اہل اسلام کے محلے سے الگ ہوں۔ اُس مصر کے کئی سرکردہ لوگ آکر رسول اللہ سے ملے اور کہا کہ ہم آمادہ ہوئے کہ اس مصر سے راہی ہو کر کسی اور مصر وارد ہوں۔ ہمارے سارے اموال اور املاک ہم سے لے لو۔ مگر ہم لوگوں کی ہلاکی سے دُور رہو۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے آمادہ ہو گئے اور اس مصر کے لئے اہل اسلام کو لڑائی کے علاوہ ہی کامکاری حاصل ہوئی۔ اسی لئے اُس گاؤں کے سارے اموال و املاک سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لئے ہوئے۔

احمد کے مُلک سے اہل اسلام کی آمد

سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دورِ نبی کے احوال کے ہمراہ مسطور ہوا کہ اللہ والوں کا اک گروہ رسول اللہ کے حکم سے حاکمِ احمد کے مُلک کے لئے راہی ہو کر وہاں آ کے ٹھہرا ہا کہ وہ مکے والوں کے آلام سے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ کے مراسلوں کے احوال سے معلوم ہوا کہ رسول اکرم کا اک مراسلہ رسول اللہ کے مددگارِ عمر و اُس حاکم کے لئے لے کر گئے اور معلوم ہوا کہ وہ حاکم مراسلے کا مطالعہ کر کے مسلم ہوا۔ سارے اہل اسلام عمرو کے ہمراہ وہاں سے راہی

۱۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے مُلک سے تمام صحابہ و انھن سے خبریں اکڑے۔ (جامع البیہر)

ہوئے۔ رسول اکرمؐ کے لئے اطلاع ملی کہ وہ اسرائیلی مسافر آکر معرکہ آرا ہوئے۔ اس لئے وہ سارا کادواں اسی مسافر کے لئے رہی ہوا اور وہاں آکر ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ رسول اکرمؐ کو اہل اسلام سے مل کر کمال مسرور حاصل ہوا اور ولید عم سردار سے مل کر حد سے ہوا مسرور ہوئے اور کہا کہ ”کس طرح کہوں کہ اس معرکہ کی کامکاری کا مسرور ہوا ہے کہ ولید عم سردار کی آمد کا؟“

kutubistan.blogspot.com

طعامِ آلود

اس گروہ کے سردار سلامؑ کی گھروالی کادلِ حسد سے معمور ہوا اور وہ ساعی ہوئی کہ کسی طرح اللہ کے رسول کو ہلاک کرے۔ ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے طعام لے کر اور اُس کو مہلک سم سے مسموم کر کے رواں ہوئی اور رسول اکرمؐ کے لئے لے کر آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اک دلدادہ کے ہمراہ آمادہ ہوئے کہ اُس طعام کو کھا کر مسرور ہوں۔ مگر اللہ کا حکم ہوا اور رسول اکرمؐ کو اطلاع دے دی گئی کہ طعامِ سم آلود ہے اس سے الگ رہو۔ رسول اکرمؐ کے دلدادہ کو وہ طعام کڑوا لگا، مگر مکر وہ لگا کہ وہ اُس طعام کو کڑوا کہہ کر الگ ہوں۔ اس لئے اُس کا اک حقہ کھا گئے اور اسی سے اس دلدادہ رسول کا وصال ہوا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ سلامؑ کے گھروالوں کو لاؤ۔ وہ لائے گئے۔ رسول اکرمؐ کا سوال ہوا کہ وہ کادروائی کس لئے کی گئی۔ کہا کہ واللہ اس لئے حضرت جعفر بن ابی طالبؑ ان لوگوں کے ساتھ تھے۔ ان سے مل کر خاص طور پر آنحضرتؐ کو بیدار ہوئی (امح السیر)

۵۷ آپؐ نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ مجھے فتحِ خیبر کی مسرت زیادہ ہے یا جعفرؑ کے آنے کے۔ (زیرت مصطفیٰ ص ۱۵۸)
 ۵۸ سلام بن مشکم کی عورت زینب بنت الحارث نے ایک بکری پکا کر آپؐ کو ہدیہ دیا اور اُس میں زہر ملا دیا (امح السیر ص ۱۵۸)
 ۵۹ حضرت بشیر بن براء بن العزیر نے باوجود تلخی کے حضورؐ کے سامنے کھانے کو مقدّم کیا سوئے ادب سمجھا اس لئے کچھ حقہ کھا گئے۔ (امح السیر ص ۲۴۶) :-

کارروائی سے ہمارا اصل مدعا رہا کہ اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کا رسول ہے۔ اُس کو وحی کے واسطے سے سم آلود طعام کا سارا حال معلوم ہو گا اور اگر اس کا عکس ہے ہمارا اصل مدعا حاصل ہو گا کہ اس طرح کے آدمی سے لوگوں کو رہائی ملے۔

والدئمہ سے مروی ہے کہ سلام کی گھر والی کے لئے حکم ہوا کہ اُس کو لاؤ۔ وہ آئی اور رسول اللہ کے حکم سے دلدادہ رسول معروف کے صلے ہلاک کی گئی۔ مگر دوسرے علمائے کرام کی رائے ہے کہ اول رسول اللہ کا حکم ہوا کہ اُس کو رہا کر دو مگر رسول اللہ کو اطلاع ہوئی کہ دلدادہ رسول معروف اس مسموم طعام سے وصال کر گئے۔ رسول اللہ کا حکم ہوا کہ اُس کو ہلاک کر دو اور کئی دوسرے لوگوں سے مروی ہے کہ وہ اسلام لے آئی اور اس لئے رہا کی گئی۔ واللہ اعلم۔

اس معرکے کے محاصل

اس معرکے سے اہل اسلام کے لئے اللہ کا وہ وعدہ مکمل ہوا کہ اللہ کی درگاہ سے اہل اسلام کو اک عرصہ ادھر اک کامگاری حاصل ہوگی اور اُس کے اموال و املاک سے سارے اہل اسلام مالا مال ہوں گے۔ الحمد للہ! اس معرکے سے اہل اسلام کو سارے معرکوں سے سوا اموال ملے اور اللہ کے کرم سے اہل اسلام ہر طرح سے مالا مال ہوئے اور رسول اکرم کے سارے وہ ہمدم کہ اس سے آگے آسودہ حالی سے دور رہے۔ مالی طور سے محکم ہو کر آسودہ حال ہو گئے۔ رسول اللہ

۱۔ اُن لوگوں نے اقرار کیا کہ زہر انہوں نے ملا یا ہے اور کہا کہ ہمارا ارادہ تھا کہ اگر آپ سچے ہیں اور نبی ہیں تو آپ کو اطلاع ہو جائے گی اور اگر جھوٹے ہیں تو ہم بھات پائیں گے (راجح التیروم ۲۴۶)

۲۔ ام التیروم ۲۴۶ ۳۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قول ہے کہ پہلے حضور نے اُس کو چھوڑ دیا۔ پھر بشر کے انتقال کے بعد انہیں مارنے کا حکم دیا۔ ۴۔ امام زہری سے مروی ہے کہ وہ عورت مسلمان ہو گئی اور حضور نے اس کو چھوڑ دیا۔

کا اسرائیلی گمروہ سے معاہدہ ہوا کہ وہاں کے سارے محاصل کا آدھا حصہ ہر سال اہل اسلام کو ملے گا۔ اس طرح اللہ کا وہ وعدہ مکمل ہوا کہ معاہدہ صلح اہل اسلام کی کھلی کامگاری ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عسکر اسلام کو لے کر وہاں سے رواں ہوئے اور وہاں سے کئی مرحلے اُدھر وادی کے اک گاؤں کا محاصرہ کر کے رہے مگر گاؤں والے صلح کے لئے آمادہ ہو گئے اور طے ہوا کہ ہر سال اسلامی حصہ مال اہل اسلام کو ملے گا۔ اس طرح ہادوثی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کھلی کامگاری حاصل کر کے معمورہ رسول لوٹ آئے۔



رسول اکرم کا عمرہ اول

معابدہ صلح کو اک سال مکمل ہوا۔ اُس معاہدے سے طے ہوا کہ اگلے سال اہل اسلام عمرے کی ادائیگی کے ارادے سے مکہ مکرمہ کے لئے راہی ہوں۔ ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ اہل اسلام عمرہ معمود کے لئے آمادہ ہوں اور وہ سارے لوگ لامحالہ ہمراہ ہوں کہ معابدہ صلح کے سال رسول اللہ کے ہمراہ راہی ہوتے۔ اس حکم سے اہل اسلام کے دل مسرور ہو گئے اور کوئی اٹھارہ سو اور دو سو اہل اسلام اُس عمرے کے لئے آمادہ ہوتے۔ رسول اکرمؐ اہل اسلام کو ہمراہ لے کر معمرہ رسول سے راہی ہوتے اور معمرہ رسول سے راہ کے دوسرے اُدھراک محل آکر ٹہرے۔ وہاں آکر احرام کس کر سارے اہل اسلام احرام اُدھر کر آمادہ ہوئے۔

وہاں سے راہی ہو کر مکہ مکرمہ سے آٹھ کوس اُدھراک محل آکر رُکے اور وہاں آکر دو سو اہل اسلام کے اک رسالے کو حکم ہوا کہ وہاں رُکا رہے اور اہل اسلام کے سارے اسلحہ کی رکھوالی کرے۔ اس لئے کہ معاہدے کی دُوسرے اہل اسلام مامور رہے کہ وہ ہر طرح کے اسلحہ سے دُور ہوں۔ اس طرح سارا اسلحہ دو ہزار مسلمانوں کے حوالے کر کے رسول اکرمؐ سونے حرم رواں ہوتے۔ ہمدیوں اور مددگادوں کا گروہ اللہ کے رسولؐ کی سواری کے گرد ہوا۔ ولد رواحہ رسول اللہ کی سواری کی مہا لئے ہدی گاگیا کہ سواری کے آگے آگے رواں ہوتے۔ ولد رواحہ کی ہدی کا

۱۔ جو صلح حدیبیہ کے سال عمرہ ادا نہ ہو سکا تھا اس لئے اس عمرے کی تقاضا درج تھی، اسی لئے اس کو عمرہ القضاء کہتے ہیں۔

ماحصل اس طرح ہے۔

”اے گمراہوں کی اولاد! رسول اللہ کی راہ سے ہٹ کر الگ رہو
اس لئے کہ اللہ کا ہر کرم اُس کے رسول کے لئے ہے (معابدہ صلح
کے سال) رسول اللہؐ لوٹ کر گئے۔ گمراہوں کو ہماری مار لگی۔ وہ مار
اس طرح کا رہی ہوئی کہ آرام دلوں سے محو ہوا اور دلدار، دلدار
سے دُور ہوا۔ اے اللہ! رسول اللہ کے ہر حکم کا دل سے
عامل ہوں۔“

اس طرح سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوا اللہ والوں سے گھرے ہوئے
مکہ مکرمہ آئے۔ اہل اسلام اک عرصہ سے اس اکرام کے لئے دُعا گو رہے کہ وہ عمرہ
کی ادائیگی اور ”دار اللہ“ کے دور کے اکرام سے مکرم ہوں۔ اللہ کے کرم سے دلوں
کی مراد حاصل ہوئی۔ رسول اللہؐ کے گرد ہو کر سارے کے سارے حرم مکرم آئے۔
مکہ کے گمراہ ”دار الراءے“ کے آگے کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے اکرام اور غلو سے دل مسوس کر رہ گئے۔ دار اللہ کے گرد گھوم گھوم کر اہل اسلام محو دُعا و
حلم ہوئے۔

وہاں اہل اسلام کو حکم ہوا کہ ”دار اللہ“ کا ”دور“ رمل کر کے ادا کر دو۔
اہل اسلام اسی حکم کے عامل ہوئے۔ اللہ والے اللہ کے گھر کے گرد گھوم گھوم کر دل
کھول کر سرور ہوئے۔

لے حضرت عبداللہ بن رواحہ بجز اور ہدی پڑھ رہے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند
فرمایا اور کہا اے رواحہ! پھر پڑھو۔ (امح السیر، طبقات ابن سعد، سیرت معظمی ص ۱۶۲)
لے رمل اس کو کہتے ہیں کہ طواف کے پہلے تین چکر دوڑ کر مکمل کئے جائیں۔

سرورِ عالمؐ وادِّ اللہؑ کے دُور کو مکمل کر کے سوئے مسیحی اُٹے اور وہاں اکر سعی کی۔
سعی مکمل ہوئی۔ حکم ہوا کہ ہدی لاؤ۔ ہدی لائی گئی۔ اللہ کے لئے اُس کو کاٹا اور اس طرح
عمرہ معهود مکمل ہوا۔

عمرے کی ادا نگئی سے اُدھر سرورِ عالمؐ اک عرصہ مکہ مکرمہ ہی رُکے رہے۔ اک اور اہم
معاملہ ہوا کہ رسول اللہؐ کے عمِ گرامی کی سالی سے وہاں رسولِ اکرمؐ کی عروسی ہوئی اور
وہ صالحہ سارے عالم کے مسلمانوں کی ماں ہوئی۔

عرصہ موعود مکمل ہوا۔ مکے والوں کے سردار و لدِ عمرہؑ کے ہمراہ رسولِ اکرمؐ سے اکر
ملے اور مضر ہوئے کہ سارے اہلِ اسلام کو لے کر مکہ مکرمہ سے سوئے معمورہؑ رسولِ لوطؑ۔
اس لئے کہ معاہدے کی دُوسرے عرصہ موعود مکمل ہوا۔ رسولِ اکرمؐ کا سانسے مسلمانوں کو
حکم ہوا کہ وہ معمورہؑ رسولِ رواں ہوں۔ اس طرح اہلِ اسلام عمرہ ادا کر کے اور دلوں
کی مُراد حاصل کر کے رسول اللہؐ کے ہمراہ سوئے معمورہؑ رسولِ رواں ہوئے اور راہ کے
سارے مراحل طے کر کے معمورہؑ رسولِ آگئے۔

مکے کے دوسرے داروں کا اسلام

ایسی سالِ مکہ مکرمہ کے دواہم اور سرکردہ سردار اسلام لا کر رسولِ اکرمؐ کے حامی
ہوئے۔ اوّل عمر و ولد العاص اور دوسرے مکہ والوں کا وہ سال کہ اسلام لا کر

لے مسنی۔ سفا اور مروہ کے درمیان وہ جگہ جہاں سعی کی جاتی ہے۔ یہ طے چلے میں یہ طے ہوا تھا کہ مکہ مکرمہ
پہن مسلمان تین دن رہیں گے۔ سہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سہ سہیل
بن عمرو۔ سہ حضرت عرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ قضاء کے بعد اسلام لائے۔

اسلام کے لئے ساری عمر لڑا اور رسول اکرم سے اُس کو ”خاتم النبیین“ کے اسم کا اکرام ملا۔
 عمرو ولد العاص کا دل اک عرصہ سے اسلامی احکام کے لئے مائل رہا۔ مگر مصالح کی دُور سے
 اسلام سے دُور کارہا۔ اس سال اُس کے دل کا اصرار ہوا کہ مٹی کے گھڑے ہوئے الملوں
 کی گمراہی سے دُور ہو کر اسلام کی راہِ ہدیٰ کا عامل ہو۔ اس ارادے کو لے کر
 مکہ کے اک سالار کے گھر گئے اور اُس سے کہا کہ ہم کو محسوس ہوا ہے کہ ہماری راہِ گمراہی او
 لا علمی کی راہ ہے۔ دل کا اصرار ہے کہ اس گمراہی کی دلدل سے الگ ہو رہو۔ ادھر
 اُس سالار کا دل اک عرصہ سے راہِ اسلام کے لئے مائل رہا۔ معاہدہ صلح کے سال وہ
 مکہ مکرّم سے راہی ہو کر راہ کے اک مرحلے اُکڑ کا وہ محلِ اہل اسلام کی ورودِ گاہ رہی۔
 وہاں رسول اللہ سے اس کو کلامِ الہی مسموع ہوا۔ اُسی لمحے سے اُس کلام سے اُس کا
 دل مسحور رہا۔ وہ گھڑے ہوئے اور کہا کہ واللہ! اے عمرو، اس گمراہی کی دلدل
 سے اُٹھو۔ اس طرح وہ ہر دوسرا مکہ مکرمہ سے سوا ہوا کہ عمودہ رسول اُٹے اور ہادی
 کامل سے ملے۔ دل کا حال کہہ کر رو اُٹھے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول ہمارے
 لئے اللہ کا کرم ہوا کہ ہمارے دل اسلام کے لئے مائل ہو گئے۔ اس طرح وہ ہر دو
 سردار اسی دم اسلام لائے۔ سارے اہل اسلام ہر دو کے اسلام سے کمالِ سرور ہوئے
 اللہ کے کرم سے وہ سالانہ مکہ سالِ اسلام ہوئے اور صدیہ اسلام کی مہمتوں کو سر کر کے لوٹے۔
 اسی سالِ اسلام سے مروی ہے کہ اسلام کا کلمہ کہہ کر رسول اللہ کے آگے ہوا اور
 کہا کہ اے رسول اللہ! اسلام سے دُور رہ کر اہل اسلام سے معرکہ آراء رہا ہوں۔
 اس لئے اللہ سے دُعا کرو کہ اللہ اُس دورِ لاعلمی کے اعمالِ سُوء کو محو کر دے۔ رسول اللہ
 کا کلام ہوا۔ ”اسلام اُس سے اول کے سارے اعمال کا ماحی ہے۔“

۱۰ حضرت علیؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و آلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولیدؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو

”سیف اللہ“ کا خطاب عطا فرمایا۔ ۱۱ ماجی۔ ۱۲ ثنائے زوال۔ ۱۳

اہلِ روم سے معرکہ اسلام

اس سے آگے مسطور ہوا کہ ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراسلے ارد گرد کے ممالک دامصار کے حاکموں کو لکھے گئے۔ رسول اللہ کے اک مددگار، اک مراسلہ لے کر مابِ روم کے اک عاملِ دلدغر کے لئے لے کر گئے۔ راہ کے اک مرحلے آکر رُکے۔ اُدھر اس عامل کو معلوم ہوا کہ معمرہ رسول سے اک آدمی آس کے لئے ہراسلہ لے کر آ رہا ہے۔ اُس مرحلہ راہ کے عامل کو حکم ہوا کہ رسول اللہ کے اُس مددگار کو روک کر اور محصور کر کے رکھو۔ رسول اللہ کے وہ مددگار محصور ہو گئے اور آلِ کار اُس عامل کا حکم ہوا کہ اس عاملِ مراسلہ کو مار ڈالو۔ اس طرح رسول اکرم کے وہ مددگار اُس اہلِ روم کے حکم سے مارے گئے۔

سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا حال معلوم ہو کر کمال دکھ ہوا۔ رسول اکرم عمرہ معمرہ ادا کر کے لوٹے۔ ارادہ ہوا کہ روم کے اس عامل کے لئے اک عسکر اسلام معمرہ رسول سے راہی ہو اور اُس عامل سے معرکہ آراء ہو۔ دس دس سو کے دو ادراک رسالے اہلِ اسلام کے اس معرکے کے لئے آمادہ ہوئے۔ رسول اکرم کے ”ہمدیہ ولد“ کو اس عسکر کی سالاری عطا ہوئی اور حکم ہوا کہ اگر اس عسکر کا سالار

لے غزوہ موتہ: اگرچہ آنحضرت اس میں تشریف نہیں لے گئے مگر علامتِ حدیث اس کو غزوہ ہجری کے نام سے لکھتے ہیں۔ یہ حضرت حارث بن غیر ازدی و شرجیل بن عمر کے لئے مکتوب نبوی لے کر گئے۔ یہ فیہ روم کا اک گورنر شرجیل بن عرفانی۔ یہ غزوہ موتہ میں تین ہزار مجاہدین نے شرکت کی۔ یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ:

اول اللہ کی راہ لڑ کر اللہ کے گھر کو سدھارے۔ اسلام کا علم عجم سرور کے ولد کو ملے۔ اگر وہ اسی طرح لڑ کر دارالسلام کو راہی ہو، ولدِ رواحہ علمِ اسلامی کے حامل ہو کر معرکہ آراء ہوں اور اگر سالارِ سوم ہر دو علمداروں کی طرح دارالسلام کو راہی ہوں اہلِ اسلام کا علمدار وہ آدمی ہو کہ سارے اہلِ اسلام اُس کے لئے ہم راہی ہوں۔ اسی کلامِ رسول کی دُوسرے اس معرکہ کا دُوسرا اسم ”عسکرِ الامراء“ ہے۔ ہندوِ ولد کو حکم ہوا کہ اول اُسی بمصر وارد ہو کر وہاں حاملِ مراسلہ اور رسول اللہ کے مددگار مقرر رہے اور ماہے گئے۔ اول لوگوں کو اسلام کے لئے آمادہ کرو۔ اگر آمادہ ہوں اللہ کی حمد کرو اور اگر وہ دُور گرداں ہوں اللہ سے دُعا کر کے معرکہ آرائی کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عسکر کے ہمنام و داع کی کھائی آئے اور وہاں سے عسکرِ اسلامی کو الوداع کہا۔ رسول اللہ کو الوداع کہہ کر ولدِ رواحہ رو اُٹھے۔

عسکرِ اسلامی وہاں سے رواں ہوا۔ وداع کی گھاٹی سے لوگوں کی صدا آئی کہ اللہ سارے لوگوں کو کامگار و سالم لوٹا کر لائے۔ ولدِ رواحہ کہ ساری عمر اللہ اور اُس کے رسول کے دلدادہ رہے۔ کہہ اُٹھے کہ۔

”اے لوگو! دل اس ارادے اور اُس سے دُوسرے کہ لوٹ کر آؤں، دل کی اُس اور دل کی لو لگی ہے کہ ولدِ رواحہ کو اس معرکہ سے گہرا گھاؤ لگے اور اس طرح کا کاری گھاؤ آئے کہ وہ اسی گھاؤ سے اللہ کے گھر آ کر اللہ سے ملے اور ہر آدمی اُس کی حمد آ کر کہہ اُٹھے کہ واہ کس طرح کا دلاور اور کامگار آدمی ہے“

۱۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ۳۵ غزوہ موتہ کا دُوسرا نام حبشی الامراء ہے راجع السیرت مصطفیٰ ص ۱۶۹ ج ۲۔ ۲۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے ذوقِ شہادت سے بے پروا چند اشعار پڑھے، ان اشعار کا مفہوم اوپر دے دیا گیا ہے :-

اس طرح عسکرِ اسلامی معمورہ رسول سے رواں ہوا اور راہ کے دس ہاں محل طے کر کے اک محل آکر رُکا۔ اُدھر دوم کے اُس عامل کو اس عسکرِ اسلامی کے آمد کی اطلاع ملی۔ وہ اک لاکھ دومی لوگوں کا عسکر لے کر لڑائی کے لئے آمادہ ہوا۔ اُدھر ملکِ دوم اک لاکھ کے عسکر کے ہمراہ اک دوسرے محل آکر وارد ہوا کہ دوم کے عامل کی مدد کرے۔ اس طرح دو لاکھ اعدائے اسلام کا ٹڈی دل اہل اسلام سے متحرک آرائی کے لئے آمادہ ہوا۔ اہل اسلام کو اس محل آکر اعدائے اسلام کے اس ٹڈی دل عسکر کا حال معلوم ہوا۔ کہاں وہ دو لاکھ کا عسکرِ طراد اور کہاں اسلام کے وہ محدود رسالے۔ اس لئے عسکرِ اسلامی اس محل رُک رہا اور اک دوسرے سے رائے لی کہ اس مسئلہ کا حال کس طرح ہو؟ اہل اسلام کے سرکردہ لوگوں کی رائے ہوئی کہ کسی کو معمورہ رسول ارسال کر کے سارے احوال کی اطلاع رسول اللہ کو درِ مگر دلدیرِ واجہ اُٹھے اور اک دھواں دھار کلام کر کے عسکرِ اسلامی سے اس طرح ہم کلام ہوئے۔

”اے اللہ والو! اس مہم سے ہمارا اصل مدعا اس امر کا حصول ہے کہ ہم اللہ کی راہ اللہ کے حکم کے لئے سر دے کر اللہ کے آگے کامگار ہوں۔ اسی لئے ہم معمورہ رسول سے راہی ہوئے۔ عدد اور اسلحہ کا سہارا اعدائے اسلام کا سہارا ہے۔ ہمارا واحد سہارا اللہ ہے۔ دوسرا دوس سے اک مراد ہمارے لئے ہر حال لکھی ہوئی ہے۔ اگر لڑکر مارے گئے اللہ کے گواہ ہوئے اور وہی ہمارے دلوں کی مراد ہے اور اگر کامگار لوٹے وہ اللہ کا کرم اور ہمارے دلوں کا سرور ہوگا۔“

۱۔ مقامِ ممان آکر معلوم ہوا کہ شہزادِ ایک لشکر۔ بکر مقامِ بلقاء میں جمع ہوا ہے (سیرتِ مصطفیٰ ص ۱۶۱) ۲۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے بڑی مؤثر تقریر کی اور کہا کہ مقابلہ کرو۔ دجلیائیوں میں سے ایک بجلائی ضرور حاصل ہوگی۔ شہادت یا فتح۔ (سیرتِ مصطفیٰ ص ۱۶۱ ج ۲) ۳۔

توصلے اور دلولے سے معمر اس کلام سے عسکر اسلام کو اک دُوح مل گئی۔ سارے لوگ کہہ اُٹھے کہ ولیدِ راحہ کا کلام ہمارا ہی مُراد ہے۔ اُسی دَم سارے لوگ توصلے اور دلولے سے معمر ہو کر اُٹھے اور دلا لاکھ کے ٹڈی دَل سے معرکہ اُڑائی کے لئے آمادہ ہو کر وہاں سے راہی ہوئے۔

اس طرح عسکر اسلام وہاں سے رواں ہو کر راہ کے مراحل طے کر کے دُوم کے اُس مہر آ کر رُکا کہ وہاں حاکمِ روم کا اک عامل عسکر لئے لڑائی کے لئے اکٹھا ہوا۔ اِدھر اعداءِ الشّر کے اک لاکھ لوگوں کا مسلح ٹڈی دَل اور اِدھر محدود الشّر والوں کا گروہ، الشّر کی مدد اور اُس کے کرم کے احساس سے مسلح اور رسولِ الشّر کی دُعاؤں کے سہارے اُس عسکرِ طرار کے آگے آڈھا۔ رسولِ الشّر کے ہدم اور سالارِ اسلام مسلم ہو کر اوّل اوّل اس معرکے کے لئے عسکرِ اسلامی کے ہمراہ ہوئے۔

ہدم دلد اور عمارِ اسلام کا حکم ہوا کہ عسکرِ اسلامی حملے کے لئے آمادہ ہو۔ ہر دو عسکر اک دوسرے کے آگے آڈٹے اور لڑائی کا سلسلہ ہوا۔ ہدم و لد عسکرِ اسلامی کا علم لئے اہلِ اسلام کے آگے رہے اور اعدائے اسلام سے دل کھول کر لڑے۔ اور اعدائے اسلام کے گرد ہوں کو دُور دُور گھس کر حملے کے لئے لاکار اور کئی اعدائے اسلام مارے گئے۔ مگر اک محلِ اکر وہ اعدائے اسلام کے اک گروہ کے محصور ہو گئے۔ ہر سُو سے اعدائے اسلام ٹوٹ کر حملہ آور ہوئے اور آلِ کار وہ اک کادی دار سے گھاٹل ہو کر گرے۔

دلِ عِلم سر دارِ رسولِ الشّر کے حکم کی دُوسے عمارِ اڈل کے ساتھے ساتھے لگے رہے۔ اِدھر ہدم دلد گھاٹل ہو کر گرے، اُدھر عِلم سر دار کے دلد دوڑے اور عِلمِ اسلامی کو اُٹھا کر حملہ آور ہوئے۔ وہ اس توصلے اور دلاوری سے لڑے کہ کوئی

لے حضرت خالد بن ولید اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے اسی غزوے میں شریک ہوئے۔

اس طور سے کم لڑا ہو گا۔ ادھر ادھر گھوم گھوم کر اعدائے اسلام کو ہلاک کر کے لوٹے۔
 ادھر آئے ادھر گئے۔ بآل کاہ اک کاری دار لگا اور ساعدِ اول اُس دار سے کٹ کر
 گرہا۔ مگر حوصلہ اسلام سے معمور وہ اللہ والا دوسرے ساعد سے علم اٹھا کر اُسی طرح
 اعدائے اسلام سے معرکہ آرا رہا اور وہ ہر طرح دلاوری سے ادھر ادھر حملہ آور ہوئے
 مگر اک حملہ اس طرح کا ہوا کہ دوسرا ساعد کٹ کر گرہا۔ مگر واہ دے حکمِ الہی کا احساس
 کہ علمِ اسلامی کو گلے اور صدر کے سہارے سے اٹھا کر سامی رہا کہ علمِ اسلامی کھڑا
 رہے۔ ولیدِ واحد کو اللہ کے رسول کے حکم کا احساس رہا۔ وہ ہر لمحہ ولیدِ عمِ سرور کے
 ہمراہ رہے۔ مگر ولیدِ عمِ سرور ہر دو ساعدوں سے محروم ہو کر اللہ کے گواہ ہو کر دارِ السلام
 کو سدھارے اور رسولِ اکرم کا اُس کے لئے کلام ہوا کہ دارِ السلام آکر اس کو طاہروں
 کی طرح دو ساعد ملے۔

ولیدِ واحد علم لے کر آئے۔ اُس کا دل وصالِ الہی کے احساس سے کمال
 مسرور رہا۔ رسول اللہ کے کلام سے اُس کو معلوم رہا کہ وہ اس معرکہ سے گھائل
 ہو کر دارِ السلام کو رواں ہوں گے اور وہ اُس لمحے کے لئے اس طرح مسرور رہے کہ
 ماسوا سے الگ ہو کر وہ اسی اُس کو گلے لگائے رہے کہ وہ لمحہ معبود آئے کہ وہ
 لہو لہو ہو کر اللہ کے آگے کامکار و سرور ہو کر آئے۔

علمدارِ اسلام ہو کر وہ اعدائے اسلام کے لئے حملہ آور ہوئے اور کمالِ جنگلی
 اور دلاوری سے اعدائے اسلام کے آگے ڈٹے رہے۔ بآل کاہ وہ لمحہ مسعود کہ اُس
 کے لئے دل کی نو لگائے رہے آگے رہا اور وہ گھائل ہو کر گرے اور مردولی
 کے حامل ہوئے۔

لے ساعد: بازو لے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جعفر بن ابی طالب کو جنت میں
 دو پرستے جن سے وہ اُٹتے پھرتے ہیں، اسی لئے اُن کا لقب جعفر طیار ہے۔

سالارِ اسلام کی حوصلہ داری

ولیدِ راحہ (اللہ اُس کو دارِ السلام کا مسرور عطاء کرے) کے وصال سے اک مسئلہ کھڑا ہوا کہ عسکرِ اسلام کی سالاری کس کو ملے۔ مگر کہ وہ لوگوں کی رائے ہوئی کہ اسلام کا علم ہمدِ سالار کو ملے۔ اس طرح ہمدِ سالار اس عسکر کے علمدار ہوئے۔ اسلام لا کر وہ کمالِ طول رہے کہ مگر ابی اور لا علی سے وہ اہلِ اسلام کے عدو رہے اور رسول اللہ سے معرکہ اُعد لڑے اور اُس کے حملے سے اہلِ اسلام کو دھکا لگا۔ دل کی مراد یہی کہ کسی طرح وہ اس امر کا اہل ہو کہ اسلام کے لئے اعدائے اسلام سے لڑ کر اور کوئی معرکہ مہر کر کے دل کو مسرور کرے۔ عسکرِ اسلامی کا علم ملا۔ سارے عسکر کو سرے سے آمادہ کر کے گھوڑا دوڑا کر حملہ آور ہوئے اور سالاری کے امور اس عمدگی سے مکمل ہوئے کہ عسکرِ اسلام کو سرے سے اک دُوح سی مل گئی۔

وہ اس دلاوری اور ولولہ کاری سے معرکہ آراء ہوئے کہ اِدھر وہ حملہ آور ہوئے اور اُدھر اعدائے اسلام لڑ کھڑائے۔ عسکرِ اسلامی کے اک اک حصے کو حملے کے لئے آگے لائے اور کمالِ عمدگی سے عسکرِ اسلام کو اکٹھا دکھا کہ وہ مل کر اعدائے اسلام کے لئے حملہ آور ہوں۔ اس طرح ہمدِ سالار کی علمداری سے عسکرِ اسلام کمالِ محکم رہا اور مسلسل حملہ آور رہا۔

اس طرح اہلِ اسلام کے مسلسل حملوں اور ہمدِ سالار کی عمدہ مساعی اور کمالِ دلاوری سے معرکہ کا حال اہلِ اسلام کے لئے ہموار ہوا۔ کہاں وہ اللہ والوں کا کم عدد اور کم

لہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ موتہ میں لڑتے لڑتے میرے ہاتھ سے نو تلواریں

ٹوٹیں، صرف ایک یعنی تلوار میرے ہاتھ میں باقی رہی۔ (سیرتِ مصطفیٰ ص ۱۶۶ ج ۲) :-

اسلحہ گروہ اور کہاں ہر طرح سے مسلح اہل روم کا اک لاکھ لوگوں کا ہڈی دل مگر اللہ کا سہارا سارے سہاروں سے سوا محکم سہارا ہے۔ اُسی کرم کے سہارے اہل اسلام عدد اور اسلحہ کے احساس کو دور کر کے لوہے اور اسلحہ کی آس کالی گھٹا کے آگے آڈٹے۔ اسی لئے اللہ کی مدد آئی اور اللہ والوں کا وہ گروہ اعدائے اسلام کے اک لاکھ کے عسکر کو ہوا کر کے رہا۔

اعدائے اسلام کے صدمہ لوگ ہلاک ہوئے اور اہل اسلام کی حوصلہ کاری اور معرکہ آرائی کے اطوار کا مطالعہ کر کے دلوں کے حوصلے سر ہو گئے۔ اعدائے اسلام اک اک حقہ کر کے سمٹ کر معرکہ گاہ سے ہٹے اور اس طرح معرکہ گاہ سے ہٹ کر اہل اسلام کے کاری جھلنوں سے رہا ہوئے۔

ادھر سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معرکہ کے احوال کی اطلاع ملا تب کے واسطے سے دی گئی۔ ادھر ہمدان ولد علمدار اول لڑ کر مارے گئے۔ ادھر رسول اکرم سے لوگوں کو اطلاع ملی کہ ہمدان ولد مارے گئے اور اللہ اس سے مسرور ہوا۔ اطلاع دی کہ ویدیم سرور علمدار ہو کر آگے آئے اور مارے گئے اور اس کے دو ساعد کاٹ کر گرے اور اس کو اللہ کی درگاہ سے دو ساعد عطا ہوئے۔ ادھر ولید و احبہ کو علم ملا، ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوا کہ ولید و احبہ کو علم ملا اور وہ لڑ کر مارے گئے۔ سارا حال کہہ کر سرورِ عالم رہ گئے۔

ولد سعد، والدِ عامر سے مروی ہے کہ ہمدان سالار علمدار ہوئے اور اس طرح حملہ آور ہوئے کہ اس کے حملوں سے اور عمدہ کامگاری اہل اسلام کو ملی۔ اس معرکہ سے کل دس اور دو مسلم اللہ کے گواہ ہو کر دارالسلام کو سدھا رہے۔

۱۔ طبقات ابن سعد۔ حصہ اول۔ (دیرت مصطفیٰ ص ۱۶۷ ج ۱۲) ۲۔ ابن سعد ابو عامر۔

(دیرت مصطفیٰ ص ۱۶۷ ج ۱۲)

ولدِ عمرِ راوی ہوئے کہ ولدِ عِتمِ سرورِ اکوہمِ معرکہ گاہ سے مُردہ اٹھا کر لائے۔
اس معرکہ سے اُس کو دس کم سو گھاؤ لگے۔

اس طرح عسکرِ اسلام کا مگادوسرور ہو کر معمورہ رسولِ نونا۔ ہادی عالمِ صلی اللہ
علیٰ رسولہ وسلم اس عسکر کی آمد کے لئے معمورہ رسول سے آگے آکر کھڑے ہوئے
اور اس کے ہمراہ معمورہ رسولِ نونے۔

سلاسل کی مہم

اہلِ روم سے معرکہ اسلام کو اک ماہ کا عرصہ ہوا کہ سرورِ عالم صلی اللہ علیٰ رسولہ وسلم
کو معلوم ہوا کہ معمورہ رسول سے دس مرحلے ادھر ملکِ روم کی سرحد کے اک مصر،
سلسل کے لوگ اہلِ اسلام سے معرکہ آرائی کے لئے اکٹھے ہو کر آمادہ ہوئے کہ وہ
معمورہ رسول کے لئے حملہ آور ہوں۔

عمر و ولدِ العاص کو سرورِ عالم صلی اللہ علیٰ رسولہ وسلم کا حکم ہوا کہ وہ سو اور
دوسو لوگوں کو ہمراہ لے کر سلسلِ رواں ہوں اور اعدائے اسلام کے اُس
گروہ سے معرکہ آراء ہوں۔ عمرو ولدِ العاص اہلِ اسلام کے اس رسالے کے سالار
ہو کر معمورہ رسول سے رواں ہوئے اور سلسل سے کئی مرحلے ادھر آکر دُکے۔

وہاں آکر معلوم ہوا کہ گروہِ اعداء کا عدد اہلِ اسلام سے کئی حدِ سوا ہے۔ اس لئے
عمرو ولدِ العاص کی رائے ہوئی کہ عسکرِ اسلام اُسی محلِ رکاب ہے اور وہاں سے
اک آدمی معمورہ رسول رواں ہو اور سرورِ عالم صلی اللہ علیٰ رسولہ وسلم کو اُس کی
اطلاع دے اور کہے کہ عسکرِ اسلامی کی مدد کے لئے ملکِ ارسال کرو۔ اس ملک

لے اس کو غزوہ ذاتِ السلاسل کہتے ہیں سلسلِ پانی کے ایک چشمے کا نام تھا مسلمانوں کا لشکر وہاں ٹھہرا
یہ اسی لئے اس کو ذاتِ السلاسل کی مہم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مٹھ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ

کو ہمراہ کر کے ہم اُس گروہ سے معرکہ آرائی کے لئے آگے رواں ہوں۔ سارے لوگوں کی رائے سے اک آدمی معمولہ رسول کے لئے رواں ہوا اور عسکرِ اسلام اُسی محل کا رہا۔

ادھر سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اُس آدمی سے اطلاع ملی کہ عسکرِ اسلام ملک کی اُس لگائے راہ کے اک مرحلے کا ہوا ہے۔ اس لئے اک ہندم کو حکم ہوا کہ وہ دو سو اہل اسلام کو ہمراہ لے کر رواں ہو اور دوڑ کر عسکرِ اسلامی سے آئے۔ اس طرح دو سو اہل اسلام کا اک اور رسالہ عمرو ولد العاص کی مدد کے لئے ارسال ہوا۔ وہ ہندم رسول اس رسالے کو لے کر رواں ہوئے اور عسکرِ اسلامی سے آئے۔ عسکرِ اسلامی وہاں سے رواں ہو کر سلسل کے پھر آکر رکا۔ ادھر عسکرِ اعداء لڑائی کے لئے آمادہ ہوا۔ عمرو ولد العاص کا حکم ہوا کہ عسکرِ اسلامی حملہ آور ہو۔ اہل اسلام کا اول ہی حملہ اس طرح کڑا ہوا کہ گروہ اعداء اس حملے سے ادھر ادھر ہو گئے۔ اور مال کا معمولی لڑائی کر کے سارے گروہ معرکہ گاہ سے دوڑ کر دوڑے۔ اہل اسلام گروہ اعداء کے اموال کے مالک ہوئے۔ عسکرِ اسلام اک عرصہ وہاں کا رہا۔ مال کا عمرو ولد العاص کا مگاد و سرورِ معمولہ رسول لوٹ آئے۔

ساحلی گروہ کی اک مہم

دو اربع مہ کے آٹھواں سال ہے۔ ماہِ صوم سے دو ماہ ادھر سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اک مہم سوائے ساحل ارسال کی گئی کہ ساحلی گاؤں کا اک گروہ سر اٹھا کر لڑائی کے لئے آمادہ ہوا۔ ہندم رسول عمرِ مکرم اس مہم کے ہمراہ

۱۔ حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ۲۔ یہ سیرہ خطبہ کے نام سے مشہور ہے۔ لغت میں خطبہ کے معنی پتے جھاڑنے کے ہیں۔ اس میں صحابہ کرامؓ نے درختوں کے پتے جھاڑ جھاڑ کر کھائے اور اس سے صحابہ کرامؓ کے ہونٹ زخمی ہو گئے۔ (سیرت مصطفیٰ ص ۱۸۷ ج ۲) ۳۔

رہے۔ مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ اس رسالے کا سالار رسول اکرم کا وہی ہمدم ہو کہ عمر و ولد العاص کے لئے ملک لے کر تسلسل کے مصر کے لئے رواں ہوا۔

اہل اسلام معمودہ رسول سے رواں ہو کر اُس ساحلی گاؤں آئے۔ ادھر اُس ساحلی گروہ کو معلوم ہوا کہ اہل اسلام کی اک مہم اس گروہ کے لئے ارسال ہوئی ہے۔ وہ گروہ حوصلہ ہار کر لڑائی کے ارادے سے دور ہوا اور اہل اسلام کی آمد سے قبل ہی سارے لوگ وہاں سے ہٹ کر ادھر ادھر ہو گئے۔ اللہ والوں کا گروہ اس ساحلی گاؤں آکر ٹھہرا اور آمادہ رہا کہ اگر کوئی عدو لڑائی کے لئے آمادہ ہو، اُس سے معرکہ آرا ہو مگر ہر گروہ اس حوصلے سے دور رہا۔

اہل اسلام کا وہ رسالہ کوئی اک ماہ وہاں رکا رہا۔ اکل و طعام کی ساری رسد حقہ حقہ کر کے اٹھ گئی اور اہل اسلام طعام سے محروم ہو گئے۔

اللہ والوں کے لئے اللہ کی مدد آئی اور اللہ کے حکم سے اک موٹی سمک مُردہ ہو کر ساحل سے آگئی۔ دور سے وہ سمک مُردہ لوگوں کو اک کوہ کی طرح لگی۔ دفعتاً کر اُدھر آئے۔ اُس کوہ کی طرح موٹی سمک کو حاصل کر کے اہل اسلام کمال سرور ہوئے۔ مگر معاً لوگوں کو احساس ہوا کہ اہل اسلام کو مُردار حلال کہاں؟

سرور رسالہ کا حکم ہوا کہ اس حال ہم کو مُردار حلال ہے۔ اک عرصہ سے ہم طعام سے محروم رہے۔ وہ سمک ہمارے لئے اللہ کی عطا ہے۔ اس لئے اس کو چھوڑے ٹکڑے کر کے کھاؤ۔ اس طرح اہل اسلام اُس سمک مُردہ کے آگے آئے اور وہ سمک مُردہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے آدھے ماہ سے سوا عرصہ کھاٹی گئی۔ سرور رسالہ

کے حکم سے اُس سمک کے صدر کی ہڈی لے کر کھڑی کی گئی کہ اُس کی موٹائی اور طول معلوم ہو۔ اک آدمی کو حکم ہوا کہ وہ سوار ہو کر کھڑا ہو۔ اُس ہڈی کا طول اُس سوار سے سوار ہوا۔

اس مہم سے لوٹ کر سارے لوگ محمودؑ رسول آئے اور ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اُس سمکِ مردہ کا سارا حال کہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ اہل اسلام کے لئے وہ سمک اللہ کی درگاہ سے عطاء کی گئی اور کہا کہ اگر اُس لحم کا کوئی ٹکڑا ہو، ہمارے لئے لاؤ۔ رسول اکرم اُس سمک کا لحم کھا کر مسرور ہوئے۔



۱۔ حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ ہم لوگوں نے اُس پھلی کی اضلاع کی دو ہڈیوں کو کھڑا کیا اور سب سے اونچے اونٹ پر سب سے لمبا آدمی سوار کیا اور اس کے نیچے سے جانے کے لئے کہا تو وہ ہڈی سے ٹکرائے بغیر گزریا۔ (اصح السیرۃ ص ۲۸) ❖

۱۰ معرکہ مکہ مکرمہ

معاهدہ صلح کے سال اہل اسلام اور اہل مکہ طے کر کے اٹھے کہ اس ملک کا ہر گروہ اس امر کا مالک ہوگا کہ وہ اہل اسلام اور اہل مکہ کے ہر دو گروہوں سے کسی گروہ کا حامی ہو کر رہے۔ اسی لئے مکہ مکرمہ کا اک اہم گروہ اہل اسلام کا حامی ہوا۔ اور اُس کا عدد گروہ اہل مکہ کا حامی ہو کر رہا۔ ہر دو گروہ معاہدے کی رُو سے مامور ہوئے کہ دس سال کے عرصے کے لئے وہ اک دوسرے سے لڑائی کے معاملوں سے الگ ہوں گے۔ گروہ گروہ کہ اہل مکہ کا حامی ہوا آمادہ ہوا کہ اسلام کے حامی گروہ کو لا علم رکھ کر معاً اُس کے لئے حملہ آور ہوا اور اُس کے لوگوں کو مار ڈالے۔ اس کام کے لئے اُس گروہ کا سردار مکہ مکرمہ آکر وہاں کے لوگوں سے ملا اور کہا کہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے حامی اس گروہ کے لئے حملہ آور ہوں۔ اس معاملے کے لئے ہماری مدد کرو۔

گو اہل مکہ معاہدے کی رُو سے مامور رہے کہ وہ اس طرح کے معاملوں سے الگ ہوں۔ مگر اسلام اور اہل اسلام سے حسد کی آگ سے وہ آمادہ ہو گئے اور وعدہ ہوا کہ اسلحہ اور لوگوں سے اُس گروہ کی مدد کر کے سرور ہوں گے اور مکے والوں کو اُس ہی کے رسول اکرمؐ اس معاملے سے لا علم ہوں گے۔

اس طرح وہ مکے والوں کا حامی گروہ مکے والوں کی مدد سے مسلمانوں کے حامی

۱۰ فتح مکہ مکرمہ۔ ستہ قریش کے دو قبیلے بنو خزاعہ اور بنو یکرمہ دوسرے کے دشمن تھے۔ صلح حدیبیہ میں بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف ہو گئے اور بنو یکرمہ اہل مکہ کے حلیف ہو گئے۔

گروہ کے محلے آکر اور اُس کو لا علم رکھ کر حملہ آور ہوا اور اُس لا علم گروہ کے کئی آدمی مار ڈالے۔ گھروں کو لوٹ کر اُس گروہ کے اموال لوٹے۔ وہ اسلحہ سے محروم اور لا علم گروہ اس حملے سے ڈر کر سوائے حرمِ دُور اکہ وہاں اللہ کا گھر ہے اور وہ لوگ گروہِ عدو کے حملوں سے دُور ہوں گے۔ مگر اُس گروہ کے لوگ حرم آگئے اور وہاں آکر لڑائی کا اُسی طرح سلسلہ رکھا۔

اہلِ اسلام کئی سو کوس دُور اس معاملے سے لا علم رہے۔ ادھر مسلمانوں کے حامی گروہ کا اک سردار عمرو ولد سالم کئی لوگوں کو ہمراہ لے کر مکہ مکرمہ سے رہا ہی ہوا کہ وہاں آکر سارے احوال کی اطلاع رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کے امداد کا سائل ہو۔

ادھر اُسی لمحہ اللہ کے حکم سے رسول اللہ کو اللہ کی وحی آئی اور اس لڑائی کا سارا حال معلوم ہوا اور مسلمانوں کے حامی گروہ کی وہ لاکھ مسموع ہوئی کہ رسول اللہ کی امداد کے لئے اُٹھی۔ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اُٹھے اور کہا ”آہا ہوں! آہا ہوں!“ گھروالے لا علم رہے کہ وہ کلام کس سے ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ مکے والے معاہدہ صلح سے دُور گراں ہو گئے اور مسلمانوں کے حامی گروہ کے لئے حملہ آور ہو کر اُس کے کئی آدمی مار ڈالے۔

عمرو ولد سالم کئی لوگوں کے ہمراہ معمورہ رسول آکر رسول اللہ سے ملے اور

۱۔ بنو خزاعہ اس محلے کے وقت پانی کے ایک چشمہ پر جس کا نام دتیر تھا سو رہے تھے، اچانک حملہ ہوا۔
 ۲۔ بنو خزاعہ نے حرم میں پناہ لی مگر وہ شقی لوگ حرم میں بھی قتال سے باز نہ آئے۔ (دیرت مصطفیٰ ص ۱۸۳) ۳۷۔
 ۳۔ روایات میں ہے کہ آنحضرت اُس وقت حضرت یمنہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں وضو کر رہے تھے۔ اُس وقت آپ نے بنو خزاعہ کی وہ فریاد سنی جو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے دوبارہ فرمایا، بیک بیک حضرت یمنہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ آج مکے والوں نے بنو خزاعہ کا قتلِ عام کر کے معاہدہ توڑ دیا۔ (تاریخ اسلام جلد اول ص ۲۱۸) :-

اس حملے کے مکمل احوال کی اطلاع دی اور کہا کہ

”اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم سدا اُسْرہ رسول کے حامی رہے۔ ہمارا گروہ اعداء کے حملوں سے گھائل ہوا اور اہل مکہ اُس گروہ کی مدد کو آئے۔ ہم کو اس حملے سے نا علم رکھ کر مارا۔ ہم اہل اسلام کے معاہدہ رہے۔ اس لئے اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) معاہدے کی دُور سے ہماری مدد کو آؤ۔“

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے احوال سے مطلع ہوئے اور کہا کہ حوصلہ رکھو اور سُوئے مکہ مکرّمہ لوٹو۔ لامحالہ اُس گروہ کی مدد کا وعدہ مکمل ہوگا۔ عمرو و ہلدیہ سالم لوگوں کو ہمراہ لے کر سُوئے مکہ لوٹے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ اک آدمی مکہ مکرّمہ راہی ہوا اور وہاں آکر لوگوں سے کہہ دے کہ رسول اللہ کے حکم سے کئی اُمور لے کر وارد ہوا ہوں۔ اول اُس کہ

- ۱۔ اے اہل مکہ! اس گروہ کے عہد سے الگ ہو رہو۔
- ۲۔ دوم اُس کہ ہمسلموں کے حامی گروہ کے مُردہ لوگوں کا ”صلہ دم“ ادا کرو۔
- ۳۔ سوم اُس کہ، کھل کر کہہ دو کہ ہم معاہدہ صُلح سے دُور گرداں ہو گئے۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اک آدمی ہر سہ اُمور لے کر مکہ مکرّمہ راہی ہوا۔

اہل مکہ کا ملال

اہل مکہ اُس گروہ کے حامی ہو کر وہ کارروائی کر گئے اور اُس گروہ کے لوگوں

لے آنحضرت نے پیغام بھیجا کہ ان تین باتوں میں سے کوئی بات اختیار نہ کریں۔ بنو بکر کی حمایت سے علیحدہ ہو جائیں یا بنو خزاعہ کے مقتولوں کی ویت لو کریں۔ یا معاہدے کے فسخ کا اعلان کر دیں۔

کو مار ڈالا۔ مگر اگلی سحر ہوئی۔ احساس ہوا کہ ہم اس گروہ کی مدد کر کے عملاً معاہدہ صلح سے دُور گرداں ہو گئے۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اس معاملے کی اطلاع لا محال ہو گئی اس طرح اہل مکہ کے لئے اک مسئلہ کھڑا ہو گا۔

رسول اکرم کا ارسال کردہ وہ آدمی مکہ مکرمہ آکر وہاں کے سرداروں سے ملا اور ہر سہ امور کی اطلاع دی۔ مکے والوں کا اک سردار ولید عمر و کھڑا ہوا اور کہا کہ ہمارے لئے محال ہے کہ ہم اول دو امور کے عامل ہوں۔ ہاں ہم آمادہ ہوئے کہ معاہدہ صلح سے الگ ہوں۔ رسول اللہ کا ارسال کردہ آدمی اس اطلاع کو لے کر معمورہ رسول لوٹا۔

مگر عملاً اہل مکہ کو احساس ہوا کہ معاہدہ صلح سے دُور ہو کر اہل اسلام مکہ مکرمہ کے لئے حملہ آور ہوں گے۔ اس لئے سارے لوگوں کی رائے ہوئی کہ مکے والوں کا سردار معمورہ رسول کے لئے راہی ہوا اور میرے سے معاہدہ کر کے لوٹے۔ مکے کا سردار اس ارادے سے مکہ مکرمہ سے راہی ہوا۔ اور معمورہ رسول آکر ہمد مکرّم سے ملا۔ ہمد مکرّم اُس کی مدد سے دُور رہے۔ وہ ہمد مکرّم عمر اور علی کثرہ اللہ سے آکر ملا اور ساعی ہوا کہ ہر دو کے واسطے سے معاہدہ صلح میرے سے مکمل ہو۔ مگر وہ ہر دو ہمد مکرّم سے الگ رہے۔ اُس کو محسوس ہوا کہ معاہدہ صلح کی راہ مسدود ہے اور محال ہے کہ وہاں اُس کی دال گلے۔ سو وہ سردار معمورہ رسول سے اُداس و محروم لوٹا۔

کئی دوسرے علما سے مروی ہے کہ وہ سردار اول رسول اکرم سے حرم رسول آکر

۱۔ ابوسفیان تجدید معاہدہ کے لئے مدینہ منورہ روانہ ہوا۔ ابوسفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہؓ کی زوجہ تھیں۔ ابوسفیان اُن سے ملنے کے لئے آیا تو ام المؤمنین ام حبیبہؓ نے بستر لپیٹ دیا۔ ابوسفیان نے پوچھا۔ بیٹی یہ بستر تو نے کیوں لپیٹ دیا؟ کہا یہ رسول اللہ کا بستر ہے اس پر ایسا آدمی نہیں بیٹھ سکتا جو تیرک کی بجااست سے آلودہ ہو۔ (سیرت مصطفیٰ ص ۱۸۵ ج ۲) :-

ملا اور صلح کے معاہدے کے لئے کہا۔ مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے معلوم ہوا کہ صلح کا معاملہ محال ہے۔ وہاں سے اگر وہ ہمدیم مکرم اور دوسرے دو ہمدیموں سے ملا۔ واللہ اعلم۔

معمورہ رسول کے لوگوں کو سارا حال معلوم ہوا۔ لوگوں کو آس رہی کہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہو گا کہ وہ مکہ مکرمہ کے لئے راہی ہوں۔

رحلہ مکہ، مکرمہ

اہل مکہ کی کمرہ علی سے معاہدہ صلح ٹوٹا اور اس طرح معرکہ مکہ مکرمہ کی راہ ہموار ہوئی۔ رسول اکرم کے حامی گروہ کے سردار سے وعدہ ہوا کہ اللہ کا رسول اس کی مدد کو آئے گا۔ اس لئے اہل اسلام کو حکم ہوا کہ وہ معرکہ مکہ مکرمہ کے لئے مسلح ہو کر اس رحلہ مسعود کے لئے آمادہ ہوں اور حکم ہوا کہ اس معرکہ سے عدائے اسلام کو لا علم رکھو اور گرد کے گرد ہوں کو حکم ہوا کہ وہ اکٹھے ہو کر مکہ مکرمہ کے لئے راہی ہوں۔

وداع مکہ کو آٹھ سال ہوئے۔ ماہِ صوم کی دس کو رسول اکرم کا حکم ہوا کہ اگلی سحر کو عسکرِ اسلامی سونے مکہ مکرمہ راہی ہو گا۔ اہل اسلام اس لمحہ کی اک عرصہ سے اس لگائے رہے۔ اس حکم سے کمال مسرور ہو کر رسول اکرم کی پہلی ہی کے اکرام کے لئے آمادہ ہو گئے۔

اگلی سحر ہوئی اور دس دس سو کے دس گروہ اہل اسلام کے اکٹھے ہو کر آمادہ ہوئے کہ رسول اکرم کے ہمراہ رواں ہوں۔ اس طرح اک عسکرِ طراد اہل اسلام کا معمورہ رسول سے رواں ہوا۔

راہ کے اک مرحلے آکر معلوم ہوا کہ رسول اللہ کے عزمِ مکرم مع گھروالوں کے اسلام لانے اور مکہ مکرمہ کو الوداع کہہ کر سوئے معمورۃ رسول رواں ہوئے۔ راہ کے اس مرحلے عزمِ مکرم رسول اللہ سے آکر ملے۔ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم عزمِ مکرم سے مل کر کمال مسرور ہوئے۔ عزمِ مکرم کے لئے حکم ہوا کہ وہ عسکرِ اسلامی کے ہمراہ ہوں اور گھروالوں کے لئے رائے ہوئی کہ وہ سوئے معمورۃ رسول راہی ہوں۔

رسول اکرم کے حکم سے عسکرِ اسلامی وہاں سے رواں ہوا اور راہ کے سارے مراحل طے کر کے مکہ مکرمہ سے کئی مرحلے اُدھر اک وادی کے وسط آکر رُکا اور حکم ہوا کہ وہ عسکرِ اسلامی کی وردگاہ ہو۔ رسول اللہ کا حکم ہوا کہ ہر آدمی الگ الگ آگ سلگائے۔ آگ سلگائی گئی۔ ساری وادی آگ کی لہروں سے دھک اٹھی اور دُور دُور کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ کوئی عسکرِ طرار وہاں آکر رُکا ہے۔ مکے والوں کو اُؤل ہی سے دھڑکا لگا رہا کہ معمورۃ رسول سے کوئی ردّ عمل ہوگا۔ مکے والوں کا سردار دوسرے دوسروں کے ہمراہ حصولِ احوال کے لئے مکہ مکرمہ سے راہی ہوا۔ ولای کے سرے آکر ہر سو آگ کے اُلؤ دکھائی دیئے۔ دل دھک سے ہوا۔ کہا کہ اس طرح کا عسکرِ طرار کس کا ہے؟ رسول اللہ کے ہر کارے اور عسکرِ اسلامی کی رکھوالی والے اُدھر آئے اور سرداروں کو محصور کر کے کھڑے ہوئے۔

عزمِ مکرم کو محسوس ہوا کہ رسول اللہ کا عسکرِ اہل مکہ کی معرکہ آرائی سے لامحالہ کامگاہ ہوگا۔ اس لئے اگر مکے والوں کو معلوم ہو کہ عسکرِ اسلامی حملہ آور ہو رہا ہے دل کو آس ہے کہ وہ اسلام لا کر اہل اسلام کے حامی ہوں گے۔ اس ارادے

۱؎ حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ اسلام تو پہلے ہی لایچکے تھے مگر خفیہ رکھے ہوئے تھے۔ ذی الحلیفین
۲؎ ابوہریرہؓ سے ملے۔ ۳؎ داؤد بن ابراہیم (تاریخ اسلام)

۴؎ ابوسفیان بن حرب، بدیل بن ورقاء اور حکیم بن حزام کے ساتھ مکے سے نکلا (سیرت مصطفیٰ ص ۱۵۶)

سے رسول اکرمؐ کی سوادِی ”دُلّی“ لے کر سوار ہوئے اور سوئے مکہ رواں ہوئے۔
 ادھر تک کے سوار کی صدا عِمّ مکرّم کو سموع ہوئی۔ عِمّ مکرّم ادھر آئے اور مکے کے
 سوار سے ملے اور کہا کہ اے سوار! وہ رسول اللہؐ کا عسکر ہے۔ اگر وہ کامگار
 ہو گئے لا محالہ سوار کے لئے حکم ہو گا کہ اُس کو ہلاک کر دو۔ مکے کا سوار اقل ہی
 سے ڈرا رہا۔ کہا کہ اے عِمّ رسول! ہماری رہائی کا کوئی سلسلہ کرو۔ کہا کہ اے
 سوار! میرے ہمراہ سوار ہو کر رسول اللہؐ سے ملو۔

عِمّ مکرّم اُس سوار کو سوار کر کے سوئے عسکر رواں ہوئے۔ عِمّ مکرّم عسکر کی
 رکھوالی کے ارادے سے ادھر آئے اور معلوم ہوا کہ عِمّ مکرّم کے ہمراہ سوار مکہ سوار
 ہے۔ حسام لے کر اُس سوار کے لئے دوڑے اور کہا کہ الحمد للہ مکے کا سوار
 ہمارا منحصر ہے۔

عِمّ مکرّم سوادِی دوڑا کہ رسول اللہؐ کے آگے آئے۔ ادھر عِمّ مکرّم دوڑے
 ہوئے وہاں آئے اور رسول اللہؐ سے کہا کہ اے رسول اللہؐ! وہ مکے کا سوار
 ہے۔ الحمد للہ کسی عہد کے علاوہ ہی ہم کو حاصل ہوا ہے۔ اس لئے اگر حکم ہو
 اس کا سر اُڑا دوں۔ عِمّ مکرّم آگے آئے اور کہا کہ
 وہ اے رسول اللہؐ! مکے کے اس سوار سے مرا عہد ہے کہ وہ ہلاکی سے

دُور ہو گا۔

عِمّ مکرّم مصر ہے کہ مکے کے سوار کے لئے ہلاکی کا حکم ہو۔ مگر سوادِی عالم کا حکم ہوا
 کہ اے عِمّ مکرّم اس سوار کو ہمراہ لے کر آرام گاہ کو لوٹو۔ اور اگلی سحر کو اس کو لے کر
 آؤ۔ اس طرح وہ سوار عِمّ مکرّم کے ہمراہ آرام گاہ آ گئے۔ مگر مکے کے دوسرے دو سوار اُسی
 لمحہ رسول اکرمؐ کے آگے آ کر اسلام لائے۔

ابو سفیان تو حضرت عباسؓ کے خیمے میں آئے۔ مگر عبد بن ورقاء اور عیم بن حزام اُسی وقت
 آنحضرتؐ کے پاس آ کر اسلام لائے۔

سردارِ مکہ کا اسلام

اگلی سحر ہوئی، رسول اللہ کے عظیم مکرم سردارِ مکہ کو لے کر ہادٹی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آکر ملے۔ رسول اکرمؐ اس سردار سے ہمکلام ہوئے اور کہا کہ اے سردار! دل کو ملال ہے کہ اس سارا عرصہ اسلام سے دور رہا۔ اے سردار! گواہ ہو کہ اللہ واحد ہے۔ کہا۔ اے رسول اللہ! حلم و کرم اور صلۂ رحمی کے حامل ہو۔ ہمارے مٹی کے الہ ہماری مدد سے عادی رہے۔ اس لئے معلوم ہوا کہ اللہ واحد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوا کہ گواہ ہو کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کا رسول ہے۔ کہا۔ واللہ! حلم و کرم اور عمدہ سلوک کے حامل ہو، مگر اسی دوسرے امر کے لئے دل آمادگی سے محروم ہے کہ ”در اصل اللہ کے رسول ہو“ عظیم مکرم سردارِ مکہ سے ہمکلام ہوئے اور مالِ کارِ سردارِ مکہ کا دل اسلام کے لئے آمادہ ہوا اور کہا کہ اے رسول اللہ! دل آمادہ ہوا ہے کہ اسلام لا کر دوسروں کی طرح براہِ ہدیٰ کا راہرو ہوں۔ اس طرح نکتے کے وہ سردار رسول اللہ کے آگے اسلام لے آئے۔

عظیم مکرم رسول اکرمؐ کے آگے آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول نکتے کا سردار اکرام کا عادی ہے۔ اس لئے اس کے لئے اس طرح کا کوئی حکم ہو کہ وہ نکتے والوں کا سردار معلوم ہو اور دوسروں سے سوا مکرم ہو۔ ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنحضرتؐ نے فرمایا کہ افسوس! اے ابوسفیان کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تجھے یقین ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ابوسفیان نے کہا اگر اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتا تو آج ہمارے کام آتا۔ پھر آپؐ نے فرمایا۔ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ توجہ کو اللہ کا رسول جانے۔ ابوسفیان نے کہا کہ میرے ماں باپ آپؐ پر خدا ہوں۔ مجھے اسی میں ذرا تردد ہے کہ آپؐ نبی ہیں یا نہیں۔ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔

ابوسفیان کی سچائی قابلِ ذکر ہے۔ (سیرت مصطفیٰ ص ۱۹۶ ج ۲) ۵۰

کا حکم ہوا کہ مکے والوں سے لڑنا نہ کرو کہہ دو کہ ہر وہ آدمی کہ مکے کے سردار کے گھر گھر آئے گا، اُس کو رہائی۔ ہر وہ آدمی کہ حرم آئے گا اُس کو رہائی ملے گی۔ اور ہر وہ آدمی کہ گھر کے کواڑ لگائے گا سالم رہے گا۔

اس حکم سے سردارِ مکہ کا دل کمال مسرور ہوا۔ اگلی سحر ہوئی، رسولِ اکرمؐ کا حکم ہوا کہ عسکرِ اسلامی اس وادی سے رواں ہو۔ اسلام کا وہ عسکرِ طرار سوئے مکہ مکر رہا ہی ہوا۔ عجمِ مکرم مکے کے سردار کو لے کر اک حقہ کوہ سے لگ کر کھڑے ہوئے۔ اسلامی عسکرِ گردہ گردہ کر کے غلیم لہرائے ہوئے رواں ہوا۔ اسلام کے غلو کا حال مطالعہ کر کے سردارِ مکہ کا دل اس عسکرِ اسلام کے ہول سے معمور ہوا۔ اس طرح سارے گردہ اک کر کے وہاں سے رواں ہوئے۔

اس حال کا مطالعہ کر کے سردارِ مکہ سوئے مکہ مکر سواہ ہو کر دوڑا اور مکے والوں کو صدا دے کر کہا۔ اے مکے والو! محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آگئے۔ واللہ وہ حاوی ہو گئے۔ مکے والوں کا حوصلہ کہاں کہ وہ اس سے معرکہ آراء ہوں۔ اس لئے اے لوگو! اسلام لے آؤ، سالم رہو گے۔ رسول اللہ کا حکم ہے کہ ہر وہ آدمی کہ حرم آ رہے گا، رہا ہو گا۔ ہر وہ آدمی کہ سردار کے گھر آئے گا اُسے رہائی ملے گی اور ہر وہ آدمی کہ گھر کے کواڑ لگالے سالم رہے گا۔ سارے مکے کے لوگ اُس کے گرد ہو گئے اور سارا حال معلوم کر کے دوڑے۔ کوئی سوئے حرم دوڑا اور کوئی گھر آ کر کواڑ لگا کر وہاں رکھا کہ ہلاکی سے دور ہو اور سالم رہے۔

رسولِ اکرمؐ کی مکہ مکرمہ آمد
ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محلہ کداء سے مکہ مکرمہ آئے۔ اللہ اللہ! وہی

مکہ مکرمہ ہے کہ آٹھ سال ادھر رسول اللہ وہاں کے لوگوں سے اُلام اور دکھ لے کر مولدِ مطہرہ سے دُور ہوئے اور وہاں رہ کر مکے والوں کے سارے صدمے سہے، مگر وہی اللہ کا رسول عسکرِ طرار کے ہمراہ اس طرح مکہ مکرمہ وارد ہوا کہ اُس کا دل اللہ کے ڈر سے معمور ہے۔ منہ سعد کو اس طرح گرائے ہوئے کہ دائی کو سواری کی لکڑی سے مَس کئے ہوئے ہے اور حرمِ النبی کے اکرام سے دل معمور ہے۔

ہمد سالار کو حکم ہوا کہ وہ رسالے کو لے کر محلہ ”کدئی“ سے مکہ مکرمہ وارد ہو۔ مکے کے سردارِ عکرمہ اور ولدِ عمرو مکے کے کئی لوگوں کو اکسا کر لائے اور لڑائی کے لئے آمادہ ہوئے اور حملہ کر کے سالارِ اسلام کے رسالے کے دو آدمی مار ڈالے۔ طوعاً و کرہاً سالارِ اسلام حملہ آوروں سے معرکہ آراء ہوئے اور اُس کے حملوں سے مکے کے دس سے سوا لوگ ہلاک ہوئے۔ سردارِ مکہ کی صدا آئی کہ لوگو! اسلام ڈال دو، سالم رہو گے۔ گھروں کو گھس کر کوڑ لگالو، سالم رہو گے۔ حرم آکر حملوں سے سالم رہو۔ اس طرح لوگ ادھر ادھر ہوئے اور مکہ مکرمہ کی کامگاری اہل اسلام کو حاصل ہوئی۔

سردارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی کامگاری حاصل کر کے ہمدوں اور مددگاروں کے ہمراہ سونے حرمِ رواں ہوئے۔ رسول اکرمؐ سوار ہو کر ہی ”دار اللہ“ کے آگے آئے اور سوار رہ کر ہی دار اللہ کا دورِ کَمَل ہوا۔ دار اللہ کے گرد رکھے ہوئے مٹی کے سارے الہ گرائے گئے اور الحمد للہ کہ اللہ واحد کے کلمے کو علو حاصل ہوا اور مکہ مکرمہ کے اُس مکرم گھر سے سارے مٹی کے الہ سدا سدا کے لئے

لے گئی۔ ہی کے پیش اور اربعہ مقصورہ کے ساتھ مکے کی جانب اسفل کو کہتے ہیں (سیرت مصطفیٰ ص ۲۳ ج ۲) لے حرمِ کعبہ کے گرد رکھے ہوئے بتوں کے پاس سے جب آنحضرتؐ گزرتے تو لکڑی سے اشارہ فرماتے اور وہ بت اوندھے ہو کر گر جاتے۔ آپؐ فرماتے جَاءَ الْحَقُّ وَذَهَبَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور وہ بت اوندھے منہ گر جاتا۔ (راجح السیر، طبقات ابن سعد) ❦

دور ہوئے اور مکے سے لاعلمی اور گمراہی دور ہوئی۔

”وَارِثُ الشَّرِّ“ کا دور مکمل کر کے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم دارِ اللہ کے در کے آگے اکھڑے ہوئے اور سارے لوگوں سے ہمکلام ہوئے اور کہا۔

”اے لوگو! اللہ واحد ہے، سارا عالم اُس کی ہمسری سے عاری ہے۔

اللہ کا وعدہ مکمل ہوا اور اُس کے رسول کی مدد کی گئی اور اُس کے

سارے اعداءِ مُسَوِّء اور طول ہوئے، دورِ گمراہی کی ہر رسم مٹادی

گئی۔ مگر اللہ کے گھر کو آئے ہوئے لوگوں کا اکرام و اطعام اسی طرح

رہے گا۔ اے لوگو! اے اہلِ مکہ! ہر طرح کی اکڑ سے دور رہو۔

ہر آدمی آدم کی اولاد ہے اور آدم مٹی سے مولود ہوا ہے۔ اللہ

کے آگے وہی سارے لوگوں سے سوا مکرم ہے کہ اُس کا دل سارے

لوگوں سے سوا اللہ کے در سے معمور ہے“

اس کلام کو کر کے رسول اللہ اکھڑے ہوئے اور مکے والوں سے کہا کہ اے

لوگو! معلوم ہے کہ اللہ کا رسول مکے والوں سے کس طرح کا سلوک کرے گا؟ اہل

مکہ آگے آئے اور کہا کہ ہم کو اللہ کے رسول سے عمدہ سلوک کی آس ہے۔ اس لئے کہ

ہمارے مکرم ہر دار کے ولد ہو اور ہمارے لئے مکرم ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

وسلم اٹھے اور کہا۔

”مکے والوں کے لئے ہمارا وہی کلام ہے کہ اللہ کے رسول حاکمِ مہر کا ہوا

کہ سارے لوگ رہا ہو کر گھروں کو لوٹو۔“

رسول اکرم کا اک ہمد کو حکم ہوا کہ ”وَارِثُ الشَّرِّ“ کے در سے اکھڑے ہو کر ”عمادِ

اسلام“ کے لئے عداں گاؤ اور عدائے اللہ احد سے سارا ماحول معمور ہوا۔ مکے

لے حاکمِ مہر سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ علیہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ

کے گمراہ اسلام کے غلو کا وہ سارا معاملہ کہ ساروں سے مطالعہ کر کے دل مسوس کر رہے تھے۔ مگر اللہ کا وعدہ مکمل ہوا اور اللہ واحد کا حکم حاوی ہو کر رہا۔

مکے کے سرکردہ لوگوں کا اسلام

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم عام ہوا کہ سارے مکے والے ہلاکی سے دور ہوئے۔ ہاں مگر وہ معدود لوگ کہ ساری عمر دوسروں سے سوا اللہ اور اُس کے رسول کے عداوت ہے۔ اس حکم عام سے الگ رہے اور لوگوں کو حکم ہوا کہ اعداء اللہ سے اگر کوئی کسی کو ملے ہلاک کر دے۔

عکرمہ کے لئے حکم ہوا کہ اگر وہ کسی کو ملے ہلاک کر دو۔ وہ مکے سے رہا ہی ہو کر سونے ساحل دوڑا۔ اُدھر اللہ کا حکم ہوا اور اُس کی گھر والی اسلام لے آئی۔ وہ اسلام لاکر ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آئی اور کہا کہ اے رسول اللہ! عکرمہ کو ہلاکی کے حکم سے رہائی دو اور اُس سے رحم و کرم کا معاملہ کرو۔ سرود عالم کا حکم ہوا کہ وہ ہلاکی کے حکم سے الگ ہوا۔

اُدھر عکرمہ ساحل آکر دوسرے ملک کے لئے سوار ہوا۔ مگر اللہ کا کرم ہوا کہ کڑی ہواؤں سے اُس کی سواری سونے ساحل لوٹی۔ عکرمہ کی گھر والی وہاں آئی اور عکرمہ سے کہا کہ سونے مکہ لوٹو اور ہمارے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آکر اسلام لے آؤ۔ عکرمہ کا دل اسلام کے لئے آمادہ ہوا اور وہ گھر والی

لے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت عام معافی کا اعلان کر دیا تھا۔ مگر چند لوگ جو غایت درجہ گستاخ اور بدیدہ دہن تھے۔ اُن کے متعلق حکم ہوا کہ جہاں کہیں ملیں، قتل کر دیئے جائیں۔ ایسے لوگ پندرہ یا سولہ تھے۔ تھے حضرت عکرمہ بن ابی جہل، فتح مکہ کے وقت اسلام لائے۔ تھے حضرت اُمّ حکیم رضی اللہ عنہا:-

کے ہمراہ سونے مکہ رواں ہوا۔

ادھر سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو اطلاع ملی کہ عکرمہ مسلم ہو کر آ رہا ہے۔ اس کے والد کے لئے سونے کلام سے الگ رہو۔ عکرمہ گھروالی کے ہمراہ آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ۔

”اے رسول اللہ! کس امر کا حکم لائے ہو“

کہا کہ اس امر کی گواہی دو کہ اللہ واحد ہے اور اس امر کی کہ اللہ کا رسول ہوں اور عبادِ اسلام کے لئے کھڑے ہو اور اللہ کے عطا کردہ مال سے ہر سال اسلام کا حق ادا کرو۔

اس طرح عکرمہ کا دل اسلام کے احکام کے لئے مائل ہوا اور وہ اسی دم
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُولُ اللَّهُ کہہ کر مسلم ہوا۔

سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ ہی رُکے رہے۔ مکے کے کئی سردار اسی طرح اک اک کر کے آئے اور اسلام لا کر راہِ ہدیٰ کے حامل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عم گمراہ کے دولٹ کے آکر اسی ماہ اسلام لائے۔ اسی طرح ولید عمرؓ کہ معاہدہ صلح کے سال رسول اللہؐ سے معاہدہ کر کے لوٹا۔ اسلام لا کر مسلمانوں کا حامی ہوا۔ اور دُور دُور سے لوگ آکر رسول اکرمؐ کے کلمہ اسلام کے گواہ ہوئے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ مکے کا ہر مسلم گھر سے مٹی کے لٹوں کو دُور کر ڈالے۔ اس حکم سے سارا مکہ مکرمہ مٹی کے لٹوں سے ظاہر ہوا۔ اس امر

لے ابولہب کے بیٹے: عتبہ و معتبہ۔ فرار ہو گئے تھے۔ حضرت عباسؓ ان کو پھٹا کر لائے اور وہ اسلام لائے۔
لے۔ مہ سہیل بن عمرو بھی فتح مکہ کے وقت اسلام لائے۔ :-

کو کر کے لوگوں کو حکم ہوا کہ ارد گرد کے وہ سارے صومعے مسمار کر ڈالو کہ وہ گمراہوں کے لئے مکرم رہے۔

اس طرح یہودیوں اور مددگاروں کے کئی رسلے ارد گرد کے امصار کو رواں ہوئے کہ اس ملک کے سارے صومعے مسمار ہوں۔ عمرو ولد العاص سواج کے صومعے آئے اور آمادہ ہوئے کہ اُس کو کدال سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے حکم رسول کے عامل ہوں۔ اُس صومعے کا رکھوالا آڑے ہوا اور کہا کہ اس صومعے سے دُور رہو۔ اس گھر کا مالک اُس کے حملہ آوروں کو ہلاک کر دے گا۔ عمرو ولد العاص کدال لے کر آگے آئے اور اک کاہی واد اس طرح ہوا کہ سواج ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرا۔ اس امر کے مطالعہ سے اُس رکھوالے کا دل اسلام کے لئے آمادہ ہوا اور اُسی دم کلمہ اسلام کہہ کر مُسلم ہوا۔ اسی طرح رسول اللہ کے حکم سے اُس ملک کے سارے صومعے اک اک کر کے مسمار ہوئے اور اللہ واحد کا حکم سارے ملک کو حاوی ہوا۔



معرکہ وادی و اوطاس^۱

مکہ مکرمہ سے کئی مرحلے اُدھر سوئے کسار اک وادی ہے۔ وہاں گمراہوں کے کئی گمراہ سالہا سال سے رہے۔ وہ گمراہ لڑائی کے ماہر رہے۔ سارے گمراہوں کو معلوم ہوا کہ اہل اسلام مکہ مکرمہ کے مالک ہو گئے۔ سارے لوگوں کو ڈر ہوا کہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے امور طے کر کے اس وادی کے امصار کے لئے حملہ آور ہوں گے۔

اس لئے ارد گرد کے سارے گمراہ اکٹھے ہوئے اور مصر اوطاس کو درود گا کر کے لڑائی کے لئے آمادہ ہوئے۔ گمراہوں کے سردار مالک کی رائے ہوئی کہ اس سے اول کہ اہل اسلام ہمارے مصر کے لئے رواں ہوں۔ ہم مل کر مکہ مکرمہ اُکر حملہ آور ہوں۔ سارے سالاروں کو مالک کا حکم ہوا کہ ہر آدمی گھروالوں کو ہمراہ رکھے کہ وہ دل کھول کر معرکہ آراء ہو سکے اور گھروالوں کے احساس سے معرکہ گمراہوں کو ڈر رہے۔ ایک معتمر سردار ممتہ کو ہمراہ رکھا کہ وہ سارے گمراہوں کو لڑائی کے امور کے لئے رائے دے اور لوگ اس سے صلاح لے کر اُس کے احکام کے عامل ہوں۔ وہ معتمر سردار مصر اوطاس وارد ہوا اور کہا کہ لڑائی کے لئے وہ مصر دوسرے امصار سے سوا غمہ ہے۔ اس لئے وہاں نہ کے رہو۔

۱۔ غزوہ حنین: حنین۔ طائف اور مکہ مکرمہ کے درمیان ایک وادی ہے اور اوطاس ایک مقام کا نام ہے جہاں غزوہ حنین میں حضرت ابو عامر اشجری رضی اللہ عنہ دشمنوں کے تعاقب میں گئے اور اُن کو زیر کر کے لوٹے۔ (سیرت مصطفیٰ ص ۲۳۱)

۲۔ مالک بن حوف سے درید بن ممتہ

ادھر ہادیؑ کامل صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وادی اور کسار کے لوگ مل کر حملہ آوری کے لئے آمادہ ہوئے۔ ولد حداد اسلمی کو حکم ہوا کہ وہ سوئے اوٹاس رواں ہو اور اعداد کے گرد وہوں کے مکمل احوال معلوم کر کے لوٹے۔ وہ سوئے وادی رواں ہوئے اور سارے احوال معلوم کر کے آئے اور اطلاع دی کہ کساری امصار کے سارے گروہ اکٹھے ہو کر حملہ آوری کے لئے آمادہ ہو گئے۔

ہادیؑ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ اہل اسلام اس معرکے کے لئے مستح ہو کر آمادہ ہوں۔ دس دس سو کے وہ دس رسالے کہ معمرہ رسول سے رسول اللہ کے ہمراہ گئے آئے، وہ سارے لوگ ہمراہ رہے۔ اس کے علاوہ مکے والوں کے دس دس سو کے دو اور رسالے رسول اللہ کے ہمراہ ہوئے۔ اس طرح وہ عسکر طرار مکہ مکرمہ سے ماہ صوم کی آٹھ کو رواں ہوا۔

عسکر اسلام کے اس سوا عدد کے احساس سے مسخو ہو کر عسکر کا کوئی آدمی کہہ اٹھا کہ

”محال ہے کہ عسکر کی کمی کی رُو سے ہم کو رسوائی ملے“

اور کئی لوگوں کو اس عدد کی رُو سے کامنگاری کا احساس رہا۔ مگر کامنگاری اور رسوائی اللہ کے حکم سے ہے۔ عسکر کے عدد اور اسلحہ سے کامنگاری کہاں؟ اس لئے اللہ کو وہ کلمہ مکروہ لگا اور اسی رُو سے اول اول اہل اسلام کی اس معرکے سے ہوا اکھر گئی اور وہ ادھر ادھر ہو گئے۔ اسی کے لئے کلام الہی وار ہوا کہ

لے غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد بارہ ہزار تھی، دس ہزار تو وہی صحابہ تھے جو مدینہ منورہ سے آئے تھے اس کے علاوہ مکہ مکرمہ کے دو ہزار آدمی جن کو معافی دی گئی، وہ بھی ساتھ ہوئے۔

(سیرت مصطفیٰ ص ۲۳۱ ج ۲)

تہ کسی شخص نے کہا کہ ہم قلت کی وجہ سے آج مغلوب نہ ہوں گے۔

۱۰ لوگو! معرکہ وادی کے لمحے لوگوں کے دل عسکر کے سوا عدد کے احساس سے مسحور رہے۔ مگر وہ عدد کس کام کا؟ ساری وادی لوگوں کے لئے کم ہو گئی اور لوگ رُوموڑ کر دوڑ گئے۔“

عسکر اسلام راہ کے مراحل طے کر کے وادئی کُساہ کے وسط رواں ہوا۔ اعدائے اسلام کے گروہ وہاں اول ہی آکر کُساہ کی آڈ لے کر کھڑے رہے۔ سارے گروہوں کو مالک کا اول ہی سے حکم رہا کہ ادھر عسکر اسلام وادی کے وسط آئے اور ادھر سارے گروہ ہل کر حملہ آور ہوں۔

اہل اسلام لا علم رہے کہ اعدائے اسلام کے گروہ وہاں کُساہ کی آڈ لئے کھڑے رہے۔ عسکر اسلام کُساہ کے اک درے سے رواں ہوا کہ معاہر کُساہ کی آڈ سے وہ گروہ حملہ آور ہوئے اور دل کھول کر معرکہ آراء ہوئے اور ہر گھائی سے گروہوں کے حملے ہوئے۔ اس سے عسکر اسلام گراں حال ہو کر ادھر ادھر ہوا۔ اور لوگ حواس گم کر کے معرکہ گاہ سے دور ہو گئے۔ عسکر اسلام اس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہوا اور اہل اسلام اس حد گراں حال ہوئے کہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد کوئی دس آدمی رہ گئے۔

ہمد مکرّم، ہمد عمر، علی کریم اللہ، ہمد اُسامہ اور رسول اللہ کے عجم مکرّم ہادئی کامل کے ہمراہ رہے۔ عجم مکرّم رسول اللہ کے گھوڑے کی لگام لئے رہے۔ اہل اسلام کی وہ کم حوصلگی اور گراں حالی اس لئے ہوئی کہ اہل مکہ کہ مسلمانوں کے ہمراہ رہے، وہ اول معرکہ گاہ سے دوڑے۔ اُس سے اہل اسلام کا حوصلہ کم ہوا اور وہ اہل مکہ کی طرح گم سم ہو گئے اور معرکہ گاہ سے الگ ہوئے۔

۱۱ قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئیں: **وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كُنُزُكُمْ**۔ الخ
۱۲ بنی ہوازن اور بنی ثقیف کے حملوں سے تکتے والے سراپہ ہو کر بھاگے۔ ان کو دیکھا دیکھی دوسرے مسلمان بھی بھاگنے لگے۔

ادھر اعدائے اسلام اس حال سے اور سوا حوصلہ ور ہو کر حملہ آور ہوئے۔ مگر اللہ کا رسول معمول کی طرح دلاوری اور حوصلے سے اعداء کے آگے ڈٹا رہا۔ رسول اکرمؐ کی صدا آئی۔

”لوگو! اللہ کا رسول ہوں، ادھر آؤ۔“

عزمِ مکرّم کو حکم ہوا کہ اہل اسلام کو اس طرح صدا دو۔

”اے اہل التّسمرہ ادھر آؤ۔“

عزمِ مکرّم کی صدا سے ساری وادی معمور ہو گئی۔

اس صدا کو سموع کر کے سارے اہل اسلام کے حواس اکٹھے ہوئے اور ہر سو سے رسول اکرمؐ کے لئے دوڑے اور لگا کر کہا کہ ”ہم آگئے۔ اے اللہ کے رسول ہم آگئے۔“

اس طرح ادھر ادھر سے سارے لوگ اللہ کے رسول کے لئے سمت سمٹ کر اور اعدائے اسلام کے حملوں کو روک روک کر رسول اکرمؐ کے گرد ہوئے اور ہرے سے عسکرِ اسلام محکم ہو کر حملہ آور ہوا اور معرکہ عام گرم ہوا۔

امام مسلم سے مروی ہے کہ رسول اکرمؐ صلی اللہ علیہ وسلم دلدل سے ورو و کر کے کھڑے ہوئے اور اک میٹھی میٹھی لے کر اور اللہ کا اسم کہہ کر دم کر کے سوئے اعداء ڈالی عسکرِ اعداء کا ہر آدمی اُس میٹھی سے آلودہ ہوا اور اہل اسلام کا ڈر دلوں کو طاری ہوا۔ ادھر اہل اسلام حوصلہ وری اور دلاوری سے حملہ آور ہوئے اور اللہ کی مدد آئی اور سردارِ ملائک، اللہ کے ملائک کا گروہ لے کر مدد کو آگئے۔

۱۱۱۱ سمروہ: اُس درخت کا نام ہے جس کے نیچے بیٹھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے وقت بیعت لی تھی۔ (ابن سعد) ❖

وَلَمْ يَطْعَمْ سے مروی ہے کہ گروہ اعداء کی ہارسے کئی لمحے اُدھر سوئے سماء
اک کالی ردا دکھائی دی۔ وہ رداء اللہ کے ملائک کو لے کر آئی۔ اہل اسلام کو
بسرے سے کمال حوصلہ ہوا اور وہ کمال حوصلے اور ولولے سے لڑے اور معرکہ
اقل کی کارکردگی دہرائی گئی۔ مال کار اعدائے اسلام کے سارے گروہ لڑکر جو صلہ
ہار گئے اور اعداء کا سارا عسکر ٹکڑے ٹکڑے ہوا۔ گروہ اعداء کے صہبا آدمی
مارے گئے۔

گروہوں کا سردار مالک اک گروہ کے ہمراہ حوصلہ ہار کر دوڑا اور کسار کے
بمہر آکر اہل اسلام کے حملوں سے دور ہوا۔ دوسرا اک گروہ صمتہ کے ہمراہ اوطاس
بمہر آکر دکھا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیٰ رسولہ وسلم کا حکم ہوا کہ والدِ عامر اک رسالہ اہل اسلام
کا لے کر سوئے اوطاس رواں ہو۔ وہاں والدِ عامر اک حملہ آور ہوئے۔ صمتہ ہلاک
ہوا اور والدِ عامر اک آدمی کے وار سے گھائل ہوئے اور وارِ اسلام کو رہا ہی ہوئے۔

گروہ اعداء کے حد سے ہوا اموال اہل اسلام کو ملے اور اہل اسلام طرح طرح
کے اموال کے مالک ہوئے۔ سارے اموال کے لئے اور اس معرکہ کے محسوروں
کے لئے رسول اکرم کا حکم ہوا کہ وہ اک دوسرے بمہر اکٹھے ہوں اور عسکرِ اسلامی کو حکم ہوا
کہ وہ بمہر کسار کے لئے رواں ہو۔ اس سے اولیٰ ہمدِ عمر دوسی کو حکم ہوا کہ اُس
وادی کے کلڑی کے گھرے ہوئے اللہ کے صومعے کو رواں ہو اور اُس کو آگ لگا کے

۱۔ حضرت جبر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کالی چادر دیکھی کہ آسمان سے اتری ہے اور
اس میں چیزیں ہیں۔ وہ چیزیں سارے میدان میں پھیل گئیں۔ (سیرت مصطفیٰ ص ۳۳ ج ۲)
۲۔ بمہر کسار: طاقت ۳۔ حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ (حوالہ بالا)
۴۔ مقامِ جہان میں قیدی اور مالِ غنیمت جمع کیا گیا۔ (حوالہ بالا) ۵۔ ذوالکفین: اہل
طاقت کا کلڑی کا بت تھا۔

اور سار کر کے لوٹے۔

اہل کسار کا محاصرہ

اُسے مسطور ہوا کہ اعدائے اسلام کا سردار مالک معرکہ گاہ سے کئی گروہوں کو ہمراہ لے کر میسر کسار آکر حصار کے سارے در لگا کر محصور ہوا۔ عسکرِ اسلامی راہ کے گاؤں گوٹوں سے ہو کر اک محل آکر رکا۔ رسول اللہ کا حکم ہوا کہ وہاں اللہ کے اک گھر کی اساس رکھو۔

وہاں سے عسکرِ اسلام رواں ہوا اور میسر کسار آکے رکا۔ اہل کسار اک سال کے لئے اموال و املاک اور اکل و طعام لے کر حصار کے کوڑ لگا کر محصور ہو گئے۔ ہمد عمر دوسی لکڑی کے صومعے کو آگ لگا کر اور اُس اللہ کو سار کر کے وہاں رسول اللہ سے آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیٰ رسولہ وسلم کا حکم ہوا کہ اہل کسار کا محاصرہ کر کے رہو۔

اس محاصرے کو طویل ہوا۔ کئی حملے کئے گئے، مگر حصارِ محکم اسی طرح سدود رہا۔ ادھر اہل حصار کے ”سہام کار“ حصار سے سہام کاری کر کے حملہ آور ہوئے۔ کئی اہل اسلام گھائل ہوئے اور کئی اللہ کے گھر کو سدھارے۔ اہل اسلام کے کئی کرٹے حملے ہوئے۔ مگر کامگاری سے محروم رہے۔

اک سحر کو رسول اللہ کا حکم ہوا کہ حصار کے آگے آکر صداد کو اگر کوئی ملوک حصار سے آکر عسکرِ اسلامی کے ہمراہ ہو گا وہ رہا ہو گا۔ اس صداٹے رہائی کو موع کر کے اٹھا رہ اور دو ملوک حصار سے آکر اہل اسلام سے مل گئے۔ وہ سارے رسول اللہ کے حکم سے رہا ہوئے۔ رسول اللہ کا حکم ہوا کہ کئی لوگ مل کر ملوکوں کے اکل و طعام

لے اس مقام کا نام لید ہے۔ یہاں آنحضرت نے ایک مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ (راج الیر، سیرت مصطفیٰ ص ۲۳۱)

اور آدم کے امور کے عامل ہوں۔

ہمد علی کریم اللہ کو حکم ہوا کہ وہ اک رسالہ لے کر ارد گرد کے امصار کو راہی ہو اور وہاں کے سارے صومعوں کو مسمار کر کے آئے۔ وہ اس مہم کے لئے رواں ہوئے اور سارے صومعوں کو مسمار کر کے لوٹے۔

اسی طرح کوئی آدھے ماہ رسول اکرم صلی اللہ علیٰ رسولہ وسلم وہاں محاصرہ کر کے رہے۔

اک سحر کو ہادٹی اکرم صلی اللہ علیٰ رسولہ وسلم سو کر اُٹھے اور ہمد مکرّم سے کہا کہ ہم کو محسوس ہوا ہے کہ اس سال اس حصار کی کامنکاری کا حصول محال ہے۔ ہمیں اور مددگاروں کی رائے لی۔ اس طرح مال کا رطے ہوا کہ عسکرِ اسلامی محاصرہ اٹھا کر وہاں سے راہی ہو۔ لوگوں کو گراں معلوم ہوا کہ عسکرِ اسلامی مراد سے محروم اس طرح لوٹے۔ اس لئے کئی لوگوں کا اصرار ہوا کہ عسکرِ اسلامی وہاں رک کر حصار کے لئے حملہ آور ہو۔ رسول اللہ کا حکم ہوا کہ اگلی سحر کو حملہ کر کے اصل حال معلوم کر لو۔ اگلی سحر ہوئی۔ وہ لوگ حملہ آور ہوئے۔ مگر حصار والوں کی "سہام کاری" سے کئی اہل اسلام گھائل ہو کر لوٹے۔ اس طرح لوگوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کا امر اسی طرح ہے۔

سورہ عالم صلی اللہ علیٰ رسولہ وسلم کا حکم ہوا کہ عسکرِ اسلامی محاصرہ اٹھا کر وہاں سے رواں ہو اور اُس مہر آکے رکے کہ وہاں اس مہر کے سے حاصل کردہ اموال و املاک اکٹھے ہوئے۔ اس طرح عسکرِ اسلامی وہاں سے راہی ہو کر

لے آنحضرت نے خواب میں دیکھا کہ ایک دودھ سے بھرا ہوا پیالہ آپ کو دیا گیا ہے۔ مگر ایک مرغ نے اسے ٹانگ لڑی اور سارا دودھ گر گیا بھرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ! بیل گمان ہے کہ اس قلعہ کو فتح کرنا زیادہ بھی حاصل نہ ہو گا۔ آپ نے فرمایا۔ میرا بھی یہی خیال ہے اور صحابہ سے مشورہ فرما کر کوچ کا حکم دیا۔
(سیرت مصطفیٰ ص ۳۳۲ ج ۲)

اُس مہر اکبر کا۔

اولادِ سعد کے گروہ کی آمد

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اُس مہر کے رُکے رہے اور اُس لگائے رہے کہ اولادِ سعد کے لوگ آکر اس گروہ کے محصوروں کو رہا کر کے مسرور ہوں۔ مگر اک عرصہ ہوا اور وہ گروہ آمد سے محروم رہا۔ اس لئے رسول اللہ کا حکم ہوا کہ سارے اموال اہل اسلام کو حصہ حصہ کر کے عطا ہوں۔

اک سحر کو معلوم ہوا کہ اولادِ سعد کے گروہ مع سردار کے وارد ہوئے۔ اس گروہ کا سردار ولدِ مُردِ سعدی کھڑا ہوا اور کہا۔ اے اللہ کے رسول! ہمارے دل اسلام کے لئے آمادہ ہوئے۔ وہ سردار اور دوسرے کئی آدمی اُسی دم اسلام لائے۔ گروہ کا سردار ولدِ مُردِ کھڑا ہوا اور رسول اللہ سے کہا اے رسول اللہ! ہم رسول اللہ کی دائی ماں کے گروہ کے لوگ اس معرکہ سے گراں حال ہوئے اور ہمارے گھر والے اہل اسلام کے محصور ہو گئے۔ اس لئے اے رسول اللہ! ہم کو اللہ کے رسول سے عمدہ سلوک کی آس ہے۔ ہمارے اموال اور ہمارے محصور گھروالوں کو ہم کو لوٹا دو۔ دائی ماں کی لڑکی اس گروہ کے ہمراہ آئی۔ رسول اکرم اُس سے مل کر کمال مسرور ہوئے اور سردار سے کہا کہ سارے اموال حصہ حصہ ہو کر اہل اسلام کو مل گئے۔ اسی لئے اموال اور گھروالوں سے کوئی اک اس گروہ

۱؎ بنو سعد: یہ وفد ہوا ذی قعدہ کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت علیمہ سعدیہ اسی قبیلہ کی تھیں۔

۲؎ زہیر بن مُرد: اس وفد کے سردار تھے۔ ۳؎ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن

شیما اس وفد کے ساتھ تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بہن ہوں اور علامت بتائی

کہ بچپن میں آپ نے ایک مرتبہ مجھے دانت سے کاٹا تھا۔ آپ نے اس کو پہچان لیا

اور بہت سا انعام دیا :-

کے حوالے ہو گا۔ اور مردار سے کہا کہ ہم سے اس لمحہ ملو کہ سارے لوگ عبادِ اسلام کے لئے اکٹھے ہوں۔

گروہ کے لوگ اکٹھے ہو کر آئے اور سارے لوگوں کے آگے دل کی مراد کی۔ ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اُٹھے اور گروہ سے ہم کلام ہو کر کہا کہ وہ سارے اموال اور محصور کہ ہمارے اور ہمارے گھر والوں کے حصے آئے۔ گروہ والوں کو حوالے ہوئے اور اہل اسلام سے ہم کلام ہو کے کہا کہ اس گروہ سے عہدہ سلوک کر کے اس کے سارے محصوروں کو گروہ کے حوالے کر دو۔ سارے ہدم و مدد گاہ اُٹھے اور کہا کہ ہمارے سارے اموال اور محصور رسول اللہ کے ہوئے اور ہم آمادہ ہوئے کہ ہمارے سارے اموال اور محصور اس گروہ کو لوٹا دو۔ اس طرح اس گروہ کے لوگ رسول اکرم کی عطاء و کرم سے مالا مال ہو کر لوٹے۔

رسول اللہ کے حکم سے اہل مکہ کو دوسروں سے سوا اموال عطاء ہوئے۔ رسول اللہ کا مدعا اس عطاء و کرم کے معاملے سے رہا کہ اہل مکہ کے دل اسلام کے لئے اور سوا مائل ہوں اور سکتے والوں کی دلدادہی ہو۔

مدد گاہوں کے کئی لوگوں کو احساس ہوا کہ سکتے والوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ سارے لوگوں سے سوا اکرام و عطاء کا ہوا۔ ہمارا حال ساروں کو معلوم ہے کہ ہم سارے لوگوں سے سوا رسول اللہ کے مدد گاہ ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے لئے دل کھول کر لڑے۔

سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ مدد گاہ اس عطاء و کرم کے معاملے سے طول ہو گئے۔ مدد گاہوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ ”اے لوگو! اللہ اور اس

لہ آنحضرت نے فرمایا کہ قیدی اور مال غنیمت میں سے کوئی ایک چیز لے لو۔ انہوں نے قیدیوں کی ہائی کو ترجیح دی۔ ۵۷ چھ ہزار قیدی اسی وقت رہا کئے گئے۔ (سیرت مصطفیٰ ص ۲۳ ج ۲) :-

کے رسول کی مددگاری کہ کہ علم الہی سے مالا مال ہوئے ہو اور اسلام سے اُدھر مالی طور سے اُسودگی سے دُور ہے۔ اللہ کے رسول ہی کے واسطے سے سارے لوگوں کو اموال عطاء ہوئے۔ لوگو! کہو گے کہ ہم اللہ کے رسول کے اُس لمحے مددگار ہوئے کہ اہل مکہ رسول کے عدو ہو کر اس سے لڑے اور اللہ کے رسول کی ہر طرح مدد کی۔ اللہ کا رسول کہے گا کہ ہاں اسی طرح ہوا۔ مگر اے مددگارو! گواہ نہ ہو کہ اللہ کا رسول مددگاروں کے گروہ کا آدمی ہے۔ اس امر سے مسرور ہو کر اُٹھو کہ اہل مکہ مادی اموال و املاک کے حامل ہو کر گھروں کو لاپہی ہوں اور مددگاروں کا گروہ اللہ کے رسول کا حامل ہو کر گھروں کو لوٹے۔ نکتے والوں سے ہمارا وہ کیم کا معاملہ اس لئے ہوا کہ اس گروہ کو سارا عرصہ طرح طرح کے دُکھ، صدمے اور دشواری ملی۔ ہمارا ارادہ ہوا کہ اموال و املاک سے اس گروہ کے دُکھوں کا معمولی مداوا ہو۔ مددگاروں کا گروہ، اللہ کے رسول کا گروہ ہے۔ اس گروہ کا اسلام محکم ہے۔ اس لئے اس سے گھر والوں کا سا معاملہ ہوا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کو مسموع کر کے سارے مددگار صدائے کردار اُٹھے اور اس امر سے کمال مسرور ہوئے کہ اللہ کا رسول مددگاروں کا حامی ہے اور کہا کہ ہمارے دل کی مراد اللہ کا رسول ہے۔ اگر وہ ہمارے ہمراہ ہے، ہم سارے اموال و املاک سے الگ ہوئے۔ وہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے مکہ رواں ہوئے اور

۱۔ آنحضرت کی اس دلگداز تقریر کو سن کر انصاری چیخ پڑے اور اتنا سوئے کہ ڈاڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ (سیرت مصطفیٰ ص ۲۳۳ ج ۲) ❦

ارادہ ہوا کہ عمرہ ادا ہو۔ مکہ مکرمہ آکر عمرے کی ادائیگی ہوئی۔ وہاں کے اک ہندم کہ حصول علم کے دلدادہ رہے۔ رسول اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ کے والی ہوئے اور ان کے مددگار کو حکم ہوا کہ وہاں کے لوگوں کا معلم ہو کر وہاں رہے۔ مکہ مکرمہ کے سارے امور طے کر کے سرورِ عالم صلی اللہ علیٰ رسولہ وسلم کا حکم ہوا کہ عسکرِ اسلام معمورہ رسول کے لئے راہی ہو۔

اس طرح معرکہ مکہ مکرمہ اور معرکہ وادی و اطاس سے کامگاری حاصل کر کے سرورِ عالم صلی اللہ علیٰ رسولہ وسلم معمورہ رسول کے لئے راہی ہوئے اور ڈھائی ماہ کے عرصہ معمورہ رسول سے دور رہ کر معمورہ رسول وارد ہوئے۔ معرکہ وادی و اطاس رسول اللہ کا وداعی معرکہ رہا۔

عُروہ ولیدِ مسعود کا اسلام

اہل کسار کے اک سردار عروہ ولیدِ مسعود کہ کئی ماہ سے مہرِ کسار سے دور رہے۔ وہاں سے مہرِ کسار لوٹے۔ محاصرہ اہل کسار کا سارا حال معلوم ہوا اور لوگوں سے اطلاع ملی کہ سرورِ عالم صلی اللہ علیٰ رسولہ وسلم مکہ مکرمہ کے سارے امور طے کر کے سوئے معمورہ رسول رواں ہوئے۔ سردار کا دل اسلام کے لئے مائل ہوا۔ وہ وہاں سے گھوڑا دوڑا کر معمورہ رسول کی راہ دوڑے اور راہ کے اک مرحلے آکر رسول اللہ سے ملے اور اسلام لاکر رسول اللہ کے حامی

۱۔ حضرت جناب بن اسید رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کے سب سے اول حاکم ہوئے۔ ان کی عمر بیس برس تھی اور علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ (راجح السیر) ۲۔ حضرت معاذ بن جبل کو مکہ مکرمہ کا معلم مقرر فرمایا۔ ۳۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ۲۷ ذی قعدہ ۳ھ کو مدینہ منورہ میں داخل ہوئے (سیرت مصطفیٰ جوادیاں) ۴۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

ہوئے۔ رسول اکرمؐ اُس کے اسلام سے سرور ہوئے۔

وہ سرور اُسٹے اور رسول اللہؐ سے کہا کہ اگر حکم ہو معرکہ سار لوٹ کر وہاں کے لوگوں کو اسلام کے لئے آمادہ کروں۔ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اُس سرور سے ہمکلام ہوئے اور کہا کہ اے عروہ! وہ سارا گروہ اکڑ والا اور ہٹ دھرم گروہ ہے۔ اگر اُس گروہ کو اسلام کے کلمے کے لئے کہو گے وہ عدو ہو کر حملہ آور ہوگا اور اُس کے حملے سے اللہ کے گھر کو سدھارو گے۔ مگر عروہ اُنٹھے اور کہا کہ اے رسول اللہؐ! وہ گروہ سدا سے مراد لداہ ہے۔ اس لئے اُس ہے کہ وہ مراکلامِ مسموع کر کے مسلم ہوگا۔ اس لئے اگر حکم ہو وہاں لوٹ کر سادوں کو اسلام کا حکم کروں۔ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم لے کر عروہ وہاں سے راہی ہوئے اور معرکہ سار اکر لوگوں کو اکٹھا کر کے کلمۂ اسلام کے لئے کہا۔ وہ سارے لوگ معاً اُس کے عدو ہو گئے اور مل کر حملہ آور ہوئے اور اُسی دم عروہ کو مار ڈالا اور اس طرح اللہ کے رسولؐ کا کہا مکمل ہوا۔

اس سال کے دوسرے احوال

دو ایچ مکہ کو آٹھواں سال مکمل ہو رہا ہے۔ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے لوٹ کر آئے اور اللہ کے کرم سے آٹھ سال کا محدود عرصہ لگا کر کلمۂ اسلام دور دور سا ہوا اور گمراہی اور لاعلمی کے سارے گڑھ مسمار ہو کر رہے۔ مکے والوں کی اکثر مٹی ہو گئی اور عدلئے اسلام کی کمر ٹوٹ گئی۔ اسی سال سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اک ولد مسعود مولود ہوا

۱؎ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ اسی سال پیدا ہوئے۔ یام المؤمنین حضرت مادیہ قبیلہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔

اور معمارِ حرمِ سلام اللہ علیہ روحہ کے اسم سے موسوم ہوا۔
اسی سال رسول اللہ کی وہ لڑکی اللہ کے گھر کو سندھاری کہ والدِ عاص کی
اہل رہی۔

اسی سال اک ہمسائے ملک کے حاکم ولید ساوی کو لکھ کر حکم ہوا کہ وہ وہاں
کے اسرائیلی لوگوں سے اور دوسرے لوگوں سے کہ اسلام سے دُور رہے اسلام کا
حقتہ مال وصول کر کے معمورہ رسول ارسال کرے۔

اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے رسول اللہ کے
مددگار اور ہمدرد گرد کے گروہوں اور امصار کے لئے مہم لے کر گئے کہ وہاں کے
لوگوں کو اسلام کے احکام و علوم حاصل ہوں اور وہ مسلم ہو کر راہِ ہدئی کے عامل ہوں۔
ساری مہموں کا سلسلہ کامیاب و مسرور اور اموال سے مالا مال ہو کر لوٹا۔
اس طرح ودايع مکہ کا آٹھواں سال مکمل ہوا۔



۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینبؓ جو ابی العاص کے نکاح میں تھیں، ان کا انتقال
اسی سال ہوا۔ ۲۔ بحرین کے حاکم منذر بن ساوی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ کی وصولی کے
احکام ارسال کئے۔ (طبقات ابن سعد) ۳۔ اسی سال کئی سریرے تبلیغ اسلام کے لئے بھیجے گئے جو
کامیاب ہو کر لوٹے۔ (سیرتِ مصطفیٰ ص ۲۳۶ ج ۲) ❦

معرکہ عُسْرہ

ملکِ روم کے حاکم کو کسی طرح اطلاع ملی کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس دارِ مادی سے دارِ السلام کو راہی ہوئے اور اس ملک کے لوگ مال و طعام سے محروم ہو گئے۔ اس لئے اگر اس ملک آکر حملہ آور ہو گئے کا مگلا ہو گئے۔ حاکمِ روم ہر کس کا دل ملک و مال کی طمع سے معمور ہوا اور وہ اک عسکر طرار اکٹھا کر کے آمادہ ہوا کہ معمورہ رسول آکر حملہ آور ہو۔

ادھر ملکِ روم کے کسی کا دواں کے لوگوں سے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حاکمِ روم حملے کا ارادہ کر رہا ہے۔ ادھر رسول اکرمؐ کا مکی عدو والدِ عامر مکہ مکرمہ سے رواں ہو کر ملکِ روم آکر رہا۔ حاکمِ روم کے ہاں رسائی حاصل کر کے ساعی ہوا کہ وہ کسی طرح حاکمِ روم کو اکسا کر معمورہ رسول کے لئے حملہ آور کرے اور اس کے علاوہ معمورہ رسول کے مکتادوں سے اُس کے معاملے طے ہوئے۔

سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ عسکرِ اسلام ملکِ روم کے رُحلے کے لئے آمادہ ہو اور دوڑ کر ملکِ روم کی سرحد اُسے کہ عسکرِ روم کو سرحد کے ادھر

لے غزوہ تبوک کو سخت آزمائشی حالات کی وجہ سے غزوہ عسْرہ بھی کہتے ہیں عسْرہ کے معنی تنگی اور تکلیف کے ہیں۔
 لے عرب کے عیسائیوں نے ہرقل کو لکھ دیا کہ آنحضرتؐ انتقال فرمائے اور عرب کے لوگ نفاق سے مرہبے ہیں۔ اس لئے حملے کا یہ بہترین موقع ہے (میرت مصطفیٰ ص ۲۵۱ جو ۶) لے ابوعلیہ ناہب آنحضرتؐ کا شدید دشمن تھا، وہ دُرم جلا گیا تھا اور ہرقل کو حملے کی ترغیب دیتا رہتا تھا۔

ہی روک کر حملہ آور ہو۔ رسول اللہ کو ڈر ہوا کہ اگر رومی عسکر معمرہ رسول کے لئے راہی ہوا۔ اس ملک کے ارد گرد کے گروہ اُس کے حامی ہو کر حملہ آور ہوں گے۔ اور اس طرح سارے ملک معرکہ گاہ ہو کر رہے گا۔ اس لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہوئی کہ اس معرکہ کا حال سارے لوگوں سے کھل کر کہہ دو کہ ارد گرد کے گروہ معمرہ رسول اگر اکٹھے ہوں۔

اور معمرہ مکتاروں کو اس معرکہ کی اطلاع سے اس لئے ڈکھ ہوا کہ مکتاروں کے دل اس صد ہا کوس کے رعلے کے لئے آمادگی سے دُور رہے۔ ڈر ہوا کہ اگر وہ اس رعلے سے دُور گرداں ہوئے سارے اہل اسلام کو اس گروہ کی مکتاری کا حال معلوم ہو گا۔ وہ سال اہل اسلام کے لئے کڑا سال رہا۔ اس لئے کہ اُس سے اگلے سال گراں سالی رہی اور وہ موسم کٹائی کا موسم نہ رہا۔ کڑی گرمی اور صد ہا کوس کی راہ۔ الحاصل ہر طرح سے وہ معرکہ کڑے احوال سے گھرا رہا۔ رسول اکرم کے حکم سے اک لمحے کے لئے لوگوں کے دل کسمائے۔ مگر اللہ والے سارے احوال اور سارے مصالح کو محو کر کے اُٹھ کھڑے ہوئے اور اس معرکہ کے لئے آمادہ ہو گئے۔

رسول اللہ کا حکم ہوا کہ اس معرکہ کے لئے لوگ کھلے دل سے اموال دے کر اللہ کے آگے کامگار و مسرور ہوں۔ رسول اللہ کے سارے ہمد و مددگار گھروں سے اموال لے کر آئے اور اللہ کی راہ کے لئے دل کھول کر اموال ادا کئے۔

ہمد و مکرّم گھر گئے اور گھر کے سارے اموال لا کر رسول اللہ کے آگے لا ڈالے۔ رسول اکرم کا سوال ہوا کہ ”گھر والوں کے لئے کوئی مال رکھ کر آئے ہو؟“ کہا۔ ہاں گھر والوں کے لئے اللہ اور اُس کا رسول ہے۔ اس سے اول ہمد و مکرّم گھر کا آدھا مال

لے غزوہ تبوک بڑے سخت حالات میں پیش آیا۔ فصلوں کے کٹنے کا وقت تھا اور پچھلے سال خشک مالی کی وجہ سے پیداوار کم ہوئی تھی۔ اس لئے اس گرمی میں اتنی دور کا سفر بہت صبر آزمائی تھا۔ (اصح السیر و طبقات ابن سعد) :

اللہ کی راہ دے کر مسرور رہے اور دل سے کہا کہ اس امر سے ہمدمِ مکرم سے آگے رہوں گا۔ مگر ہمدمِ مکرم سادہ مال دے کر گھروالوں کو اللہ اور اُس کے رسول کے حوالے کر آئے۔ دل سے کہا کہ محال ہے کہ ہمدمِ مکرم سے سوا کوئی عمل صالح کر کے اُس سے آگے ہو۔ الحاصل ہر طرح سے اموال اکٹھے ہوئے اور اہل اسلام ہر طرح معرکے کے لئے آمادہ ہوئے۔

مکھڑوں کا گردہ ساعی ہوا کہ وہ کسی طرح عسکرِ اسلام کو معمورہٴ رسول ہی روک سکے اور حاکمِ دُوم کے لئے سہل ہو کہ وہ معمورہٴ رسول آکر حملہ آور ہو۔ لوگوں سے کہا کہ کڑی گری اور لُٹ کا موسم ہے۔ اگر اُس ملک کے لئے رہا ہی ہوئے۔ گری سے گراں حال ہو گئے اور اموال کا گھاٹا اٹھاؤ گے۔ کلامِ الہی اس گردہ کی اس سعی کا گواہ ہوا۔

رسول اللہ کا حکم ہوا کہ عسکرِ اسلام دوڑ کر اس معرکے کے لئے رواں ہو۔ مکھڑوں کے گردہ کے لوگ اس طرح کے احوال گھر کر لائے اور ساعی ہوئے کہ وہ اس معرکے سے الگ ہوں۔ مال کا عسکرِ اسلامی معمورہٴ رسول سے ملکِ دُوم کے لئے رہا ہی ہوا۔ محمد ولدِ مسلمہ کے لئے طے ہوا کہ وہ معمورہٴ رسول کے والی اور حاکم ہوں۔ علی کرمۃ اللہ کو حکم ہوا کہ وہ رسول اللہ کے گھروالوں کی رکھوالی کے لئے معمورہٴ رسول ہی رکھے۔ علی کرمۃ اللہ آگے آئے اور کہا کہ اے رسول اللہ! ہم کو گھروالوں کی رکھوالی کے لئے حکم ہوا ہے۔ کہا۔ ہاں۔ ”علی اللہ کے رسول کے لئے اُسی طرح ہے کہ موسیٰ رسول کے لئے اُس کا ولیام“

لے قرآن کریم میں منافقین کا قول ارشاد ہوا کہ قَالُوا لَا تَنْفِرْ فِي الْحَرْ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۚ وہ کہتے ہیں کہ اس گری میں مت نکلو۔ کہہ دو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے۔ لے آنحضرت نے حضرت علیؑ سے فرمایا: انت متی بمنزلہ ہارون من موسیٰ۔ تجھ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی۔

مال کا عسکرِ اسلامی معرکہ روم کے لئے روانہ ہوا۔ مکتاروں کے گروہ کا ایک حصہ عسکرِ اسلامی کے ہمراہ ہوا کہ وہ حاکم روم کو عسکرِ اسلام کے احوال سے مطلع کر سکے۔

عسکرِ اسلام راہ کے مراحل طے کر کے ملک روم کی سرحد کے ادھر اک بمبر آکر رہا۔ ادھر حاکم روم کو عسکرِ اسلام کی آمد کا حال معلوم ہوا۔ وہ عظیم وحی کا ماہر رہا۔ اُس کا دل آگے سے اس امر کا گوارہ رہا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کا رسول ہے۔ اُس کا دل ڈرا کہ اگر وہ اللہ کے رسول سے لڑے گا، تو اسے اور ہلاک ہوگا۔ اس لئے وہ سارے عسکر کو لے کر وہاں سے دوسرے امصار کو روانہ ہوا۔ دوسرے عساکر اس حال سے مطلع ہوئے۔ وہ حوصلہ ہار کر معرکہ گاہ سے دور ہوئے۔

رسول اکرم روم کی سرحد کے اُس بمبر آدھے ماہ سے سوار کے رہے مگر اعدائے اسلام اس حوصلے سے محروم رہے کہ اللہ کے رسول سے آکر معرکہ آراء ہوں۔ اُس ملک کے دوسرے گروہ ادھر ادھر سے آکر مرورِ عالم سے ملے۔ اور کئی گروہ صلح کا معاہدہ کر کے لوٹے اور آمادہ ہوئے کہ اسلام کا حصہ مال ہر سال ادا کر کے صلح کے معاہدے کے عامل ہوں گے۔

حاکمِ دومہ کا حال

حاکمِ دومہ، حکم و مال کی اکثر دل سے لگائے صلح سے الگ رہا۔ سالانہ اسلام کا "حسام اللہ" کو رسول اللہ کا حکم ہوا کہ وہ دو دوسو کے دو گروہ اہل اسلام کے لئے کر حاکمِ دومہ کے لئے رہا ہی ہو۔ ہر دم سالانہ لوگوں کو لے کر اس مہم کے لئے

لے تبوک: یہ ایک چشمہ کا نام ہے۔ یہ دومۃ الجندل کا حاکم اکیتر ۛ

آمادہ ہوئے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اُس سے ہم کلام ہوئے اور کہا کہ اُس لمحہ کہ دُومہ میرا وار دہو گے، دُومہ کا حاکم مصر سے ادھر ہی اس طرح ملے گا کہ وہ اک گلے کے لئے دوڑ رہا ہوگا۔ اُس کو محصور کر کے ہمارے آگے لاؤ۔ سالارِ اسلام، اہلِ اسلام کے اک گردہ کو لے کر میرا دُومہ کے لئے راہی ہوئے۔

ادھر حاکم دُومہ محل کے کوٹھے آکر محوِ آرام ہوا۔ معاً اک گلے محل کے در کے آگے آئی اور محل کے کواڑیٹھوں سے کھڑکھڑائے۔ اس کھڑکھڑاہٹ سے حاکم دُومہ اٹھا اور محل کا در کھول کر آگے آکھڑا ہوا کہ گلے کو مار کر وہاں سے دُور کرے۔ مگر وہ گلے در کے آگے سے دوڑی۔ حاکم گھوڑا لاکر سوار ہوا اور اُس گلے کے آگے آگے دوڑا۔ حاکم دُومہ اور گلے کی دوڑ لگی اور حاکم محل سے دُور ہو کر گلے کے لئے سامعی رہا۔ اُسی لمحہ سالارِ اسلام مع اہلِ اسلام کے وہاں آگئے اور ہمدِ سالار کو اُسی دم معلوم ہوا کہ حاکم دُومہ وہی ہے کہ گلے کے لئے دوڑ رہا ہے۔ حاکم دُومہ کو محصور کر کے ہمدِ سالار سونے معمورہ رسول راہی ہوئے۔ یہ وہ عالم دُومہ کے سرحدی مصر سے عسکرِ اسلام کو لے کر معمورہ رسول لوٹ آئے۔ سالارِ اسلام حاکم دُومہ کو لے کر معمورہ رسول آئے۔

حاکم دُومہ صلح کے لئے دُعا گو ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح کے لئے آمادہ ہوئے اور حاکم دُومہ کا وعدہ ہوا کہ وہ اٹھ سو گھوڑے اور دُود پٹے اموال دے کر صلح کے حکم کا عاقل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حاکم دُومہ رہا ہو کر دُومہ لوٹا۔

۱؎ آنحضرت نے پیشگوئی کر دی کہ اے خالد بن حاتم دُومہ پہنچو گے تو اکیس لاکھ گلے کا شکار کر رہا ہوگا (تیسرے صلی اللہ علیہ وسلم) ۲۵۹
۲؎ اکیس لاکھ دُود پٹے اور چار سو درہیں جزیہ دے کر صلح کی۔ (حوالہ بالا) ۲۶۰

مکاروں کا گڑھ

مکاروں کے گروہ کے کئی سرکردہ لوگوں کی رائے سے معمورہ رسول کے اک محلہ کا اک حصہ لے کر اک گھر کی اساس رکھی گئی اور مدعا رہا کہ وہاں مکار اکٹھے ہو کر اہل اسلام کی رضوائی اور اہل رسائی کے لئے ساعی ہوں اور دھوکے سے اُس گھر کو ”اللہ کا گھر“ کہا۔ مکاروں کی وہ کارروائی اس لئے ہوئی کہ وہ ”عمادِ اسلام“ کی اڑے کر وہاں اکٹھے ہوں۔ اس طرح مکاروں کو اک گڑھ ملے گا۔ طے ہوا کہ سرورِ عالم سے اکر کہو کہ وہ وہاں اکر عمادِ اسلام کے لئے کھڑے ہوں۔ اس طرح اہل اسلام کو معلوم ہو گا کہ وہ اللہ کا گھر ہے اور وہ مکاری کے اس گڑھ سے لاعلم ہوں گے۔ رسول اکرم اُس لمحہ معرکہ عشرہ کے لئے ساعی رہے مکاروں کے لوگ اکر مھر ہوئے کہ اللہ کا رسول وہاں اکر عمادِ اسلام ادا کرے۔ رسول اکرم کا حکم ہوا کہ معرکہ روم سے لوٹ کر اس گھر کا معاملہ طے ہو گا۔

سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملکِ روم سے لوٹ کر معمورہ رسول سے اک مرحلے ادھر اکر آئے۔ وہاں اللہ کی وحی آئی کہ دراصل وہ گھر مکاروں کا اک گڑھ ہے۔ مکاروں کے مکروہ ارادے اس گھر کی اساس ہے۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اس گھر کو سمار کر دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دو مددگاروں مالک اور

لے مسجد مزاج منافقین نے فتنہ و فساد کے ارادے سے تعمیر کی تھی۔ لے قرآنِ کریم میں اس کا تذکرہ ان الفاظ میں آیا ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا صُبْحًا هَضْلًا اَوْ كَفْرًا وَتَغْرِيْبًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَوْسَانُ الْعَنِّ حَادِبِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ مِنْ قَبْلِ۔ اور جن لوگوں نے ایک مسجد بنائی مسلمانوں کو مزید پہنچانے کے لئے اور کفر کرنے کے لئے اور اہل ایمان میں نفرت ڈالنے کے لئے اور اس شخص کے ٹھکانے کے لئے جو اللہ اور اُس کے رسول سے پہلے ہی سے بربر و بیکار ہے :-

وہ عدی کو حکم ہوا کہ مکاروں کے اُس گھر کے لئے دواں ہو اور اُس کو آگ لگا کر اور ڈھا کر لوٹو۔ ہر دو اللہ والے دوڑے ہوئے اُس محلے گئے اور اُس گھر کو آگ لگا دی۔

اس طرح وہ گھر کہ اہل اسلام کی الم رسائی کے لئے مستس ہوا، سدا کے لئے مسما ہوا اور وہ گھر کہ اُس کی اساس اللہ کا ڈھ ہے۔ سدا سدا کے لئے حکم ہوا۔

علماء سے مروی ہے کہ اُس گھر کا وہ حصہ سدا لوگوں سے محروم رہا۔

اہل کسار کا اسلام

اہل کسار کو معلوم ہوا کہ ملک روم کا حاکم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر کر معرکہ گاہ سے الگ ہوا اور عسکرِ اسلام وہاں سے کامگار و سرور اور اموال لے کر لوٹا۔ وہاں کے سرداروں کو احساس ہوا کہ اسلام اور اہل اسلام کو اللہ کی مدد حاصل ہے اور احساس ہوا کہ رسول اللہ کے سامنے اعداء اک اک کر کے نہ سوا ہو گئے۔ اس لئے سرداروں کی رائے ہوئی کہ وہ معمورۃ رسول کو راہی ہوں۔ اس طرح دو کم آٹھ سردار کسار سے معمورۃ رسول کو راہی ہوئے۔ اہل اسلام کو

۱۔ حضرت مالک بن دثیم اور عمن بن عدی رضی اللہ عنہما ص ۲۵۷ ج ۲ ۲۔ مسجد قباء کے بارے میں قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ اُس کی بنیاد تقویٰ پر ہے۔ ۳۔ احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے "معارف القرآن" میں لکھا ہے کہ مسجد خراہ کی جگہ خالی پڑی تھی۔ آپ نے عام بن عدی کو اجازت دی کہ وہ اُس جگہ اپنا گھر بنالیں۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کریم میں اُس جگہ کی بُرائی آئی ہے۔ اس لئے وہاں میں گھر بنانا پسند نہیں کرتا۔ آپ نے وہ جگہ حضرت ثابت بن اقرم کو دے دی۔ مگر وہاں رہے تو ان کے یہاں کوئی پختہ نہ رہا۔ انسان تو کیا وہاں کبوتر اور مرغی بھی اٹھنے دینے کے قابل نہیں رہی۔ وہ جگہ آج تک مسجد قباء کے قریب خالی پڑی ہے۔ (معارف القرآن ج ۴ ص ۴۲۳) ۴۔ طائفت کے چھ سردار عبدیایل کی سرکردگی میں مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ (دائع السیر و میراث مصطفیٰ ص ۲۶) ۵۔

اس گروہ کی آمد سے کمال سرور ہوا۔ ہمدیم مکرم دوڑے ہوئے آئے اور رسول اکرم کو سرداروں کی آمد کی اطلاع دی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ اس گروہ کے لئے الگ اک آرام گاہ حرم رسول سے ملا کر موٹس کرو۔ اس لئے کہ وہ اہل اسلام کے سردار و اطوار اور عماد اسلام کی ادائگی کے احوال کا مطالعہ کر کے اسلام کے لئے مائل ہوں۔ اک مددگار کو حکم ہوا کہ وہ اس گروہ کے طعام و آرام کے امور کے عامل ہوں۔

وہ سردار وہاں آکر رہے اور وہاں کے لوگوں کے اطوار و احوال کا مطالعہ کر کے دل سے اسلام کے مزاج ہوئے اور کلمہ اسلام کہہ کر اسلام لائے۔ اس گروہ کے اک کم عمر سردار کو حکم ہوا کہ وہ اس گروہ کا والی اور سردار ہو اور دو ہمدیموں کو حکم ہوا کہ وہ سرداروں کے ہمراہ ہوئے کسار دواں ہوں اور وہاں آکر وہاں کے صومعے اور مٹی کے اللہ کو مسما کر کے اللہ کے آگے کامگار ہوں۔ ہمدیم رسول سرداروں کے ہمراہ وہاں آئے اور اُس مٹی کے اللہ کو کدال ماری کہ وہ وہاں کے لوگوں کے لئے کمال مکرم رہا۔ مصر کسار کے سارے لوگ گھروں سے آگئے کہ اس اللہ کی مسما کے مال سے آگاہ ہوں۔ وہ مٹی کا اللہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا۔ اس صومعے سے حد سے سوا اموال حاصل ہوئے۔

اس طرح اہل کسار کہ اُس ملک کے سارے لوگوں سے سوا اکڑ والے اور ہنٹ دھرم رہے۔ مائل کا کسی لڑائی اور حملے کے علاوہ ہی اسلام لائے اور اسی

لے خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ لے عثمان بن ابی العاص کو جو ب سے کم سن تھے ان کا سردار مقرر کیا۔ وہ حصول علم کے دلدادہ تھے۔ (اصح السیر و سیرت مصطفیٰ ص ۲۶۷) لے لات؛ اہل طائف کا مشہور بت تھا۔ اس کا نام قرآن کریم میں بھی آیا ہے :-

گروہ کے صداہا لوگ اسلام کے ماہر علماء ہوئے۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا کہ اہل کسار کے لئے اُس لمحہ ہوئی کہ مصر کسار کا محاصرہ اٹھا کر سونے مکہ مکرّمہ رواں ہوئے، مکمل ہوئی۔ اُس دعا کا ماحصل اس طرح ہے۔
 ”و اے اللہ! اس گروہ کو مسلم کر کے ہمارے آگے لا کر دکھا کر“ ۱۰

امصار و ممالک کے گروہوں کی آمد

اس ملک کے سارے گروہوں سے سوا کرم، محکم اور سرداری کا اہل گروہ تھے والوں کا گروہ رہا۔ سارے ہی گروہ اس گروہ کے اکرام سے معمور رہے۔ اس لئے کہ مکے والے اللہ کے حرم اور ”دار اللہ“ کے رکھوالے رہے اور سدا وہاں آئے ہوئے لوگوں کی مال و طعام سے مدد کی۔ مگر مکے والے اسلام اور رسول اللہ کے سارے لوگوں سے سوا عدو رہے۔ ملک کے دوسرے گروہ اسلام کی راہ سے اس لئے نہ رہے کہ مکے والے اسلام سے دور رہے۔ اللہ کا کرم ہوا کہ اہل اسلام کو مصر کے مکہ مکرّمہ سے کھلی کامگاری حاصل ہوئی اور مکے والوں سے ہوائے محدود لوگوں کے سارے اسلام لے آئے۔ اس لئے ملک کے دوسرے امصار کے گروہوں کو معلوم ہوا کہ اسلام ہی اصل راہِ ہدیٰ ہے۔ اسی لئے دور دور سے صداہا گروہ اس سال معمورہ رسول آئے اور رسول اکرم کے آگے اسلام لا کر رسول اللہ کے حامی ہوئے۔ کلامِ الہی کی اک سورہ اسی امر کے

لے ”معاہدہ طائف سے واپسی پر کسی نے آپ سے کہا کہ ان کے لئے بددعا کیجئے۔ آپ نے دعا فرمائی: اللّٰهُمَّ اٰھْدِ ثِقَاتًا وَاٰمَنًا۔ (سیرت مصطفیٰ ص ۲۲۲) ۱۱

لئے وحی کی گئی اور اُس سورہ کے واسطے سے رسول اللہ سے وعدہ ہوا کہ
 ”وہ لمحہ کہ اللہ کی کامکاری اور امداد آئے اور لوگ گروہ درگروہ آکر
 اسلام کے حامل ہوں۔ سو اُس لمحہ اے رسول! اللہ کے آگے دُعا
 اور حمد کر۔“

اس طرح اللہ کا وعدہ مکمل ہوا اور اللہ کے کرم سے دُور دُور کے گرد ہوں
 کے دل اسلام کے لئے مائل ہوتے اور وہ کوسوں دُور کے مراحل طے کر کے
 سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آکر ملے اور اسلام لا کر لاعلمی اور حسد و
 ہوس کی راہ سے ہٹے۔ گھر گھر اور گلی گلی کلمہ اسلام سے معمور ہوئی۔ گروہ کے
 گروہ اسلام سے مالا مال ہو کر گھروں کو لوٹے اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کا
 حکم کر کے لوگوں کے لئے تعلیم اسلام ہوئے۔ ودارِ مکہ کو آٹھواں سال مکمل ہوا۔
 اس سے اگلا سال اور دسواں سال گروہوں کی آمد کا سلسلہ رہا۔ اسی لئے ہر دو
 سال ”گروہوں کے سال“ سے موسوم ہوئے۔ ہر گروہ کی آمد کا اگر الگ الگ حال
 لکھوں اس رسالے کو طول ہوگا۔ کوئی آدھے سو سے کم گروہ معمورہ رسول آئے۔
 اور اسلام کے علوم و احکام سے مالا مال ہو کر لوٹے اور اس طرح دُور دُور کے
 امصار کے لوگوں کو راہ اسلام دکھائی دی۔

ودارِ مکہ کو دسواں سال ہوا۔ اس سال سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے

۱۰ سورۃ نعرین اسی کا ذکر ہے۔ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ الْحَمْدُ لِلَّهِ
 جب اللہ کی نصرت اور فتح ہو جائے اور (اے رسول!) آپ جو حق لوگوں کو دین میں داخل
 ہوتا ہوا دیکھیں تو تسبیح، تحمید اور استغفار میں مشغول ہو جائیے۔ ۱۱ سورۃ اور ۱۲ سورۃ کو علماء
 عام الزہود کے نام سے پکارتے ہیں۔ ۱۳ سیرت کی کتابوں میں جو اہم اہم وفود بیان کئے گئے ہیں
 ان کی تعداد اڑتیس ہے۔

حکم سے کئی ہمد و مددگار اور گرد کے امصار کے لئے مہم لے کر گئے اور اللہ کے کرم سے کامگار ہوئے۔ اسی سال علی کرمہ اللہ کو حکم ہوا کہ وہ ہمسائے ملک کے لئے اہل اسلام کو لے کر راہی ہو اور وہاں کے لوگوں کو کلمۂ اسلام کا حکم کر کے ساروں کو راہِ ہدٰی دکھائے۔ وہ اس مہم کو لے کر وہاں گئے اور کئی گروہوں سے صلح کر کے اور کئی کو مسلم کر کے اور اموال و املاک لے کر لوٹے۔

اسی طرح علی کرمہ اللہ مسطورہ مہم سے کئی ماہ ادھر سرورِ عالم صلی اللہ علیٰ رسولہ وسلم کے حکم سے اک مہم گروہ طے کے لئے لے کر گئے۔ وہاں سے سردارِ عدی ولد طائی کو معلوم ہوا کہ اہل اسلام کی کوئی مہم ادھر آ رہی ہے۔ وہ ڈر کر وہاں سے دوڑا اور ملکِ روم آ کر ٹھہرا۔

علی کرمہ اللہ اول کلمۂ اسلام کہہ کر سر ہٹوئے کہ اسلام لے آؤ۔ مالِ کار معمولی لڑائی کا سلسلہ ہوا اور اُس گروہ کے کئی لوگوں کو محصور کر کے لائے۔ طائی کی لڑکی محصور ہو کر رسولِ اکرم صلی اللہ علیٰ رسولہ وسلم کے آگے آئی اور کہا کہ اس لڑکی کو اللہ کے رسول سے عمدہ سلوک کی آس ہے اور کہا کہ اُسی طائی کی لڑکی ہوں کہ وہ مال و طعام سے سدا لوگوں کی امداد کے لئے ساعی رہا۔

سرورِ عالم صلی اللہ علیٰ رسولہ وسلم کا حکم ہوا کہ اس لڑکی کو رہا کر دو۔ اور اُس کو اموال دے کر عدی ولد طائی کے گھر لوٹا دو۔ اس طرح وہ لڑکی وہاں سے رہا ہو کر کسی کے ہمراہ عدی ولد طائی کے گھر گئی۔ گھر آ کر اُس لڑکی کا اصرار ہوا کہ عدی لامحالہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیٰ رسولہ وسلم سے معمورہ رسول آ کر ملے۔

اس سال کا موسمِ احرام

اس سال کے موسمِ احرام کی آمد آمد ہوئی۔ گمراہوں کی آمد کا سلسلہ حد سے سوا رہا۔ اس لئے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے محال ہوا کہ وہ اس سال عمرہ و احرام کے لئے مکہ مکرمہ راہی ہوں۔ اس لئے رسول اللہ کا حکم ہوا کہ ہم مکرم اہل اسلام کو ہمراہ لے کر سوئے مکہ راہی ہوں اور وہی سارے امورِ عمرہ و احرام کے معکم ہوں۔ اس طرح سوا و رد و سوا اہل اسلام اس سال مکہ مکرمہ کے لئے راہی ہوئے اور ہم مکرم اہل اسلام کے سردار اور والی ہوئے۔

ادھر سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلامِ الہی کی اک سورہ وحی کی گئی۔ اللہ کا حکم ہوا کہ گمراہوں کو اطلاع کر دو کہ اللہ کا حکم وارد ہوا ہے کہ اس سال کے علاوہ سارے گمراہ سدا کے لئے حرم سے دور ہوں۔ اس کے علاوہ عمرہ و احرام کے دوسرے کئی امور کا حکم ہوا۔ ہم مکرم علی کرمہ اللہ کو حکم ہوا کہ وہ دوڑ کر راہی ہو اور عمرہ و احرام کے سارے احکام ادا کر کے گمراہوں کو اطلاع کر دے کہ اللہ کا حکم اس طرح ہوا ہے۔

ہم مکرم علی کرمہ اللہ معمرہ رسول سے راہی ہو کر راہ کے اک مرحلے آکر ہم مکرم

لے جگہ کے لئے مجھے کوئی تبدل غیر منقطع لفظ نہیں مل سکا یو ایلح الام کو دیکھا تو جگہ کے لئے انہوں

نے موسمِ احرام کا لفظ اختیار کیا ہے۔ وہی میں نے بعینہ لے لیا ہے۔ (محمودی)

سے ۳۷ میں حضرت ابوبکر صدیقؓ امیرِ حج ہو کر تین سو مسلمانوں کے ساتھ حج کے لئے تشریف لے گئے۔

سے ۳۸ اسی دورانِ صلوٰۃ توبہ کی وہ آیات نازل ہوئیں جن میں یہ حکم تھا کہ اس سال کے بعد شریکینِ مسجدِ حرام

کے قریب نہ جائیں اور ننگے ہو کر میت اللہ کا طواف نہ کریں۔ وغیرہ :-

سے ملے اور سارا حال کہا اور کہا کہ مامور ہوا ہوں کہ احکام احرام ادا کر کے سارے گمراہوں کو اکٹھا کروں اور کلام الہی کا وہ حقہ سارے لوگوں کے آگے کہوں۔ اس طرح وہ ہمدیم مکرم اور دوسرے اہل اسلام کے ہمراہ مکہ مکرمہ رہا ہی ہوئے اور سارے احکام ادا کر کے لوگوں سے کہا کہ گمراہوں کے سارے گمراہ وہ اکٹھے ہوں۔ نیکے اور ابدگر دے گمراہ وہ اکٹھے ہو گئے۔ ہمدیم علی کرمہ اللہ اے آئے اور کلام الہی کا وہ حقہ سارے لوگوں کے آگے کہا۔ اس طرح اس حکم الہی سے سدا سدا کے لئے گمراہ حدود حرم سے محروم ہو گئے۔ اللہ کے اس حکم سے آگاہ ہو کر نیکے کے لوگ گمراہ درگمراہ اسلام لائے۔ اس طرح سارے لوگوں کو حکم الہی سے مطلع کر کے ہمدیم علی کرمہ اللہ اور ہمدیم مکرم اہل اسلام کو ہمراہ لے کر معمرہ رسول لوٹ آئے۔ مکانوں کے گمراہ کا سر وار و لد ستول ساری عمر اللہ اور اُس کے رسول کا عدورہ کر اسی سال دارالالام کے دکھ والے گھر کے لئے رہا ہی ہوا۔

اسی سال اک اور گمراہ رسول اکرم سے آکر ملا۔ اس گمراہ کے ہمراہ وہ آدمی رہا کہ مدعی ہوا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ رسول اکرم اُس سے ملے، وہ مقرر ہوا کہ اگر اُس کو اس امر و جی کا حقہ دیا کرو وہ مسک ہو۔ رسول اللہ کا حکم ہوا کہ وہ ہر حقہ سے محروم رہے گا۔ وہ لوٹ کر مدعی ہوا کہ اللہ کا رسول ہے۔ صدہا آدمی اُس کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ مال کا وہ کئی سال ادھر ہمدیم مکرم کے ار سال کردہ اک عسکر سے معرکہ آراء ہو کر ہلاک ہوا۔



رسول اللہ کا رحلہ وداع

وداعِ مکہ کا دسواں سال گئے سال کی طرح گروہوں کی آمد کے سلسلے سے رگھرا رہا۔ دُور دُور سے لوگ گروہ درگروہ آکر اسلام لائے اور کلمۂ اسلام دُور دُور کے اقصاء و ممالک کو رسا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمد و مددگار اگلے سالوں کی طرح اس سال وارد گردے اقصاء اور گروہوں کے لئے مہم لے کر گئے اور اللہ کے کرم سے کامگار و مسرور ہوئے۔

آگے مسطور ہوا کہ علی کرمہ اللہ اک ہمسائے ملک گئے کہ وہاں کے لوگوں کو اسلام کی راہ دکھا کر حکم رسول اکرم کے عامل ہوں اُس ملک کا اک سرکردہ گروہ علی کرمہ اللہ کی مساعی سے مسلم ہوا اور اس گروہ کے واسطے سے وہاں کے کئی گروہ اسلام لائے۔

اس سال کے آٹھ ماہ سے سوا کا عرصہ اسی طرح کے اُمود سے طے ہوا۔ موسمِ احرام کے احکام اسی سال وحی کئے گئے۔

اس سال کے موسمِ احرام کی آمد آمد ہوئی۔ اس سے اول سال سرورِ عالم گروہوں کی آمد کے سلسلے کی رُو سے عمرہ و احرام کی ادائیگی سے دُور رہے، اس لئے اس سال سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایادہ ہوا کہ وہ اسلام کے اس اہم حکم کی ادائیگی کے لئے سوئے مکہ مکرمہ راہی ہوں اور موسمِ احرام کے وہ سارے

للہ جنۃ الوداع: یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہے۔

امور کہ اللہ کی درگاہ سے وحی ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو کر اُسوۂ کاملہ کا حصہ ہوں اور لوگ رسول اکرم کے عمل کا مطالعہ کر کے اُس کے عالم و عامل ہوں۔

رسول اللہ کا احترام الوداع

لوگوں کو معلوم ہوا کہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہے کہ وہ اس سال مکہ مکرمہ راہی ہو کر عمرہ و احرام کے احکام کے عامل ہوں گے۔ اس اعلان سے سرور کی اک لہر دوڑ گئی۔ محلے محلے اور گاؤں گاؤں سے لوگ گروہ درگروہ آکر آمادہ ہوئے کہ وہ اس رحلہ مسعود کے لئے راہی ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی سے مالا مال ہوں۔ اس طرح کوئی لاکھ سے زائد لوگ اس رحلہ مسعود کے لئے آمادہ ہو کر اکٹھے ہو گئے۔

ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل اسلام کے ہمراہ معمورہ رسول سے اس سال کے ماہ دہم کے اگلے ماہ رواں ہوئے۔ راہ کے اک مرحلے آکر رُکے اور وہاں آکر لوگوں کو حکم ہوا کہ وہ محرم ہوں۔ وہاں سے احرام اوڑھ کر سوئے مکہ راہی ہوئے۔ رسول اللہ کے ہمد و مددگار ہر ہر گامِ علوم و وحی کے احکام و اسرار سے مالا مال ہوئے۔

اس طرح راہ کے سارے مراحل طے کر کے ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے اک مرحلہ ادھر وادی طویٰ آکے ٹھہرے رہے کہ طلوع سحر ہوا اور وہ مکہ مکرمہ کے لئے راہی ہوں۔ سحر طلوع ہوئی اور لوگوں کو حکم ہوا کہ وہ مکہ مکرمہ کے لئے راہی ہوں۔ رسول اکرم ہمدیوں اور مددگاروں کے ہمراہ مکہ مکرمہ آئے

لے احرام پہنتا۔ یعنی طویٰ: کتب کی ایک وادی :

اور سونے حرم رواں ہوئے۔ راہ کے ہر ہر گام سارے عالم کے مسلمانوں کے لئے اللہ سے دُعا گور ہے۔ دار اللہ کے آگے آکر مہرِ اسود کو لمس کر کے دور کے لئے رواں ہوئے۔ ”دار اللہ“ کا دور کر کے دوسرے احکام ادا ہوئے۔ وہاں سے مستحق آکر سعی کر کے اللہ سے دُعا گو ہوئے۔ کوہِ مروہ سے وارد ہو کر اہلِ اسلام کے ہمراہ لہا ہی ہوئے اور حدودِ مکہ سے آگے ورودِ گاہ کر کے دُکے۔

وہاں سے دوسرے احکام کی ادائیگی کے لئے اس ماہ کی آٹھ کو مکہ مکرمہ سے راہی ہو کر اُس وادی آئے کہ اہلِ اسلام کو حکم ہے کہ وہاں رہ کر دُعا گو ہوں۔ اک عرصہ معلوم وہاں رُک کر وادیِ الرجمہ کے لئے رواں ہوئے۔ کوہِ الرجمہ آکر سارے لوگوں سے ہم کلام ہوئے اور وہ اساسی اور علوم و حکم سے معمور کلام ہوا کہ وہ کلام سارے عالم کے دکھوں کا مداوا ہے اور عالمی امور کا واحد حل ہے۔ اور سارے لوگوں کے مسائل کا اصولی درس ہے۔ اُس کلام کا ماحصل اس طرح ہے۔

رسول اللہ کا اصولی اور اساسی کلام

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہِ الرجمہ سوار ہو کر آئے اور سارے اہلِ اسلام سے اس طرح ہم کلام ہوئے :-

”اے لوگو! اللہ واحد ہے۔ سارا عالم اُس کی ہمسری سے عاری ہے۔
لوگو! اللہ کا وعدہ مکمل ہوا اور اُس کے رسول کی مدد کی گئی اور اُس کے

لے مسعی؛ کوہِ صفا اور مروہ کے درمیان وہ جگہ جہاں سعی کی جاتی ہے۔ ۱۰۰۰۰ سے فارغ ہو کر اپنے گھر سے باہر قیام فرمایا (راج السیرہ ص ۵۲)۔ ۱۰۰۰۰ خطبہِ حجۃ الوداع ۱۰۰۰۰ خطبہِ حجۃ الوداع کا یہ خلاصہ مختلف کتابوں سے جمع کر کے لکھا گیا ہے۔ خصوصاً چیئر مین پورٹ ٹرسٹ کراچی کی جانب سے طبع شدہ خطبہِ حجۃ الوداع سے اس کے کچھ مضامین لئے گئے۔

واسطے سے گمراہی اور لاعلمی کی رسم محو ہو کر رہی۔

لوگو! اللہ کے رسول کے اس کلام کو گمراہ کر لو۔ اے لوگو! اللہ کا کلام ہے کہ سارے لوگ اک مرد اور اُس کی اہل سے مولود ہوئے ہو اور اس لئے گمراہ گمراہ کئے گئے ہو کہ اک گمراہ کو دوسرے گمراہ کا علم سہل ہو۔ وہی آدمی سارے لوگوں سے سوا بکرم ہے کہ اس کا دل دوسرے لوگوں سے سوا اللہ کے ڈر کا حامل ہے۔

اے لوگو! سارے کے سارے آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے مولود ہوئے۔ اس لئے سارے عالم کے لوگ گمراہ ہوں کہ کالے، مالک ہوں کہ مملوک، اس ملک کے ہوں کہ کسی دوسرے ملک کے اللہ کے لئے مساوی ہوئے۔ اس لئے وہی آدمی سرداری کا اہل ہوگا کہ اُس کا دل اللہ کے ڈر سے معمور ہوگا۔

اے اہل مکہ اس لمحہ اور اس محل دورِ لاعلمی کے سارے دعوے محو ہو گئے اور گمراہی کے سارے رسوم بٹ گئے۔ لوگو! اللہ کے حکم سے سود کی ادائیگی اور سود کا حصول حرام ہوا ہے۔ اس سے سدا کے لئے دور رہو۔ سارے لوگوں سے اول اللہ کا رسول سود سے الگ ہوا کہ اُس کے گھر والوں کا دوسروں کو لاگو ہوا۔

لوگو! دوسروں کا مال اُس کے مالکوں کو لوٹا دو۔ اگر کسی سے اُدھار لو اُس کو ہر حال اُس کے مالک کو لوٹاؤ۔ لوگو! گھر والوں اور مملوکوں کا معاملہ اہم ہے۔ اس کے لئے اللہ سے ڈرو اور گھر والی سے اور مملوک لوگوں سے عمدہ سلوک کرو۔

لوگو! اللہ واحد کے مملوک ہو کر رہو اور اسلام کے سارے اساسی

احکام کے عامل رہو۔

لوگو! اس امر سے دُور رہو کہ اک آدمی کے عمل کا فیصلہ اُس کے بڑے اور بڑکی سے لو۔

اے لوگو! اللہ کا رسول دو اہم امور دے کر الوداع کہہ رہا ہے۔ اگر ہر دو امور کے عامل رہو گے، سدا ہر رسوائی سے دُور رہو گے اور کامنکار ہو گے۔ وہ اہم امر اللہ کلام اور اُس کے رسول کا اُسوہ ہے۔ اے لوگو! گواہ رہو کہ اللہ کے سارے احکام اللہ کے رسول سے لوگوں کو مل گئے۔“

لوگ اُٹھے اور کہا۔

”ہم گواہ ہوئے کہ اللہ کے رسول سے ہم کو سارے احکام مل گئے۔ رسول اکرم اللہ سے اس طرح ہم کلام ہوئے۔“

”اے اللہ گواہ رہ! اے اللہ گواہ رہ!“

مہرورد عالم کا حکم ہوا کہ اس کلام سے دوسرے لوگوں کو آگاہ کر دو۔ کوہِ التیمم کے ورود کر کے رسول اکرم وادی کے اک حصے آکر کھڑے رہے اور اک عرصہ رو کر اللہ سے دُعا گو ہوئے۔ وہاں کلامِ الہی کا وہ حصہ وحی ہوا کہ ”لوگوں کے لئے اسلام مکمل ہوا اور اللہ کا کریم کامل ہوا۔“

وہاں سے مہرورد عالم دوسرے احکام ادا کر کے دو کوس اُدھر اک وادی آکر رہے۔ سحر ہوئی۔ لوگوں کو حکم ہوا کہ مٹی کے لئے سوئے ورود گاہ لہائی ہوئے

لے وقتِ عرفہ کے وقت یہ آیت نازل ہوئی: الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا آج ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لئے مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے دینِ اسلام کو پسند کیا

اور احرام کے مسائل کا درس ہوا۔ سارے احکام ادا کر کے اک ہمد کو حکم ہوا کہ وہ
 مونے سر کاٹے۔ وہ ہمد آئے اور رسول اللہ کے مونے سر کاٹ کر سرور ہوئے۔
 کٹے ہوئے مونے سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلدادہ ہمدوں اور مددگاروں
 کو عطا ہوئے۔

وہاں سے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ”دارُ اللہ“ کے دورِ وداعی کے لئے
 رواں ہوئے اور مکہ مکرمہ آکر دارُ اللہ کے دور کی ادائیگی کر کے سوئے ورو دگاہِ لوط
 گئے اور وہاں رک کر رمی کی۔

اس طرح سارے ہمد و مددگار رسول اکرم کے وداعی عمرہ و احرام کے
 ہمراہی رہے اور سرورِ عالم کے حکم سے معمورہ رسول کوٹے۔
 ہمد علی کرمہ اللہ کہ رسول اکرم کے حکم سے معمورہ رسول سے اک ہمسائے
 ملک کے لئے رواں ہوئے۔ مکہ مکرمہ آکر رسول اکرم سے مل گئے اور سارے عرصے
 رسول اللہ کے ہمراہ رہے۔



۱۰ حضرت عمرو بن عبد اللہ ۱۱ داہنی جانب کے بال حضرت ابو طلحہؓ کو عطا ہوئے اور بائیں
 جانب کے بال اُن کو دیئے کہ وہ دوسرے لوگوں میں تقسیم کر دیں ۱۲

رسول اللہ کا سالِ وداع

عسکرِ اُسامہ

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے لوٹ کر معجزۂ نبویؐ آئے۔
وداع مکہ کا دسواں سال مکمل ہوا۔ اگلے سال کے ماہِ محرم سے رسول اکرم کو
دوسرے سال کا سلسلہ ہوا اور اسی سے محموم ہوئے۔

اگلے ماہِ ملکِ روم سے اطلاع آئی کہ اہل روم کئی گروہوں کو اکٹھا کر کے اہل
اسلام سے معرکے کے لئے آمادہ ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم
ہوا کہ ہمدِ اُسامہ اگر رسول اللہ سے ملے۔ حکم ہوا کہ اک عسکرِ اسلام لے کر ملکِ
روم کے لئے راہی ہو اور اس طرح دوڑ کر وہاں وارد ہو کہ ملکِ روم کا عسکر
اہل اسلام کی آمد سے کھلے طور سے لاعلم رہے۔ رسول اللہ کا حکم ہوا کہ ہمدوں کو
مددگاروں کے سرکردہ لوگ اس عسکر کے ہمراہ ہوں۔

سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور عسکرِ اسلامی کا علمِ ہمدِ اُسامہ کو عطا
ہوا۔ عسکرِ اسلامی کے سارے لوگ رسول اللہ کے حال سے دکھی دل رہے
اور کئی ہمدوں کو احساس رہا کہ رسول اللہ کے وصال الی اللہ کا سال آگیا ہے۔
مگر اللہ اور اُس کے رسول کا حکم ہر احساس سے بڑا اہم ہے۔ اس لئے ڈرے

لے محموم: جس کو بخدا ہو (المنجد)۔ علیہ حضرت اُسامہ کی سرکردگی میں حضرت ابو بکرؓ اور حضرت
عمرؓ فاروقؓ جیسے اکابر صحابہ آپ کے حکم سے اس لشکر کے ساتھ رہے۔

ہوئے اور دکھے ہوئے دلوں سے اللہ کے سہارے عسکرِ اسلامی رواں ہوا۔ معمولہ رسول سے رواں ہو کر اک مرحلہ آگے آ کر ٹھہرا۔ وہاں آ کر معلوم ہوا کہ سرورِ عالم کا حال حد سے بڑا کر رہا ہے۔ اس اطلاع سے آگاہ ہو کر عسکرِ اسلام اسی مرحلے تک رہا اور ہمدیم مکرم اور ہمدوم عمر وہاں سے آ کر سرورِ دو عالم کے حال سے آگاہ رہے۔

سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے محال ہوا کہ وہ عمر کے معمول کی طرح ہر عرویس کے گھر آ کر محوِ آرام ہوں۔ اس لئے سارے گھر والوں سے رائے لی اور طے ہوا کہ عرویس مطہرہ کا گھر سرورِ عالم کی آرا نگاہ ہو۔

رسول اللہ کا وصالِ معبود

ہادیٰ کامل صلی اللہ علیہ وسلم سارے رسولوں کے سردار ہو کر اہل اسلام کی اصلاح کے لئے سرا سر کرم و عطا ہو کر آئے۔ ان کے لئے اس عالم ہادی آ کر رہے۔ لوگوں کو راہِ ہدٰی دکھائی۔ اسلام کے احکام و اسرار عطاء کئے۔ لوگوں کو حلال و حرام کا علم عطا ہوا۔ عدل و صلہ دہی، عطاء و کرم ہمدردی و مددگاری کا عمل عام ہوا۔ لوگوں کی اصلاح کا اہم کام مکمل ہوا۔ اگلے لوگوں کے لئے ہر ہر کام کے لئے اسوۂ مطہرہ عطا ہوا۔ اس لئے سارے دوسرے رسولوں کی طرح سرورِ عالم کے لئے حکم وصال آ کر رہا۔ اللہ کا ارادہ ہوا کہ اللہ کا رسول اس عالم ہادی کی اصلاح کا کام مکمل کر کے اللہ واحد سے آئے۔

لے آنحضرتؐ کا معمول تھا کہ ہر دو بجہ مطہرہ کے ہاں باری باری قیام فرماتے تھے۔ علالت کی وجہ سے یہ کم نہ رہا۔ اس لئے سب کی اجازت سے حضرت عائشہؓ کے حجرے میں قیام فرمایا۔ (راج السیرۃ)

سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے عرصے عروسِ مطہرہ ہی کے گھر ہے۔
گاہے گاہے در کی کمی محسوس ہوئی اور لوگوں کے سہارے اگر حرمِ رسول عمادِ اسلام
کے لئے کھڑے ہوئے۔ اسی طرح اک سحر کو حرمِ رسول اگر عمادِ اسلام ادا کی اور ہمدیوں
اور مددگاروں سے ہم کلام ہوئے۔ اس کلام کا حاصل اس طرح ہے :-

”اک آدمی کو اللہ کا حکم ہوا کہ اگر اُس کا ارادہ ہو وہ عالمِ مادی کا
آدام لے لے اور اگر اُس کا ارادہ ہو وہ اکرام لے لے کہ اللہ کے
گھر ہے۔ اس لئے اُس آدمی کی رائے ہوئی کہ وہ اللہ کے گھر
کو رہا ہی ہو“

اس کلام کو مسنون کر کے ہمدیم مکرم رو اُٹھے۔ اس سے لوگوں کو احساس
ہوا کہ ”اُس آدمی“ سے مراد اللہ کا رسول ہے۔ ہمدیم مکرم کی دلدادہی کے لئے اللہ
کے رسول کا کلام ہوا کہ :

”وہ آدمی کہ اُس کی ہمدی اور اُس کے مال سے اللہ کے رسول کو سہارا
ملا ہمدیم مکرم ہے۔ اُس کا دل دوسروں سے سوا اللہ اور اُس کے
رسول کے احساس سے معمور ہے“

لوگوں سے کلامِ وداعی کر کے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے
سہارے گھر آ گئے۔

درِ حدیث سے سوا ہوا اور اسی لئے سرورِ عالم کے لئے محال ہوا کہ وہ حرمِ رسول
اگر لوگوں کے ہمراہ ”عمادِ اسلام“ کے لئے کھڑے ہوں۔ ہمدیم مکرم کو حکم ہوا کہ وہ ہر
عمادِ اسلام کی ادائیگی کے لئے لوگوں کے امام ہوں۔ علماء سے مروی ہے کہ لوگوں کی
رائے ہوئی کہ ہمدیم مکرم کا دل ملائم ہے، اس لئے عمر مکرم امام ہوں۔ مگر سرورِ عالم
کا اصرار ہوا کہ ہمدیم مکرم ہی امام ہوں۔

رسول اکرم کا دردِ حد سے سوا ہوا۔ سارے اہل اسلام رسول اکرم کے لئے دل سے دعا گو رہے، مگر اللہ کا حکم ہو کہ رہا۔ وصالِ مسعود سے اُدھر درد کو کمی ہوئی۔ حکم ہوا کہ لاؤ! آگے کے دور کے لئے اولی الامر کا حکم لکھوا دوں۔ مگر عمر مکتوم آگے آئے اور لوگوں سے کہا کہ اللہ کے رسول کو حد سے سوا درد ہے۔ اس لئے اس لمحے رسول اللہ کو اس ڈکھ سے دور ہی رکھو۔ اللہ کا کلام اور رسول اللہ کا اُسوہ ہمارے لئے مکمل ہوا۔ ہم کو ہر عمل کا حکم اُس سے معلوم ہو رہا ہے گا۔ کئی لوگ عمر مکتوم کے ہم رائے ہوئے۔ دوسروں کی رائے ہوئی کہ اس حکم کو لکھوا لو۔ ہر درد رائے والے لوگ اک دوسرے سے ہم کلام ہوئے۔ رسول اللہ کا حکم ہوا کہ لوگ وہاں سے اُٹھ کر الگ ہوں۔

اُسی لمحے رسول اللہ کا کلام ہوا کہ اس ملک سے سارے گمراہوں کو دور کر دو اور اگر ادا کر دے گے گروہِ معمرہ رسول وارد ہوں۔ ساروں کو اسی طرح مال ادا کر دو کہ ہمارا معمول رہا۔

رسول اللہ کے وداعی لمحے

اسی سال کے ماہِ سوم دس اور دو ہے۔ سوموار کی سحر ہوئی۔ رسول اکرمؐ سحر کی عبادِ اسلام کے لمحے گھر کے در سے لگ کر کھڑے ہوئے۔ اہل اسلام عبادِ اسلام کے لئے آمادہ ہوئے۔ سرورِ عالم مسکرائے۔ مگر درد کی کسک سے اُسی دم وہاں سے ہٹ گئے۔ سرورِ عالم کی وہ مسکراہٹ وداعی مسکراہٹ ہوئی۔

لے آنحضرتؐ نے جبرائیل کو یعنی وصالِ مبارک سے چار دن پہلے لوگوں سے فرمایا کہ غذا اور قلم و دات لاؤ تاکہ تمہارے لئے ایک وصیت نامہ لکھوا دوں۔ حضرت عمر فاروقؓ نے فرمایا کہ بیماری کی وجہ سے آپؐ کو تکلیف ہوگی۔ دوسرے لوگوں کی رائے ہوئی کہ وصیت نامہ لکھوا لیا جائے۔ اختلاف رائے کی آوازیں رسول اللہ کے کانوں میں آئیں۔ آپؐ کا حکم ہوا کہ لوگ وہاں سے اُٹھ جائیں۔ (سیرتِ مصطفیٰ ص ۳۱) ❖

عروسِ مطہرہ سے مروی ہے کہ اُسی دم ہمدِ مکرم کے لڑکے اور رسول اللہ ﷺ کے سالے مسواک لئے اُدھر آئے۔ رسول اللہ ﷺ روئے سعود سے محسوس ہوا کہ مسواک کا ارادہ ہے۔ عروسِ مطہرہ اُٹھی اور کہا کہ اے رسول اللہ! مسواک لاؤں۔ کہا: ”ہاں“ مسواک لائی گئی اور سرورِ عالم کو دی گئی۔ کئی لمحے مسواک کی۔ مگر معاً رسول اللہ ﷺ سے مسواک گر گئی اور وداعی کلمہ کہا کہ۔

”اے اللہ! اے اعلیٰ گھر والے“

عروسِ مطہرہ سے مروی ہے کہ اس کلام کو مسموع کر کے ہم کو احساس ہوا کہ رسول اللہ ﷺ ہم سے دُور ہو کر ملائعِ اعلیٰ کو راہی ہوں گے۔

اس طرح کہہ کر ہادیٰ کامل صلی اللہ علیہ وسلم ساٹھ اور سہ سال اس عالمِ مادی کی عمر کے مکمل کر کے سو موار کو دارالسلام کے لئے راہی ہو کر اللہ واحد سے آئے اور اللہ کا رسول اللہ کے حکم سے اس عالمِ مادی سے سدھارا۔

(ہم سادوں کا اللہ مالک ہے اور ہر آدمی اُسی کے ہاں لوٹے گا۔)

لاکھوں درود و سلام ہوں اُس ہادیٰ کامل کے لئے کہ اُس کی عمر کا ہر لمحہ اور اُس کا ادا کردہ ہر کلمہ اہلِ عالم کے لئے اُسوہ ہو کر رہا۔ لاکھوں درود و سلام ہوں اُس رسولِ اُمّی کے لئے کہ اُس کے واسطے سے اہلِ عالم کو گمراہی، لاعلمی، ہوسِ کاری اور مکاری سے رہائی ملی۔ لاکھوں درود و سلام ہوں اُس عادلِ کامل کو کہ اُس کی آمد سے دکھی لوگوں کی دادرسی ہوئی۔ لاکھوں سلام ہوں اُس رسولِ ملحمہ کو کہ اُس کے حکم سے دورِ لاعلمی کے سارے معاملے مٹی ہو کر رہے اور ساری لاعلمی کے رسومِ محو ہوئے۔ لاکھوں درود ہوں اُس سالارِ اُتم کو کہ اُس کی مساعی سے گمراہی

لے آنحضرت کے آخری الفاظ تھے: اللّٰهُمَّ الرَّفِیقَ الْاَعْلٰی۔ ”اے اللہ! میں رفیقِ اعلیٰ بن جانا چاہتا ہوں۔ (سیرتِ مصطفیٰ ص ۳۱)“

اور لا علی کے حصارِ مسمار ہوئے۔

اے اللہ! اے ہمارے مالک و مولیٰ! ہمارے پادشہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ محل محمود عطا کر کہ اُس کا وعدہ اللہ کے رسول سے ہوا۔ اے ہمارے مالک! ہم ساروں کو اُس رسولِ کامل کی دکھائی ہوئی راہ کا عامل کر دے اور اہل اسلام کے سارے مسلمانوں کو کلامِ الہی کے احکام کا دلدادہ کر کے اہل عالم کا امام کر۔

اہلِ مطالعہ سے

اللہ کا کریم ہے اور اُس کی عطائے کامل ہے کہ اس رسالے کا کام مکمل ہوا۔ اہلِ مطالعہ سے اور اہلِ علم سے اُس ہے کہ وہ اس رسالے کا مطالعہ کر کے اس کے محرر کے لئے دُعا گو ہوں گے کہ اللہ اس کی اس سعی کو وصال کر کے اُس کو ہر دو عالم کی کامگاری عطا کرے۔

محرر
محمد ولی

(اٹھارہ مئی سالِ آتی اور دو)



حرفِ ناشر

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔

خاتم الانبیاء رحمتِ دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مستند احوال پر لکھی گئی اُردو کی سب سے پہلی غیر منقوط سیرت ہادی عالم کے کئی ایڈیشن اب تک آپ کی خدمت میں پیش کئے جا چکے ہیں۔ ہم نے اُردو کے اس نادر اور منفرد شاہکار کی کتابت و طباعت کے سلسلے میں اپنی ہر ممکن کوشش کی ہے کہ ہم اسے زیادہ سے زیادہ خوبصورت اور معیاری انداز میں قارئین تک پہنچائیں۔ ہم اپنے مقصد میں کہاں تک کامیاب رہے ہیں اس کا اندازہ ہمیں قارئین کی طرف سے موصول شدہ ان بے شمار خطوط سے ہوا جن میں اس کتاب کے معیار کو سراہا گیا ہے۔

ملک و بیرون ملک ہادی عالم کا استقبال جس ذوق و شوق اور والہانہ انداز میں کیا گیا اس کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ پہلا ایڈیشن بازار میں آتے ہی ہاتھوں ہاتھ نکل گیا۔ اور اس کے کاغذ، کتابت و طباعت اور جلد بندی کے معیار کو ہر طبقہ نے پسند کیا۔ البتہ بعض حضرات کی طرف سے یہ اعتراض کیا گیا کہ اس کی قیمت کچھ زیادہ ہے۔ اس سلسلہ میں یہ عرض کر دینا کافی ہو گا کہ منگائی کے اس دور میں اس معیار اور اس نوعیت کی کتاب کو موجودہ قیمت پر لانے کے لئے ہمیں جو پاڑ پٹیلنے پڑے اس کا اندازہ کچھ ہم ہی کر سکتے ہیں۔

”ہادی عالم“ کے قیام شدہ جدید ایڈیشن میں جو اس وقت آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے، مصنف مدظلہم نے چند مفید اضافے کئے ہیں اور گزشتہ ایڈیشنوں میں کتابت و طباعت کی

جو اغلاط باقی رہ گئی تھیں انہیں بہت اہتمام کے ساتھ درست کر دیا گیا ہے اور باوجود قیمتوں میں معتد بہ اضافہ کے، اس ایڈیشن میں قیمت میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا جبکہ صفحات کی تعداد بڑھ گئی ہے۔

مصنف مدظلہ کو بہت سے خطوط ایسے ملے جن میں یہ تجویز پیش کی گئی تھی کہ کتاب کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی کی ایک فہرست بھی شامل کر دی جائے۔ چنانچہ موجودہ ایڈیشن میں اس کتاب کے مشکل الفاظ اور غیر منقوط متبادلات کی ایک فہرست شامل ہے۔

آخر میں اللہ تعالیٰ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اُس نے مجھے یہ فخر عطا کیا کہ میں اپنے والد ماجد جناب مولانا محمد ولی رازی کی اس نادر تالیف اور اردو کی سب سے پہلی مائے ناز غیر منقوط سیرت ”ہادی عالم“ کی طباعت و اشاعت کی سعادت حاصل کر سکا۔ اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے کہ نہایت قلیل عرصے میں ”ہادی عالم“ کو مرثیاتی مقبولیت حاصل ہوئی۔

امید ہے کہ اس نئے اور جدید ایڈیشن کا معیار قارئین کو گذشتہ ایڈیشنوں سے زیادہ پسند آئے گا اور وہ اس سے مستفید ہوتے وقت ناشر اور مصنف کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔

دعاؤں کا طالب

فرید اشرف عثمانی

حاضر العلم، السبیلہ چوک، کراچی نمبر ۵

عرضِ مؤلف

میرے جسم کا ہر رُواں اگر زبان بن جائے تو بھی حق تبارے شانہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اُس نے مجھ جیسے بے علم و عمل آدمی کو سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کو غیر منقوٹ اُردو میں لکھنے کی عظیم سعادت کا ایک ذریعہ بنالیا۔ الحمد للہ! یہ بات تو اپنی جگہ حیرت انگیز ہے ہی کہ اُردو جیسی تنگ زبان میں بغیر نقطوں کے لکھی ہوئی ایک اچھی خامی ضخیم کتاب وجود میں آگئی، میرے لئے اس سے زیادہ حیرت انگیز امر یہ ہے کہ اس کی تالیف اور نظر ثانی میں صرف ایک سو ایک دن کا عرصہ لگا۔

۱۳ مارچ ۱۹۸۲ء کو یہ کام باقاعدہ شروع کیا گیا۔ پہلا مسودہ ۱۹ مئی ۱۹۸۲ء کو مکمل ہوا۔ پھر بعض اضافوں اور نظر ثانی کے لئے دوسرا مسودہ لکھا گیا جس میں ایک ماہ کا عرصہ لگا۔ اپنی علمی بے بضاعتی کے پیشِ نظر اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ میرے والدین (اللہ تعالیٰ اُن کے درجات بلند فرمائے) اور میرے بزرگوں کی دعاؤں سے اللہ جل شانہ نے اس احقر سے یہ پہاڑ جیسا علمی اور ادبی کام بڑی سہولت سے کرا دیا۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ !

”کلموں کی مراد“ کے عنوان سے جو الفاظ و معانی کی فہرست کتاب کے آخر میں شامل کی گئی ہے اُس کو دیکھنے سے اندازہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے اُردو جیسی تنگ زبان میں منقوٹ الفاظ کے کیسے کیسے متبادلات عطا فرمائے ہیں۔ مثلاً مدینہ منورہ کے لئے معمورہ رسولؐ پیشِ لفظ کے لئے سطورِ اول ”مسجد نبویؐ کے لئے ”حرمِ رسولؐ“ اور بیت اللہ کے لئے ”دار اللہ“ وغیرہ وغیرہ۔ میں اپنے برادرِ عزیز جسٹس مولانا محمد تقی عثمانی سلمہ کا خصوصیت سے ممنون ہوں کہ ہر مرحلے پر اُن کے قیمتی مشورے میرے لئے بہت مفید ثابت ہوئے اور اُنہوں نے کتاب کے

لئے ایک پُرمنز اور تحقیقی مقدمہ تحریر کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین! یہاں
میں اپنی اہلیہ اور دونوں لڑکیوں کا بھی تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں، اہلیہ کا اس لئے کہ ہر قدم پر
انہوں نے میری ہمت بڑھائی اور لڑکیوں کا اس لئے کہ ”ہادی عالم“ کے مسودے کی بار بار
خواندگی میں انہوں نے میری مدد کی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ آمین!
نا انصافی ہوگی اگر میں اپنے ان احباب اور کرم فرماؤں کا شکریہ ادا نہ کروں جنہوں نے اس
کتاب کی تالیف سے لے کر اس کے طبع ہونے تک ہر ہر مرحلے پر دامن، درمے،
سخنے بھر پور تعاون کیا۔

پہلے ایڈیشن کے منظر عام پر آنے کے بعد ملک کے گوشے گوشے سے اور بعض بیرونی
ممالک سے تعریف و تحسین کے خطوط کا ایک تاننا بندھ گیا۔ میں ان تمام حضرات کا شکریہ گزار
ہوں کہ انہوں نے ہمت افزائی فرمائی۔ خاص طور پر ان اہل علم کا بہت ممنون ہوں جنہوں نے
ہادی عالم کا مطالعہ بڑی عین نظر سے کیا اور کتابت و طباعت کی چھوٹی بڑی غلطیوں کی نشاندہی
کی۔ انہی کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا کہ موجودہ ایڈیشن ان تمام غلطیوں سے پاک ہے۔
آخر میں میں اپنے بیٹے عزیزم فرید اشرف عثمانی سلمہ کو دعاؤں کا نذرانہ پیش کرتا ہوں
جو انتہک محنت اور لگن کیساتھ اس کتاب کو ہر طرح سے معیاری بنا کر منظر عام پر لانے میں کامیاب
ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ انہیں علم صحیح اور عمل مقبول کی دولت عطا فرمائے۔ آمین!

محمد ولی رازی

۴۴- بی، اشرف منزل ہنٹنل لسبیلہ چوک، کراچی نمبر ۵

فون نمبر: ۷۸۶۴۷



کلموں کی مراد

کلمہ	مراد	کلمہ	مراد
آرام گاہ رسول (د)	عزیزہ رسولؐ، وقفہ مبارک	آئم	آئمت کی جمع
آردوئے معزا	غیر منقوٹ آردو	اوطاس	دادی جنین کا ایک مقام
راسراء	معراج	اولاد سعد	بنو سعد
اسرائیلی	یہودی	اولاد عمرو کا گاؤں	قباء، بنو عمرو بن عوف کی آبادی
اسرائیلی گروہ سے متحرک	غزوہ بنو قینقاع	اہل السمرہ	بیعت رضوان کے شرکاء
اسرائیلی گروہ سے دوسرا متحرک	غزوہ بنو نضیر	اہل کسار	اہل طائف
آسرہ	خاندان	(ح)	
اسلامی سال کا سلسلہ	سن ہجری کا آغاز	حاکم مردود	ابراہیم بن الاثرم
احمدہ	سجاشی کا اصل نام	حرم رسول	مسجد نبوی
اطواء محمودہ	اخلاق حسنہ	حسام	تلوار
اعلا	ترقی بلندی	حصار	قلعہ
اعلام	علامات، آثار	حمام صحرائی	جنگلی کبوتر
الہ	بت	(د)	
الترج	حضرت جبریل علیہ السلام	دارالآلام	دوزخ
المدراس	مدینہ میں یہودیوں کا مدرسہ	دارالترائے	دارالندوہ
امصاار	مصر کی جمع - شہر، ملک -	دارالسلام	جنت
امطار	مطر کی جمع - بارشیں	دارالشد	بیت اللہ
		دارالکوه	دارالرقم

کلمہ	مراد	کلمہ	مراد
دارالمطہر	بیت المقدس	سُلّ	پانی کا چشمہ
درّہ کوه	شعب ابی طالب	سُک	مچھلی
دور	طواف	سہام کاہ	بیرانداز
دورِ ارباب	نبوت سے پہلے کا عرصہ	سہم	حصہ
(س)		(ص)	
راعی	گھڑبان، چرواہا	صاد	تصدیق کرنا
راہوار	شہسوار	صدائے عبادِ اسلام	اذان
رحلہ اقل	ہجرتِ اولیٰ	صدرِ مسجد	سینہ مبارک
رحلہ و دارِ مکہ	ہجرتِ مدینہ کا سفر	مغود	چڑھنا، بلند ہونا
رداء	چادر	صلائے عام	عام حکم
ردِ کلام	بات کا جواب	صلۃ دم	نحوں کا انتقام
ردِ سادہ	ایران کا ایک دریا	(ط)	
روح اللہ	حضرت عیسیٰ علیہ السلام	طہار	بہت لالچی
رُؤساء	رئیس کی جمع، سردار	طہرہ	طہارت، آبِ بستی
رہوم	لاغر بکری	(ع)	
(ص)		عالمِ معاد	آخرت
ساعی	کوشش کرنے والا	عالمِ وحی	آسمانی کتابوں کا علم
سردارِ مکہ	ابوسفیانؓ	عرویں مطہرہ	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
سعی	کوشش	عرویں مکرمہ	حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا
سلاسل کی مہم	غزوہ ذاتِ السلاسل	عساکر	عسکر کی جمع، لشکر

کلمہ	مُراد	کلمہ	مُراد
عسکرِ آسامہ	جیشِ اُسامہ	مٹی کے الہ	پتھر کے بُت
علو	ترقی، بلندی	محکم	مضبوط
علمی رسائل	کتاب کے مآخذ	محلہ کدنی	مکہ مکرمہ کا ایک محلہ
عمادِ اسلام	نماز	مددگارِ رسول	انصار
عہدہ سلوک کا معاہدہ	عقدِ مواخات	مددگاروں کا عہدہ	عقبہ اولی و ثانیہ
علمِ اسد اللہ	حضرت حمزہؓ	مرمرِ اسود	حجرِ اسود
علمِ سردار	حضرت ابوطالب	مسطور	تحریر ہونا
عمرو (محرورِ حکم)	ابو جہل	مسموع کر کے	سُن کر
علمِ عدو	ابو لہب	مسموم	لہ ہریلا
(لج)		مصادر	پہلوان
کامگار	کامیاب	مصادعہ	گشتی
(گ)		معاہدہ صلح	صلح حدیبیہ
گروہوں کا سال	عالم الوفود	معاہدہ عدم سلوک	مسلمانوں کا بائیکاٹ
(ل)		معرکہ	غزوہ
لس	چھونا	معرکہ اُحد	غزوہ اُحد
لوحِ مرتع	منقش تختی	معرکہ اُقل	غزوہ بدر
(م)		معرکہ دُومہ	غزوہ دُومۃ الجندل
ماحصل	مفہوم، خلاصہ	معرکہ سلح	غزوہ خندق
مالِ دم	خون بہا	معرکہ عُسُورہ	غزوہ تبوک
مالِ کامگاری	مالِ غنیمت	معرکہ موعِد	غزوہ بدرِ ثانی
ماہرِ کلام	شاعر	معرکہ وادیِ دارطاس	غزوہ حنین
ماہِ طاہر	آبِ زمزم		

کلمہ	مراد	کلمہ	مراد
معادِ حرم	حضرت ابراہیمؑ	وداع مکہ کا سال	ہجرت کا سال
معاری	تعمیر	وصالِ مسعود	آنحضرتؐ کا وصال مبارک
معمورہ رسول	مدینہ النبیؐ	ولد اُمّ	بھائی
معمورہ رسول کا معارف	میشاقِ مدینہ	ولدِ رواد	حضرت عبداللہ بن روادؓ
مکارہ	مکمرہ کی جرح، برائیاں	ولدِ سلول	حضرت عبداللہ بن اُئی سلولؓ
مکاروں کا گروہ	منافقین کی جماعت	ولدِ العوام	حضرت زبیر بن العوامؓ
مکاروں کا گڑھ	مسجدِ منارہ	(ک)	
ملکی گھوڑا	براق	ہمدِ داماد	حضرت عثمان غنیؓ
مولد	جائے پیدائش	ہمدِ رسولؐ	صحابی
مسم	سر پہ	ہمدِ علی کرم اللہ وجہہ	حضرت علی کرم اللہ وجہہؓ
(۹)		ہمدِ عمر	حضرت عمر فاروقؓ
والدِ سلمہ	حضرت ابوسلمہؓ	ہمدِ ولد	حضرت زید بن حارثہؓ

اس رسالے کے علمی وسائل

- | | |
|------------------------|------------------------|
| (۱) تفسیر معارف القرآن | (۶) اصح السیر |
| (۲) سیرت خاتم الانبیاء | (۷) سیرت النبی جلد اول |
| (۳) صحیح بخاری اردو | (۸) تاریخ اسلام |
| (۴) سیرت مصطفیٰؐ | (۹) المنجد |
| (۵) طبقات ابن سعد اردو | (۱۰) اردو لغت |



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حکومت پاکستان وزارت امور مذہبیہ اسلام آباد



نمبر (۱۲) ڈس/آر/آر/۸۳

تاریخ ۱۲ ربیع الاول ۱۴۰۴ھ
۱۸ دسمبر ۱۹۸۳ء

سند امتیاز

نہایت مسرت سے تصدیق کی جاتی ہے کہ جناب مولانا محمد ولی رازوی
کی تالیف کردہ کتاب ہادی عالم ہرمان اردو کتب سیرت النبیؐ کے قومی مقابلہ پر سال
۱۳۰۲-۳ میں اول انعام کی مستحق قرار پائی اور مولف موصوف کو مبلغ دس ہزار
روپے حکومت پاکستان کی طرف سے بطور انعام دیئے گئے۔

عرفان احمد امتیازی

سیکرٹری

وزارت امور مذہبیہ حکومت پاکستان
اسلام آباد